

خواتین اسلام


جامع

مفتی انتظام اللہ شہابی

ناشر

مدنیہ پبلشنگ کمپنی مشہور محل میٹرو ڈروڈ کراچی
(مشہور پریس کراچی)

مدنیہ پبلشنگ کمپنی
۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰



DATA ENTERED

فہرست خوانین اسلام

۱۳۲۱۵

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۳	مقدمہ	۱
۹	امم الانبیاء حضرت ساری علیہ السلام	۲
۹	حضرت ہاجرہ	۳
۱۰	حضرت آمنہ بنت وہب	۴
۱۴	آنحضرت کی ذرہ پانی حلیمہ سعدیہ	۵
۲۱	مناقب صحابیات	۶
۲۸	④ اُم المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا	۷
۳۳	حضرت خدیجہ کی اولاد	۸
۳۷	نبوت کا ظہور اور حضرت خدیجہ کی شہادت	۹
۳۹	حضرت خدیجہ کی وفات	۱۰
۴۲	② حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا	۱۱
۴۸	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلعم کی محبت اور دوسرے حالات	۱۲
۵۳	حضرت عائشہ کی وفات	۱۳
۵۴	حضرت عائشہ کا علم و فضل	۱۴
۵۸	سیرت عائشہ پر ایک عمومی تبصرہ	۱۵
۶۵	③ اُم المومنین حضرت سوودہ رضی اللہ عنہا	۱۶

ب

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۶۹	ام المومنین حضرت حفصہ رضی	۱۷ (۴)
۷۴	ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی	۱۸ (۵)
۷۵	ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی	۱۹ (۶)
۸۵	ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی	۲۰ (۷)
۹۵	ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی	۲۱ (۸)
۹۹	ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی	۲۲ (۹)
۱۰۳	ام المومنین حضرت صفیہ بنت حبیبہ رضی	۲۳ (۱۰)
۱۱۰	ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی	۲۴ (۱۱)
۱۱۳	حضرت ریحانہ بنت امیون رضی	۲۵
۱۱۵	حضرت زینب بنت رسول اللہ صلعم	۲۶
۱۲۵	حضرت سیدہ رقیہ رضی	۲۷
۱۲۵	حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلعم	۲۸
۱۲۹	جگر گوشت رسول حضرت فاطمہ رضی	۲۹
۱۴۵	ام کثیرہ رضی	۳۰
۱۴۶	حضرت امامہ رضی بنت ابی العاص	۳۱
۱۴۸	حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی	۳۲
۱۵۷	حضرت زائدہ	۳۳
۱۵۸	اروی بنت عبدالمطلب	۳۴
۱۵۸	ام حکیم البیضاء	۳۵

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۵۹	ام الارواء	۳۶
۱۵۹	اروی بنت الحارث	۳۶
۱۶۰	ابنہ عقیل	۳۸
۱۶۰	حضرت سکینہ رضی	۳۹
۱۶۱	بنت سعید بن مسیب تابعی	۴۰
۱۶۱	مسلمان عورتوں کی بہادری و حق گوئی	۴۱
۱۶۲	بی بی خولہ بنت ازور	۴۲
۱۶۲	بنت عبدالرحمان	۴۳
۱۶۵	بی بی عفیرة العابدہ	۴۴
۱۶۵	حضرت شعوانہ	۴۵
۱۶۵	بی بی رابعہ بصری	۴۶
۱۶۶	دفرہ	۴۶
۱۶۶	ماجدة القریشیہ	۴۸
۱۶۶	بنی امیہ کی ایک ملکہ فاطمہ بنت عبدالملک بن مردان	۴۹
۱۸۱	ملکہ خیزران	۵۰
۱۸۸	زبیدہ خاتون	۵۱
۱۹۰	شہزادی الکنزہ امویہ	۵۲
۱۹۱	شہزادی عائشہ امویہ	۵۳
۱۹۱	شہزادی ولیدہ	۵۴

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۱۹۱	ام سعد	۵۵
۱۹۲	لمالجه الغندوبه	۵۶
۱۹۲	اخت الحزنی	۵۷
۱۹۳	حضرت نفسہ	۵۸
۱۹۳	حضرت فاطمہ نیشاپوری	۵۹
۱۹۳	ملکہ زہرا	۶۰
۱۹۴	حضرت ام عیسیٰ	۶۱
۱۹۴	حضرت میمونہ واعظ	۶۲
۱۹۴	حضرت اُمّہ السلام	۶۳
۱۹۵	فاطمہ بنت استاد ابو علی دقاق	۶۴
۱۹۵	امہ الرحم بنت عبد القاسم عبد الکریم	۶۵
۱۹۶	حضرت ام محمد	۶۶
۱۹۶	حضرت ام محمد	۶۷
۱۹۶	بی بی سیدہ خدیجہ واعظ	۶۸
۱۹۶	بی بی فاطمہ واعظ بنت حسین بن حسن	۶۹
۱۹۶	فاطمہ بنت نصر بن عطار	۷۰
۱۹۶	بی بی اولیا	۷۱
۱۹۶	ام الفتح	۷۲
۱۹۶	بی بی مریم	۷۳

نمبر شمار	مضمون	صفحه
۷۳	بنی بی فاطمه سام	۱۹۸
۷۴	بنی بی ساره	۱۹۸
۷۵	بنی بی زینبا	۱۹۸
۷۶	ام حاصم	۱۹۹
۷۷	رقیب	۲۰۰
۷۸	ام لای مریم	۲۰۰
۷۹	رابعه	۲۰۱
۸۰	رجب بنت القلی	۲۰۱
۸۱	آسنه	۲۰۱
۸۲	آسیر	۲۰۲
۸۳	آسنه بنت علی	۲۰۲
۸۴	آفا ملک	۲۰۳
۸۵	آنی فاطمه خانم	۲۰۳
۸۶	امته الحقائق	۲۰۳
۸۷	ام الحبیر البغدادی	۲۰۳
۸۸	ام لای بنت فهد	۲۰۵
۸۹	اسماء بنت عبد اللہ	۲۰۵
۹۰	اسماء بنت یزید الانصاری	۲۰۶
۹۱	اسماء بنت مس الدین	۲۰۸

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۲۰۹	اسماء العامریہ	۹۳
۲۰۹	اسماء عبرت	۹۴
۲۰۹	امۃ اللہ	۹۵
۲۱۰	ام رطلۃ القشیریہ	۹۶
۲۱۰	ام زینب فاطمہ	۹۷
۲۱۰	بدویہ	۹۸
۲۱۱	تحفہ عربیہ	۹۹
۲۱۱	جانان بیگم	۱۰۰
۲۱۲	حیلہ	۱۰۱
۲۱۲	حبیبہ	۱۰۲
۲۱۳	خدیجہ بنت الیقیم	۱۰۳
۲۱۳	خدیجہ	۱۰۴
۲۱۳	دشار	۱۰۵
۲۱۳	رشمہ کاشانی	۱۰۶
۲۱۳	بی بی رابعہ	۱۰۷
۲۱۵	ملکہ شجرۃ اللہ	۱۰۸
۲۲۱	نامور خواتین اندلس	۱۰۹
۲۲۲	تاریخ اندلس کا ایک ورق	۱۱۰
۲۳۱	اندلس کی آخری ملکہ	۱۱۱

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۲۴۲	دو دو ماں تیموریہ کی علم دوست شہزادیاں	۱۱۲
۲۴۳	گلبدن بیگم	۱۱۳
۲۴۵	گل رخ بیگم	۱۱۴
۲۴۶	سلیم سلطان بیگم	۱۱۵
۲۴۶	ماہم بیگم	۱۱۶
۲۴۸	جاناں بیگم	۱۱۷
۲۴۸	نور جہاں بیگم	۱۱۸
۲۵۰	ممتاز محل	۱۱۹
۲۵۰	جہاں آرا بیگم	۱۲۰
۲۵۳	زیبا نسا بیگم	۱۲۱
۲۵۶	اورنگ زیب کی دوسری لڑکیاں	۱۲۲
۲۵۷	زینت النساء بیگم	۱۲۳
۲۵۷	نواب قدسیہ حضرت صاحبہ عالیہ	۱۲۴
۲۵۸	ایک بہمنی ملکہ کا جج	۱۲۵
۲۶۱	قرۃ العین ظاہرہ	۱۲۶
۲۶۲	رضیہ سلطانہ	۱۲۷
۲۶۲	سلطانہ چاند بی بی	۱۲۸
۲۶۵	لقینڈٹ فاطمہ خانم	۱۲۹
۲۶۹	تقریب نثر ج (بسم اللہ)	۱۳۰

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
۲۷۳	چند نصیحتیں	۱۳۱
۲۷۳	۱۱) ماں کی بیٹی کو نصیحت	۱۳۲
۲۷۴	۱۲) شوہر کی بیوی کو نصیحت	"
۲۷۴	۱۳) زبانہ جاہلیت کی ایک عربی ماں کی نصیحت	"
۲۷۷	شوہر سے محبت	۱۳۳
۲۷۹	تاج النساء بیگم حیدرآبادی	۱۳۴
۲۸۰	منور بیگم	۱۳۵
۲۸۰	زیبا النساء عصمت	۱۳۶
۲۸۱	بی بی خدیجہ النساء	۱۳۷
۲۸۱	سیدۃ النساء حرام	۱۳۸
۲۸۲	عمدۃ النساء بیگم	۱۳۹
۲۸۲	افضل النساء	۱۴۰
۲۸۵	فاطمہ بنت عبداللہ	۱۴۱
۲۹۲	لاڈوی بیگم	۱۴۲
۲۹۲	نواب شاہجہاں بیگم	۱۴۳
۲۹۲	مہربان نور الجہت ثانی	۱۴۴
۲۹۶	بیگم حسرت موہانی	۱۴۵
۲۹۶	بی اماں	۱۴۶
۲۹۷	رضیہ سلطانہ	۱۴۷
۳۰۰	سہ بی بی صالحہ	۱۴۸
۳۰۱	حضرت بی بی عابدہ	۱۴۹
۳۰۲	ملکہ حیات بخش بیگم	۱۵۰
۳۰۳	نواب زینت محل	۱۵۱
۳۰۴	عزیزہ لکھنوی بی	۱۵۲

مقدمہ

خیر القرون قرنی ثم الذین یلوئہم ثم الذین یلوئہم کے مصداق صحابہ تابعین و تبع تابعین و صحابہ اُمت جتنے نقش قدم پر چل کر ہی موجودہ دور کے مسلمانوں کی اصلاح و فلاح ہو سکے گی۔ انکے احوال میں بکثرت کتابیں بفضلہ تعالیٰ اُردو زبان میں لکھی گئیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کتاب اسوۂ صالحین میں نے بھی پیش کی ہے۔ صالحات اُمت کے کردار اور زہد و عبادت اور ان کی علمی و سیاسی زندگی پر بحث اس کتاب کا موضوع ہے۔ گو اسوۂ صحابیات، الصحابیات، حور المقصورات، مخدرات تیموریہ، گلدستہ نازنینان وغیرہ لکھی جا چکی ہیں۔

صالحات اُمت کے متعلق کافی سرمایہ عربی زبان میں محفوظ ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں قرن اول کی پندرہ سو تینتالیس محدث خواتین کا ذکر کیا ہے۔ تہذیب الاسماء تاریخ بغداد خطیب وغیرہ کتب میں خواتین سلف کے تذکرے لکھے گئے ہیں۔ نفحات الانس، اخبار الاخیار میں عارفانہ

کا تذکرہ ہے۔ غرض کہ اسلامی تاریخ میں ہزار ہا خواتین کے احوال ملتے ہیں۔
ہم نے قرونِ اولیٰ سے لے کر آج تک کی مشہور صحاحات کے احوال لکھے ہیں۔
وہ کئی جلدیں بھی نا کافی ہوتیں۔

خواتین کا مرتبہ اسلام میں بہت بلند ہے۔ پہلے پہل جس محترم خاتون
نے اسلام قبول کیا وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں اسی طرح علم و فضل
دینی میں بھی ان کا درجہ بلند ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی
فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے فرمایا تھا کہ اپنی نصف دینی تعلیم کے لئے انہیں عائشہ پر بھروسہ
کرنا چاہیے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پوتی ثقیفہ مستند محدثہ تھیں۔ فسطاط میں امام
شافعی ان کے حلقہ درس میں شریک ہوا کرتے (تہذیب الاسماء ص ۸۴۸)
فاطمہ بنت الاقراغ اعلیٰ درجہ کی خوشنویس اور فاضلہ خاتون تھیں۔ کثرت
سے ان کے شاگرد تھے۔ (ابن خلکان صف ۲۵۱)

فخر النساء جامع بغداد میں وعظ کہتی تھیں (الکامل صفحہ ۱۰۸)۔
ابوالنخیر الاقطاع کی دادی عنیدہ کے حلقہ درس میں پانچ سو طلبا شریک
ہوا کرتے تھے۔

خطیب بغدادی کی استاد کریمہ بنت احمد المرزوقی تھیں۔ موصوف نے
صحیح بخاری انہی سے پڑھی تھی۔ (معجم الادبا صفحہ ۲۴۷) علی بن عساکر کے اساتذہ
میں اس سے زیادہ خواتین ہیں۔ (معجم الادبا صفحہ ۲۴۷)

ابن بطوطہ نے عائشہ بنت محمد اور زینب بنت کمال الدین سے سند حاصل
کی غرض کہ اس تذکرہ میں کثیر التعداد خواتین کا ذکر ہے جن کی علمی خدمات بیحد

بے پایاں ہیں۔ خواتین کرام علم و فضل کے سوا عابدہ نابدہ اس پایہ کی تھیں کہ
اکابر علماء مشائخ نے ان کے آغوش میں تربیت پائی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ العلم

زینۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ آن حضرت صلی

تاریخ تعلیم نسواں

اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد سے ہی قرآن مجید جو نازل ہوتا وہ مسلمان
مردوں اور عورتوں کو سناتے اور جو لکھ سکتے ان کو لکھوا دیتے۔ دارالرقم
میں قرآنی تعلیم کا انتظام تھا۔ یہ پہلی درسگاہ تھی کہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم، جو مسلمان ہونے آتا اس کو قرآن کی تعلیم دیتے۔ اور جو تعلیم پالیتا اس
کو معلم بنا کر مسلمانوں کے گروں پر بھیجتے جیسے جناب بن الارت حضرت عمرؓ کی
بہن فاطمہؓ اور بہنوئی سعید بن زیدؓ کو ان کے گھر جا کر قرآن کی تعلیم دیتے
تھے۔ یہ قرآن کا حصہ سورہ طہ کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ پھر مدینہ کے لوگوں
نے بیعت کی۔ ان کے ساتھ ایک مسلم صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن
اور احکام اسلام کی تعلیم دینے کے لئے مدینہ بھیجا۔ یہ مقرر کہا تھے یہ
ابو امامہ کے ہاں مقیم تھے بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف
لائے تو یہاں مسجد کی تعمیر کے ساتھ اس کے متصل ایک صف تعمیر کیا۔

یہاں غریب صحابہ کو ٹھہرایا جاتا اور ان کی تعلیم کا انتظام کیا جاتا۔ اسی
طرح صحابیات کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کے مطابق
انتظام کیا۔ آپ ہفتہ میں ایک بار خواتین کو جمع کر کے ان کو باقاعدہ تعلیم
دیتے اور نپوند نصائح فرمایا کرتے۔

بلاذری نے لکھا ہے۔

ابتدائی دور اسلام میں پانچ عرب خواتین ایسی تھیں جو لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حفصہ بنت عمر رضی۔ ام کلثوم بنت عقبہ۔ عائشہ بنت سعد۔ مریم بنت مقداد۔ الشفا بنت عبد اللہ رضی اللہ عنہا۔

الشفا کا درس و تدریس کا مرکز کہاں تھا۔ تاریخ خاموش ہے مگر حضرت حفصہ رضی کو انہوں نے پڑھایا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ وہ آنحضرت سے شادی کے بعد بھی حفصہ رضی کو پڑھاتی رہیں۔

ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اور حضرت ام سلمیٰ رضی پڑھ سکتی تھیں لیکن انہیں لکھنا نہیں آتا تھا۔ (فتوح البلدان صفحہ ۴۸۸)

حضرت فاطمہ رضی کے کاشانہ میں صحابہ کی بچیاں قرآن شریف پڑھا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی سے تو صدی خواتین نے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ خود ام المومنین انصار خواتین کی تعریف کیا کرتی تھیں کہ وہ ہر مضمون پر عبور حاصل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتی تھیں۔ (بخاری صفحہ ۴۶)

معموماً صحابہ کرام اپنی اولاد کو خود تعلیم دیتے۔ مرد ایک مقام پر تعلیم حاصل کرتے اور عورتوں کے لئے گھر پر ہی تعلیم کا انتظام ہوتا۔ عیسیٰ بن مسکین متوفی ۲۷۸ھ ظہر کے وقت تک شاگردوں کو پڑھاتے اس کے بعد اپنی بیٹیوں، برادرزادیوں، پوتیوں، نواسیلوں کو قرآن مجید اور دیگر علوم کی تعلیم دیا کرتے (التعلیم عند القابلی صفحہ ۲۲)

غرض کہ اس کتاب میں مشہور صالحات کے حالات قرن اول سے لے کر

اب تک کے جمع کر دیئے ہیں۔ ان میں صحابیات کے بعد محدثہ - فقیہہ عالم
شجاع، زاہدہ، عارفہ، شہزادیاں مصنفہ، معلمہ وغیرہ کا حال اور ان کی اخلاقی
اور علمی زندگی پیش کی گئی ہے۔

کالج کی طالبات اس کے مطالعہ سے اپنی زندگی کو سنوارنے میں بہت
کچھ فائدہ اٹھا سکیں گی۔

اس کتاب کی ترتیب مرحومہ سیم بلقیس معین کے پیچھ اصرار پر کی گئی ہے
اس کے بیضہ میں ذکی الدین قریشی سلمہ کی سعی قابل ذکر ہے۔ بھی سید سخاوت علی
اور نجیب الحسین شہبانی مدیر دائرہ معارف قرآنیمہ کی اعانت الہی سہی مشکور ہے

انتظام اللہ شہبانی

سکرٹری جنرل لٹریچر اکیڈمی

مقدس خوانین

اُمّ الایمیا حضرت ساری علیہ السلام

حضرت ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد بہن اور زوجہ مکرمہ تھیں ان کے والد کا نام ناحد تھا۔

۲۲ میں قیام تھا حضرت ابراہیم نے کا دولا امر نمود کو دعوت اسلام دی وہ درپے آزار ہو گیا تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ہمراہ لے کر زیریں مصر پہنچے وہاں کا بادشاہ (فرعون) رقیوں تھا اس کی نگاہ جناب ساری پر پڑی مگر آپ کی معجزنمائی سے وہ آپ کے تقدس کا معترف ہو گیا اور اس نے اپنی دختر حضرت ہاجرہ کو جناب ساری کی خدمت کے لئے پیش کیا۔
(تالمود یہود)

یہاں سے حضرت ابراہیم اپنے کنبہ کو لے کر شام آئے بیرسج میں قیام فرمایا۔ آخر عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بیرسج بیت الخلیل کہلاتا ہے۔ یہیں حضرت ساری نے انتقال فرمایا۔

حضرت ہاجرہ

حضرت ہاجرہ ملک رقیوں (فرعون) کی دختر نیک اختر تھیں۔ مثل ہمزادی کے پرورش ہوئی جب حضرت ابراہیم اس کے ملک میں آئے حضرت ساری کے اوصاف حمیدہ سے واقف ہوا تو اپنی لخت جگر حضرت ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لئے پیش کیا چنانچہ کچھ عرصہ بعد حضرت ساری

نے اولاد کی خاطر سے حضرت ابراہیمؑ کے جلال عقد میں دے دیا۔ جن سے حضرت اسماعیلؑ پیدا ہوئے جب ان کی ۱۲۔۱۵ برس کی عمر ہوئی۔ اللہ کے حکم سے ماں بیٹوں کو وادِ غیر ذی ذریعہ میں آباد کیا۔ یہ مکہ معظمہ مقام کہلایا۔ حضرت ہاجرہ کی برکت سے چاہ زمزم، ودار ہوا حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیلؑ کی ۱۲ اولادیں تھیں جنکی نسل عرب میں پھیلی۔ مکہ میں عمر طبعی پا کر حضرت ہاجرہ نے انتقال فرمایا۔

حضرت آمنہ بنت وہب

مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ خاندان قریش سے تھیں۔ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن عمرو بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر کی لڑکی تھیں۔ بھائی کا نام قصی بن کلاب تھا جو بنی ہاشم کے جد تھے۔ آپ کے پر پوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ماں کا نام برہ دختر عبد العزی بن عثمان بن عبد الدربن قصے تھا۔ شوہر کا نام حضرت عبد اللہ تھا جو آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چھ سال بعد انتقال ہوا یعنی شگہ قبل ہجرت اس دار فانی سے راہی دار بقا ہوئیں۔ طبیعت میں خدا تعالیٰ نے وہ پاکی عنایت فرمائی تھی جس کو اس زمانہ کے لوگ خوب جانتے تھے۔ نہایت نیک طبیعت اور صاحب فراست تھیں علم و فضل میں یکساں تھیں۔ صاحب کتاب و اوہب لدنیہ لکھتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے اپنے فرزند یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کی تعریف میں یہ اشعار

لکھے تھے جن کو پڑھنے سے ان کی علمی قابلیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔

بارك فيك الله من غلام
 نجابون الملك المنعام
 بمائة من اهل سوام
 فانت مبعوث الى الانام
 تبعث في التحقيق والاسلام
 يا ابن الذي من حومة الحمام
 فودي غداة الصوب بالمهام
 ان صم ما البصوت في المنام
 تبعث في الحلق وفي الحرام
 دين ابيك البر ابراهام

فان الله انماك عن الاصنام

ان لا تواليها مع الاقوام

بوقت رحلت آپ کی زبان سے یہ کلمات جاری تھے۔
 کل حتی میت وکل جدید بال وکل کبیر یعنی وانا متیة
 و ذکر ی باق و قد تزکت خیرا و دولت طہراہ

ہر کل زندہ رہیں گے۔ کل نئی چیزیں پرانی ہوں گی۔ بزرگ فنا ہوں گے
 میرا ذکر باقی رہ جائے گا اللہ میں فنا ہو جاؤں گی۔ میں خیر و نیکی کو چھوڑتی
 ہوں کیونکہ میں نے ایک طاہر رط کے کو جنا ہے؟

اپنے شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار کی وفات پر جو مرنیہ
 آپ نے لکھا ہے اس کے چند اشعار یہ ہیں۔

غفا جانب البطحاء من آل هاشم
 وعند المنيا دعوة فاجابها
 عشية راحو عيرون سريدة
 فان تك غالية المنون وريبها
 وجاد ورحدا خابجا في التمام
 وما تزكت في الناس مثل ابن هاشم
 لقادة اصحابه في التراحم
 فقد كان معطاء كثير التراحم

آنحضرت صلعم کی دودھ پلائی

حلیمہ سعدیہ رضی

حضرت حلیمہؓ قبیلہ بنی سعد کی ایک غریب خاتون تھیں ان کے والد کا نام ابی ذویب اور خاندان کا نام حارث تھا۔ ان کو ایک ایسے مقدس بچے کے دودھ پلانے کی سعادت عظمہ حاصل ہوئی جو دین و دنیا کا عظیم ترین سردار تھا اگر سردار کائنات کے دودھ پلانے کی یہ عزت اور بزرگی ان کو نہ ملتی تو آج کوئی دنیا میں حضرت حلیمہ کا نام بھی نہ جانتا۔

قبیلہ بنی سعد زبان کی شیرینی اور فصاحت و بلاغت یعنی گفتگو کی عمدگی اور زبان کے صاف اور صحیح ہونے میں شہرہ آفاق تھا۔ سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خداوند کریم نے مجھ کو تمام عرب میں فصیح بنا یا ہے اول تو ہمارا قبیلہ قریش زبان اور گفتگو کی خوبی میں سب سے بڑھا ہوا ہے اور دوسرے میری پرورش قبیلہ بنی سعد میں ہوئی جو فصاحت و بلاغت میں ممتاز درجہ رکھتا ہے۔“

دنیا میں تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات روز تک اپنی ہر بان والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ پیتے رہے۔ سات روز کے بعد ثویبہ رضی نے چند روز تک دودھ پلایا۔ آپ سے دو برس پہلے حضرت حمزہ آپ کے چچا پیدا ہوئے تھے ثویبہ رضی ان کو بھی دودھ پلاتی تھیں اور ان کے ساتھ ابو سلمہ رضی کو بھی دودھ پلایا تھا اس وجہ سے حمزہ رضی اور ابو سلمہ رضی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ حمزہ کی بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ حمزہ میرے رضاعی بھائی ہیں دودھ کے رشتہ سے ان کی بیٹی میری بھتیجی ہوتی ہے اس سے نکاح مجھ کو حلال نہیں۔ اسی طرح ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی نسبت لوگوں نے عرض کیا کہ سنا ہے آپ کا ارادہ ان سے نکاح کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا نکاح اس سے کیسے ہو سکتا ہے اول تو اس لڑکی کی ماں یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا میرے نکاح میں ہے اس کے علاوہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ میرے دودھ شریک بھائی ہیں۔ ثوبیہ ابولہب کی لونڈی تھیں۔ جب انہوں نے ابولہب کو جا کر خوش خبری دی کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹیا (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پیدا ہوا ہے تو ابولہب نے اسی خوشی میں ان کو آزاد کر دیا اور کہا کہ لڑکے کو دودھ پلایا کر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہو گئی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔

عرب کے دستور کے مطابق والدین خواہ امیر ہوں یا غریب بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے تھے بلکہ پرورش کے لئے دوسری عورتوں کو دیدیتے اور وہ ان کو قرب و جوار کے دیہات میں لے جا کر پرورش کرتیں کبھی والدین جا کر ان کو دیکھ آتے کبھی پرورش کرنے والی خود لاکر والدین سے ملا جاتیں۔ تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد گاؤں کی عورتیں بچے لینے کے لئے شہر آتیں اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوتے ان کو لے جاتیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد سے چند روز بعد نبی سعد کی عورتیں بھی بچے لینے کے لئے مکہ میں آئیں حلیمہ سعدیہ بھی انہیں میں تھیں۔

دوسری تمام عورتوں نے مال دار لوگوں کے بچے لئے جن سے انعام
 واکرام کی امید تھی۔ مگر اس یتیم بچہ (محمدؐ) کو کسی نے نہ لیا۔ جس نے کبھی باپ
 کی صورت بھی نہ دیکھی تھی، دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی باپ کا سایہ
 سر سے اٹھ گیا تھا۔ کسے خبر تھی کہ یہ بچہ خدا کا پیارا محبوب اور تمام نبیوں کا
 سردار ہے اور تمام دنیا کو اس سے وہ فائدہ پہنچے گا جو اس سے پہلے کسی سے
 ہوا ہے نہ ہو گا۔

حلیمہ کی قسمت اچھی تھی اور مقدر یاوری پر تھا کہ ان کو کوئی بچہ نہ ملا
 کیوں کہ یہ عزت خداوند کریم نے صرف انہیں کے لئے مخصوص کر دی تھی۔
 انہوں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ خالی ہاتھ جانے کو بھی دل نہیں
 چاہتا اور یتیم بچہ کو لیتے ہوئے بھی جھوک محسوس ہوتی ہے صرف وہی ایک
 بچہ رہ گیا ہے جو عیدالمطلب کا پوتا ہے گو یتیم ہے مگر اس کے دادا کی شرافت
 اور قبیلہ قریش کی سرداری کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ خاندان نے کہا کہ لے لو
 کوئی حرج نہیں ممکن ہے خداوند کریم نے اسی میں ہمارے لئے کوئی بہتر
 رکھی ہو حلیمہ کو تو پہلے ہی اس بچہ پر پیار آتا تھا اور لینے کو دل چاہتا تھا خاندان
 کا اشارہ پاتے ہی فوراً جا کر آپ کو لے آئیں۔

حلیمہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب ہم مکہ میں آئے تو ملک میں قحط پڑ رہا
 تھا۔ جنگلوں کی گھاس اور جانوروں کا دودھ خشک ہو چکا تھا سواری کے
 جانوروں سے چلانہ جانا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک ہمارا بچہ اور ایک اونٹنی ایک
 سواری کا گدھا تھا جن کے کھانے کے لئے بھی کچھ نہ تھا اور میرے کچھ دودھ
 نہ اُڑتا تھا اس لئے بچہ بھوکا تڑپتا تھا اس مصیبت میں نہ دن کو چین تھا
 نہ رات کو آرام۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہارے پاس آنا تھا کہ حالت بدل گئی میری خشک چھاتیوں میں آنا دودھ آگیا کہ آپ نے بھی خوب پیا اور میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا۔ وہ ادنیٰ جو ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی آج اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے میرے خاوند نے دودھ نکالا اور ہم دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ بھوک کی تکلیف دور ہونے سے رات کو آرام سے سوئے۔ میرے خاوند نے کہا حلیمہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی مبارک اور خوش نصیب بچہ کو مل گیا ہے۔ ساری برکت اسی کی نظر آتی ہے۔ کئی روز تک آرام سے مکہ میں رہے جب سب عورتیں بچوں کے ماں باپ سے رخصت ہو کر مکہ سے چلنے لگیں تو میں بھی آپ کی والدہ سے رخصت ہو کر اپنے مکان کو واپس ہوئی اور آپ کو گود میں لے کر سوار ہوئی تو میری گدھا جو تمام قافلے سے پیچھے تھا اور نہایت دقت سے چلتا تھا بہت تیز قدم ہو گیا اور تمام قافلے کو پیچھے چھوڑ گیا۔ یہ باتیں دیکھ کر میری ساتھی عورتوں نے کہا کہ حلیمہ بہت ہی خوش نصیب ہے جس کو ایسا سعادت مند بچہ مل گیا ہے کہ اس کی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔

گھر پہنچنے کے بعد اور بھی زیادہ برکت کا ظہور ہوا، وہ بکریاں جن کو ہیمنوں سے کھانے کو نہیں ملا تھا اور جن سے دو چار گھونٹ بھی دودھ مشکل سے ملتا تھا جب جنگل سے واپس آئیں تو سب کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔

میری بکریاں رونا اسی طرح آئیں اور دوسرے گاؤں کے جانوروں کا دودھ بدستور خشک تھا۔ اب تو سب عورتیں محمد پر رشک کرنے لگیں اور ایسے خوش نصیب بچہ سے محروم رہنے پر افسوس کرنے لگیں۔ آخر سب

گاؤں والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانور چرانے لگے خدا کی قدرت سے ان کے بھی دودھ اُتر آیا۔

حلیمہ رضہ کو ان باتوں سے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ کوئی ہونہا لڑکا ہے جس کے نصیب کا ستارہ کبھی ایسا چمکے گا کہ سب کی روشنی ماند پڑ جائے گی وہ نہایت شفقت اور بہت محبت سے آپ کو پرورش کرتی تھیں دودھ پلانے والی عورتوں کی طرح مارنا یا برا کہنا تو درکنار کبھی غصہ کی نظر سے دیکھتی بھی نہ تھیں۔ آپ کی باتیں ایسی ہی تھیں کہ حلیمہ رضہ کو ایسا سلوک کرنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ کبھی ایسا نہ ہوتا تھا کہ نجاست اور ناپاکی میں کپڑے بھر جاتے ہوں بلکہ ایک وقت مقرر تھا جس کو حلیمہ جانتی تھیں۔ ان دنوں آپ عام بچوں کی طرح روتے بھی نہ تھے۔ حلیمہ رضہ کا ایک بچہ بھی تھا جو آپ کے ساتھ دودھ پیتا تھا۔ آپ ہمیشہ ایک ہی چھاتی سے دودھ پیتے تھے دوسری سے وہ بچہ پیتا تھا۔

آپ پرورش پاتے رہے اور رفتہ رفتہ پیروں چلنے لگے۔ جب آپ کی عمر دو برس کی ہوئی تو حلیمہ رضہ کو خیال ہوا کہ اس بچہ کو اس کی ماں کو ضرور دکھلانا چاہئے اسی ارادہ سے وہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ کو گئیں۔ آمنہ اپنے پیارے بچہ کو تندرست اور کھیلتا ہوا دیکھ کر باغ باغ ہو گئیں اگرچہ ایسی ماں کو جس کے سر پر خاندن بھی نہ ہو اور لے دے کر اس کے ایک ہی بچہ ہو اپنے عزیز کی جدائی بڑی سخت گزرتی ہے لیکن مکہ کی آب و ہوا اس وقت خراب ہو رہی تھی حلیمہ رضہ نے آپ کو واپس لے جانے کی درخواست کی آپ کی والدہ نے بھی مان لیا اور حلیمہ رضہ مکہ سے آپ کو ساتھ لے کر چلی آئیں اور اپنے گاؤں میں رہنے لگیں۔

آپ کے رضاعی بھائی یعنی حلیمہ رضا کے لڑکے عبداللہ جب کبھی بکریاں چرانے جاتے تو آپ بھی کبھی کبھی ان کے ساتھ جنگل چلے جاتے تھے اسی طرح حلیمہ رضا نے تین برس اور آپ کی خدمت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ برس کی عمر میں نہایت ہوشیار سمجھ دار ہو گئے۔ ہمیشہ پاکی صفائی اور دوسروں کی امداد کرنے کو پسند کرتے تھے اب حلیمہ کو مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو والدہ کے پاس مکہ میں پہنچادیں۔ چنانچہ عام الفیل کے چھٹے سال جب کہ آپ کی عمر پانچ سال دو روز کی تھی اس قیمتی امانت کو ماں کے سپرد کر دیا جس کی قیمت کے آگے زمین و آسمان اور تمام دنیا کوئی حقیقت نہ رکھتی تھی۔ گو یہاں مال و دولت تو زیادہ نہ تھا لیکن کبھی حلیمہ رضا کی اتنی خدمت کی گئی جو ان کے خوش کرنے کو کافی تھی مگر ایسے خوش نصیب بچے کے چھٹنے کا جو رنج تھا اس کے مقابلہ میں یہ خوشی کچھ بھی نہ تھی۔ حلیمہ رضا آپ کی جدائی کا غم لئے اپنے وطن واپس ہو گئیں اور آپ اپنی والدہ کے پاس رہنے لگے۔ آمنہؓ خانوں آپ کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتیں اور آپ کی باتیں اور عادات و اطوار کو دیکھ کر سہولت سماتی تھیں مگر یہ خبر نہ تھی کہ ماں کی آغوش اس بچے کی قسمت میں نہیں ہے اور ایک ہی سال کے بعد اس کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں۔

۱۸ خانہ کعبہ کی عمت کو کم کرنے کے لئے ابرہہ بادشاہ یمن نے ایک دوسرا کعبہ تعمیر کرایا تھا کہ لوگ اس میں آکر حج کیا کریں۔ کوئی مسافر اگر اس میں پاخانہ ڈال گیا اور چند روز بعد اس میں اگ لگ گئی یا شاہ بہت خفا ہوا اور جل کر مٹسی لے کر کعبہ کو گرانے کی غرض سے آیا اللہ تعالیٰ نے اسے بابلوں کے ذریعہ ہوک کر دیا اللہ تو کیف میں اس کا ذکر ہے اسی سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہتے ہیں اسی سال حضور کی ولادت ہوئی۔

کچھ دنوں مکہ میں رہنے کے بعد آپ کی والدہ آپ کو ساتھ لے کر آپ کے باپ دادا کی نہیاں میں مدینہ چلی گئیں۔ چند مہینے وہاں رہ کر واپس ہوئیں۔ راستہ میں ابواء پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ موت کے پیغام نے ماں کو بچہ سے جدا کر دیا۔ وہ بچہ جس کو قدت نے تمام انبیاء کی سرداری کے لئے منتخب کر لیا تھا اور جس کی عمر ابھی چھ سال کی تھی کہ باپ کے سایہ سے پہلے ہی محروم تھا اور اب ماں کی آغوش سے بھی ہمیشہ کے لئے علیحدہ ہو گیا۔ یہ جگہ جہاں آپ کی والدہ محترمہ نے جان جاں آفریں کے سپرد کی تھی اور مدینہ کے درمیان ہے اور وہی مقام ہے کہ نبوت پانے کے کئی سال بعد اس طرف کو گزرتے ہوئے آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر پر جا کر اس قدر روئے تھے کہ پاس والے بھی سب رونے لگے تھے۔ خداوند قدوس نے اپنے محبوب کے دل میں صبر و شکر، محبت، مروت اور عزیزوں کی یاد غرض کہ تمام اوصاف کوٹ کوٹ کر بھر دیئے تھے۔

ام ایمن جو آپ کی والدہ کی لونڈی تھیں اور آپ کو میراث میں مل گئی تھیں آپ کے ساتھ تھیں اور وہی اس مقام سے آپ کو مکہ میں لے آئی تھیں اب وہ وقت تھا کہ نہ آپ کے سر پر والد کا سایہ تھا نہ والدہ کی شفقت آپ کو میسر تھی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب بھی ایک سو بیس سال دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد عالم جاودانی کو رخصت ہو گئے تھے مگر خداوند تعالیٰ روز اول سے اپنے نبی برحق اور محبوب کا حال دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ اس درہم کو میری حفاظت کافی ہے۔ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اس کے ذریعے دین حق کی اشاعت ہوگی اور اس کے دین سے تمام ادیان منسوخ ہو جائیں گے اور بڑے بڑے دنیا کے جاہ و جلال والے شہنشاہ اس کے نام سے لرزے

براندام ہو جائیں گے۔“

آپ کو مکہ پہنچا کر واپس ہونے کے بعد عرصہ تک حلیمہ زندہ رہیں چنانچہ مکہ میں تیرہ برس نبوت کے گزار کر ہجرت فرمانے کے آٹھ سال بعد جب کہ آپ کی عمر اسی سال کی تھی ایک دفعہ آپ جعرانہ میں گوشت تقسیم فرما رہے تھے جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ہے اس وقت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں آپ نے اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو بٹھایا اور ان کی بہت عزت کی۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوا مگر بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ آپ کی دایہ حلیمہ سعدیہ ہیں اس وجہ سے آپ ان کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں۔

حلیمہ رضی اللہ عنہا کے کئی بچے اور بھی تھے دو بیٹیاں تھیں ایک کا نام امیہ تھا اور ایک کا حذافہ بن کو شیماء بھی کہتے تھے اور ایک بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا یہ تینوں آپ کے دودھ شریک بھائی بہن تھے۔ عبداللہ نے تو آپ کے ساتھ ہی دودھ پیا تھا۔ شیماء آپ سے عمر میں بہت بڑی تھیں جو کبھی کبھی آپ کو گود میں لے کر کھلایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ اسلامی شکر نے لڑائی میں قبیلہ ہوازن کے بہت سے لوگ گرفتار کر لئے ان میں شیماء بھی تھیں انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو میں ان کی ہمیشہ ہوں جب آپ کی خدمت میں لائے تو شیماء نے ایسے پتے تہلائے جس سے آپ پہچان گئے اور اپنا بچپن اور اس وقت کی خدمت کرنے والوں کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور شیماء سے فرمایا کہ اگر ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو یہاں بہت عزت اور راحت کے ساتھ رہ سکتی ہو اور اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو تم کو وہاں پہنچا دیں انہوں نے واپس ہی جانا پسند کیا آپ نے تین غلام اور ایک لونڈی اور کئی اونٹ اور بکریاں ان کو دلوادیں اور یہ مسلمان ہو کر

آپ سے رخصت ہوئیں۔

خداوند تعالیٰ نے آپ کی ذات بابرکات میں تمام خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ اخلاق، مردت و فاداری باوجود اس بلند مرتبہ کو پہنچ جانے کے اپنے قدیم خادموں کا خیال آپ ہی کا حصہ تھا۔ ثوبیہ کے لئے جنہوں نے آپ کو چند روز دودھ پلایا تھا آپ مدینہ سے روپیہ اور کپڑا بھیجتے تھے اور بڑی عزت کرتے تھے۔ مکہ میں رہتے ہوئے بھی وہ آپ کے مکان پر آتی رہتی تھیں اور آپ ان کا بہت ادب و لحاظ کرتے تھے اور اسی وجہ سے حضرت خدیجہؓ بھی ان کی خاطر کرتی تھیں۔ ہجرت کے چھٹے سال جب آپ نے خیبر فتح کیا تو اس وقت ان کی وفات کی خبر پہنچی تو بہت رنجیدہ ہوئے۔

ہجرت کے آٹھویں سال جب مکہ فتح ہوا اور آپ وہاں تشریف لائے تو ثوبیہؓ کے بیٹے مسروح کا حال دریافت فرمایا جس نے آپ کے ساتھ دودھ پلایا تھا اس کا کچھ تپہ نشان نہ ملا تو ثوبیہ کے دوسرے رشتہ داروں کو پوچھا مگر اس وقت ان میں سے کوئی بھی دنیا میں موجود نہ تھا۔

اممیین کے مکان پر آپ کبھی کبھی خود ملنے کو جاتے جنہوں نے والدہ کے انتقال کے بعد آپ کی خدمت کی تھی یہ حبشہ کی رہنے والی تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ہی شفقت و محبت تھی۔ ان حضرت کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ آپ کے طریقہ کے موافق ان سے ملنے گئے تو یہ آپ کو یاد کر کے رو پڑیں اور یہ دونوں حضرات بھی رونے لگے۔ کیسی سچی محبت تھی آپ کے خادموں کو آپ کے ساتھ اور کیسا خیال تھا اپنے جاں نثاروں کا رسول اللہ کو (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اصحابہ و خدامہ وسلم (محبین)

مناقب صحابیات

یہ ایک مختلف ذمہ مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے اول کون ہے؟
 عام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین تمام صحابہ میں
 افضل ہیں اور خود خلفاء میں فضیلت کے مدارج ترتیب خلافت کی رو سے
 قائم ہوئے ہیں لیکن علامہ ابن عزم ظاہری کے نزدیک ازواج مطہرات تمام
 صحابہ سے اول ہیں اور اس مسئلہ کو انہوں نے اپنی کتاب ملل و نحل میں نہایت
 تفصیل سے لکھا ہے اور اسی سلسلہ میں ان آیات واحادیث کے جوابات
 بھی دیئے ہیں جن سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا درجہ عموماً مردوں
 کم ہوتا ہے لیکن اس وقت ہم ان مباحث میں پڑنا نہیں چاہتے بلکہ مذہبی اور
 اخلاقی حیثیت سے جو وجوہ فضیلت قائم ہو سکے ان کو پیش نظر رکھ کر صحابیات
 کے مناقب میں صحیح حدیثیں نقل کر دیتے ہیں جن سے یہ ثابت ہو گا کہ جن وجوہ
 کی بنا پر صحابہ کرام کے فضائل کی بنیاد قائم ہوئی ہے ان میں ان کے ساتھ
 صحابیات بھی شامل ہیں۔

اسلام میں سب سے بڑی فضیلت تقدم فی الاسلام ہے اور حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ فضیلت سب سے نمایاں ہے لیکن اس
 فضیلت میں ان کے ساتھ دو عورتیں بھی شامل ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی
 اللہ عنہا اور میمہ یا ام ایمن چنانچہ صحیح بخاری مناقب ابو بکر رضی اللہ عنہ میں حضرت عمار رضی
 اللہ عنہ سے روایت ہے۔

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ صرف پانچ غلام، دو عورتیں اور حضرت ابو بکرؓ تھے“
تقدم فی الاسلام کی سب سے بڑی فضیلت تقدم فی البحرات ہے اور اس فضیلت میں تمام ہاجرات اولات صحابہ کی شریک ہیں چنانچہ علامہ ابن حزم ظاہری مثل دخل میں لکھتے ہیں :-

ہم کو اس میں شک نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیبیوں میں ہاجرات اولات فضیلت میں صحابہ کی شریک ہیں ان میں کسی عورت کو کسی عورت پر اور کسی مرد کو کسی مرد پر فضیلت حاصل ہے۔ عورتوں میں بعض عورتیں بہت سے مردوں پر فضیلت رکھتی ہیں اس طرح مردوں میں بعض مرد بہت سی عورتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ خدا نے فضیلت کا کوئی درجہ ایسا نہیں بیان کیا جس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو شامل نہ کیا ہو۔ ۱۳۲۱۵

اسلام میں سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی ہجرت ہے اور اس ہجرت میں ایک صحابیہ کو ایک ایسا شرف حاصل ہوا جس پر تمام ہاجرین حبشہ کو ناز تھا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ جب ہم کو مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا حال معلوم ہوا اس غرض سے کشتی پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ سو اتفاق سے کشتی حبش میں جا پہنچی اور ان لوگوں کی ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالبؓ اور ان کے رفقاء سے ہو گئی چنانچہ جعفرؓ نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھیجا ہے اور یہیں اقامت کا حکم دیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ اقامت کرو، ان لوگوں نے وہاں اقامت اختیار کی۔ یہاں تک کہ جب غیر فتح ہوا تو سب کے سب ایک ساتھ آئے اور خیبر ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

زیادہ سرت خیز اور با عظمت یہ تھی حضرت ابو موسیٰ بار بار مجھ سے اس حدیث کو پوچھتے تھے۔

نفسیت کی ایک بڑی وجہ محبت رسول ہے اور اس محبت کی وجہ سے بعض صحابیات کو وہ درجہ تقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا جو صرف مخصوص صحابہ کو حاصل تھا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے سوا بجز حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا (حضرت انس کی ماں) کے کسی عورت کے پاس تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے ان پر رحم آتا ہے کیونکہ ان کے بھائی میرے ساتھ شہید ہوئے تھے بلکہ جس لطف و محبت کے ساتھ آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اسی لطف و محبت کے ساتھ وہ آپ کی خدمت گزار بھی کرتی تھیں۔ بخاری، کتاب الاستیذان میں ہے کہ جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے ٹٹے بھوننا بچھا دیتیں، آپ آرام فرماتے جب آپ سو کر اٹھتے تو وہ آپ کا پسینہ ایک شیشی میں جمع کر لیتیں، امرتے وقت وصیت کی، کفن میں حنوط کے ساتھ عرق مبارک بھی شامل کیا جائے حضرت انس بن مالک کی خالہ ام حرام کو بھی اکثر یہ شرف حاصل ہوتا تھا چنانچہ معمول تھا کہ جب آپ قبا کو تشریف لے جاتے تو ان کے پاس ضرور جاتے اور اکثر کھانا لاکر پیش کرتیں تو آپ نوش فرماتے آپ سو جاتے تو وہ آپ کے بالوں

۱۔ مسلم باب من فضائل جعفر بن ابی طالب و اسماء بنت عمیس و اہل بیتہ
۲۔ صحیح مسلم باب من فضائل ام انس بن مالک و بلال رضی اللہ عنہما

سے جوئیں زکالیتیں لے

مخصوص صحابیات کے علاوہ قومی حیثیت سے بھی صحابیات کو بعض فضیلتیں حاصل ہیں ان فضائل میں اس قبیلے کی تمام صحابیات شامل ہیں مثلاً ایک بار رسول اللہ صلعم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے نکاح کی خواہش کی تو انہوں نے یہ معذرت کی کہ میرا سن زیادہ ہو گیا ہے اور میرے لڑکے ہیں جن کی پرورش میرے لئے ضروری ہے اس موقع پر آپ نے عموماً قریشی عورتوں کی فضیلت بیان کی۔

شہسوار عورتوں میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں بچپن میں اپنے یتیم بچے سے نہایت محبت رکھتی ہیں اور اپنے شوہر کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔

انصار کا قبیلہ اسلام میں ایک خاص درجہ فضیلت رکھتا ہے اور اس قبیلے کے مرد عورتیں دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یکساں محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ ایک بار انصار کی عورتیں اور انصار کے لڑکے ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے آپ نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور تین بار فرمایا کہ تم لوگ میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔

دوسری روایت میں ہے کہ ایک انصار صحابیہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئیں اور آپ نے ان سے گفتگو فرمائی اور اسی سلسلہ میں دوبار فرمایا کہ اسی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم تمام لوگوں میں مجھے سب سے

زیادہ محبوب ہو۔ لے

ان فضائل کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے بھی صحابیات کی قدر و منزلت کو قائم رکھا چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی کی ملاقات کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی نے حضرت عمر رضی سے فرمایا کہ آؤ چلیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ملاقات کو جایا کرتے تھے اسی طرح ہم بھی ان سے ملاقات کرائیں، چنانچہ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں ان لوگوں نے کہا کیوں روتی ہو خدا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ نہایت بہتر ہے، بولیں میں اس لئے نہیں روتی کہ میں اس سے ناواقف ہوں بلکہ اس لئے روتی ہوں کہ وحی کا آسمانی سلسلہ ٹوٹ گیا اس پر یہ دونوں بزرگ بھی رونے لگے۔^۲

عام صحابیات کے علاوہ زواجِ مطہرات کو جو عزت حاصل تھی عورتوں کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرمِ محترم نے انتقال کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی سجدے میں گر پڑے، لوگوں نے کہا آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ بولے جب قیامت کی کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کر لیا کرو، پھر زواجِ مطہرات کی موت سے بڑھ کر قیامت کی کون سی نشانی ہوگی؟^۳ کہ مقامِ سرف میں حضرت میمونہ رضی نے وفات پائی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی بھی ساتھ تھے۔ بولے کہ یہ میمونہ ہیں ان کا جنازہ اٹھاؤ

۲ بخاری کتاب المناقب باب قول ابی بنی صلعم لہ مسلم باب من فضائل
ایمن لہ ابوداؤد کتاب الصلوۃ۔

تو مطلق حرکت و جنبش نہ رو لے

بعض صحابہ عزت و محبت کی وجہ سے ازواجِ مطہرات پر اپنی جائیدادیں
وقف کرتے تھے چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ازواجِ مطہرات
کے لئے ایک باغ کی وصیت کی تھی جو چار ہزار ہریر پر فروخت کیا گیا تھا۔
خلفاء ازواجِ مطہرات کا نہایت ادب و احترام کرتے تھے حضرت عمرؓ
نے اپنے زمانہ خلافت میں ازواجِ مطہرات کی تعداد کے لحاظ سے نو پیالے
تیار کرائے تھے جب ان کے پاس میوہ یا اور کوئی کھانے کی چیز آتی تو ان
پیالوں میں بھر کے تمام ازواجِ مطہرات کی خدمت میں بھیتے لے
۲۳ھ میں جب حضرت عمرؓ امیر الحاج بن کر گئے تو ازواجِ مطہرات
کو بھی نہایت عزت کے ساتھ ہمراہ لے گئے۔ حضرت عثمانؓ اور حضرت
عبدالرحمن بن عوفؓ کو سواریوں کے ساتھ کروایا تھا۔ یہ لوگ آگے پیچھے چلتے تھے
اور کسی کو سواریوں کے قریب آنے نہیں دیتے تھے، ازواجِ مطہرات منزل پر
اترتی تھیں تو حضرت عثمانؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کسی کو قیام گاہ کے
متصل آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔

عام مسلمان ازواجِ مطہرات کے ساتھ جو حسن عقیدت رکھتے تھے اس کا
اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لوگ عام طور پر حضرت عائشہؓ کی خدمت
میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے تھے اور وہ ان کے لئے دعائے برکت فرماتی
تھیں۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ نے حضرت عائشہؓ کے دامنِ تربیت میں پرورش

۱۔ نسائی کتاب النکاح ذکر امیر رسول اللہ صلعم فی النکاح و ازواج و ما اباح اللہ عزوجل۔

۲۔ ترمذی کتاب المناقب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے مؤطا امام مالک کتاب الزکوٰۃ

۳۔ طبقات ابن سعد تذکرہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اب المفرد باب الطیرہ من الجن

پائی تھی ان کا بیان ہے کہ لوگ دور دور سے میرے پاس حاضر ہوتے تھے اور چونکہ مجھ کو حضرت عائشہؓ سے تقرب حاصل تھا اس لئے بوڑھے بوڑھے لوگ میرے پاس آتے تھے جو ان لوگ مجھ سے بھائی چارہ کرتے تھے اور مجھ کو ہدیہ دیتے تھے اور اطراف ملک سے خطوط بھیجتے تھے۔

غرض ان تمام واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد دونوں کا درجہ یکساں بلند کیا اور خلفائے راشدین اور عام مسلمانوں نے اسی درجہ کو قائم رکھا۔ لیکن صحابیات کو یہ درجہ صرف مذہب، اخلاق اور حسن معاشرت کی بنا پر حاصل ہوا تھا اور آج بھی انہیں چیزوں سے عورتیں اپنے درجہ کو بلند کر سکتی ہیں۔ عہد سیرت عائشہ

اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

تعارف

(تمام دنیا میں سب سے پہلی مسلمان عورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جو اسلام سے پہلے بھی طاہرہ مشہور تھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پندرہ برس پہلے یہ پیدا ہو چکی تھیں اور ان کے والد کا نام خویلد تھا جو عرب کے نہایت ذمی عزت اور خاندانی شخص تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قسمت میں جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کی سعادت خداوند کریم

۱۰ ادب المفرد باب الکتابۃ الی النساء۔

نے لکھی تھی لہذا ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیئے یعنی ان کے دو نکاح ہوئے مگر
دونوں خاوند زندہ نہ رہے ان کے والد نے ان کی شادی دستور کے مطابق
اپنے خاندان کے ایک شخص سے کر دی جن کو ابوہالہ کہتے تھے ان سے دو بچے
پیدا ہوئے کچھ دنوں کے بعد ابوہالہ کا انتقال ہو گیا۔ تھوڑے عرصہ بعد خدیجہ
کا نکاح عتیق نامی ایک شخص سے کر دیا گیا۔ عرصہ تک ان کے ساتھ رہیں اور
ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اتفاق سے ان کو حکم خداوندی پہنچا اور یہ بھی کسخت
ہو گئے۔

اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے دن گزارنے لگیں۔ گو قریش کے بڑے
بڑے ذی وجاہت اور معزز لوگ ان سے نکاح کی آرزو رکھتے تھے لیکن
چونکہ ان کے لئے ایک خاص فضیلت اور امتیاز مقدر ہو چکا تھا اس لئے انہوں
نے نکاح کرنا منظور نہ کیا۔

رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے
ساتھ نکاح اور تجارت کے باپ کا تھا اور کچھ خاوند کا چھوڑا
ہوا تھا اس کو انہوں نے کھویا نہیں بلکہ اپنی خداداد عقل اور عمدہ تدبیروں
سے اسے بڑھا شروع کیا جس سے ایک نہایت باثروت اور قریش کی
عورتوں میں سب سے زیادہ مالدار خاتون بھی جاتی تھیں۔

جن غریب لوگوں کو ہوشیار اور معتبر سمجھتیں ان کو اپنا مال سپرد
کردیتیں کہ فلاں جگہ جا کر فروخت کر آؤ تم کو تمہارا حصہ مل جائے گا وہ لوگ
مال لے جا کر فروخت کرتے اور وہاں سے ان کی فرمائش کے مطابق
دوسرا مال خرید لاتے جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی بہت منافع ہوتا

اور ان لوگوں کو بھی اتنا معاوضہ مل جاتا کہ وہ خوش ہو جاتے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہ ہوا تھا لیکن آپ کی دیانت و امانت کا تمام مکہ والوں میں شہرہ تھا اور ہر ایک کو آپ کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار تھا اس لئے آپ امین کے لقب سے مشہور تھے یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ رضی سے بھی پوشیدہ نہ تھی اس لئے انہوں نے چاہا کہ اپنی تجارت آپ کے سپرد کر کے آپ کی دنیا سے نفع اٹھائیں چنانچہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ اگر آپ ہمارا تجارتی مال شام لے جائیں تو ہم اپنا غلام آپ کی خدمت کے لئے ساتھ کر دیں اور دوسرے لوگوں کو نفع میں سے جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے زیادہ آپ کی خدمت کریں۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت نے بلند ہمت اور وسیع الحیاں انسان بنایا تھا اس لئے اس بعید سفر اور تجارت کے تعلق سے مطلق نہ گھبرائے اور فوراً منظور فرمایا۔ اسباب تجارت اور حضرت خدیجہ رضی کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر شام کی طرف تشریف لے گئے وہاں اس مال کو نہایت عقلمندی سے بہت نفع کے ساتھ آپ نے فروخت کیا اور شام سے دوسرا مال خرید کر واپس ہوئے۔ مکہ میں لاکر حضرت خدیجہ رضی کو مال سپرد کیا جس کی فروخت سے حضرت خدیجہ رضی کو یہاں دو چاند نفع ہوا۔

اب تو حضرت خدیجہ رضی پر آپ کی دیانت و امانت اور حسن انتظام نے اور زیادہ اثر کیا اور ان کے دل میں آپ کی قدر اور زیادہ ہو گئی۔ شام کے راستہ میں جب آپ ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک راہب نے جس کا نام نسطور تھا آپ کو دیکھا اور نبی آخر الزمان کی جو علامات اس

نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھیں آپ میں دیکھ کر پہچان گیا راہب میسرہ کو جانتا تھا اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہیں اس نے کہا کہ مکہ کے رہنے والے خاندان قریش کے ایک شریف جوان ہیں۔ راہب نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے۔ کیونکہ اس درخت کے میچے نبی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ٹھہرتا۔ میسرہ نے یہاں سے واپس ہونے پر اس واقعہ کا ذکر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کر دیا چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک ذی فہم اور عقلمند عورت تھیں ان تمام باتوں کے دیکھنے اور سننے سے ان کو آپ کے ساتھ سچا اعتقاد اور خالص اُمنس ہو گیا۔ جس بناء پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ارادہ کر لیا کہ اگر آنحضرت منظور فرماویں تو آپ ہی سے نکاح کر لیں۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لعلی بن امیہ کی بہن نفیسہ کو نکاح کا پیغام دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیاوی مال و متاع میرے پاس نہیں ہے لہذا فی الحال نکاح کا ارادہ نہیں۔ نفیسہ نے عرض کی کہ اگر ایسی جگہ نکاح ہو جائے کہ جہاں آپ کے مال کی ضرورت نہ ہو بلکہ مال بھی موجود ہو اور خاندانی شرافت و عزت بھی تو کیسا ہے آپ نے فرمایا کہ ایسا موقع کہاں ہے۔ اثب نفیسہ نے بیان کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حسن اخلاق اور پاک خصلت اور شرافت کی وجہ سے آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں اس کے علاوہ آپ میں اور ان میں دور کی قربت بھی ہے۔

آپ نے اس نسبت کو بلا تکلف منظور فرمایا اور اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا سب نے اس کو پسند کیا۔

چوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد کا انتقال ہو چکا تھا لہذا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا

عمر بن اسد کے پاس دستور کے مطابق رشتہ یا پیام نکاح کے لئے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ شرافت خاندانی سے کون واقف نہ تھا اور آپ کے پاکیزہ اخلاق کی مکہ میں کس کو خبر نہ تھی پھر عمر بن اسد اس مبارک تعلق سے کیسے انکار کر سکتے تھے انہوں نے بھی منظور فرمایا۔

نکاح کے لئے آپ کے چچا ابوطالب وغیرہ آپ کے ہمراہ حضرت خدیجہ کے مکان پر گئے وہاں عمر بن اسد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچانے قاعدہ کے مطابق نکاح کا خطبہ پڑھا پھر ابوطالب نے بھی خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچانے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عقد کر دیا اور پانچ سو درہم ہبہ مقرر ہوا۔ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اس عقد سے بڑی خوشی ہوئی اور آپ نے ایک اونٹ ذبح کر کے ولیمہ بھی کیا یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر ہونے میں پندرہ برس باقی تھے اور آپ کی عمر شریف پچیس سال کی تھی۔

جو لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی امید میں تھے ان کو اس واقعہ سے بہت مایوسی ہوئی۔ وہ کہتے تھے کہ نہ معلوم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عقل پر کیا پردہ پڑ گیا کہ ایک غیر غنی سے نکاح کر بیٹھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ خبر ہوئی تو کہہ دیا کہ میرے پاس جو کچھ مال ہے وہ سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے دیتی ہوں پھر تو آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اسی واقعہ کی طرف سورہ والضحیٰ میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اے محمد تم مفلس تھے ہم نے (خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے) تم کو مالدار بنا دیا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ ساتھ رہنے لگے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی

دل سے عزت کرتی تھیں اور ہر بات میں آپ کی مرضی کو مقدم سمجھتی تھیں۔ آپ بھی نہایت مروت و محبت سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے اب جو کچھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا وہ آپ ہی کا سمجھا جاتا تھا۔ اب دنیاوی فکر سے آپ کو بالکل آزادی ہو گئی اور پہلے سے زیادہ فراغت و اطمینان کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنے لگے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک یہ بھی خصوصیت

حاصل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

حضرت خدیجہ کی اولاد

وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی اور کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ صرف آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ام المومنین ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے جو والی مصر مقوقس کی نذر کردہ تھیں۔ جن سے آں حضرت نے نکاح کیا تھا۔ (مستدرک حاکم)

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند (ابوالہ) سے دو بچے پیدا ہوئے۔ بڑے کا نام ہالہ اور لڑکی کا نام ہند تھا۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد عرصہ تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پانچ سال کے بعد چار لڑکیاں۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دو لڑکے قاسم و عبد اللہ پیدا ہوئے۔ یہ سب اولاد اس عرصہ میں ہوئی جو نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے ساتھ رہنے گزارا ہے سب اولاد میں بڑی زینب رضی اللہ عنہا تھیں جو آپ کی نبوت کے ظہور سے دس برس پہلے مکہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خال زاد بھائی ابوالعاص سے کر دیا تھا۔ ابوالعاص کی والدہ کا نام ہالہ تھا اور خولید کی بیٹی تھیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن۔ ہجرت کے گیارہویں سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

سے دو برس پہلے زینبؓ کا انتقال ہو گیا۔ جب عورتیں ان کو غسل دینے لگیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے غسل و کفن کی ترکیب بتاتے جاتے تھے۔

دوسری بیٹی رقیہؓ کی شادی حضرت عثمانؓ (تیسرے خلیفہ) سے ہوئی تھی انہوں نے مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال وفات پائی اور ان کے بعد ان کی چھوٹی بہن ام کلثومؓ کا نکاح بھی حضرت عثمانؓ سے ہو گیا اسی لئے حضرت عثمانؓ کو ذی النورین (دونوں ولے) کہتے ہیں۔ ان کی بھی عمر بہت کم ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سال پہلے ۹ء میں اپنی بہن کے پاس قبر میں جا کر آرام کیا۔

ڑکیوں میں سب سے چھوٹی حضرت فاطمہؓ ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پانچ سال پہلے پیدا ہوئیں اور مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال رمضان المبارک میں حضرت علیؓ سے نکاح ہوا۔ اما حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور ام کلثومؓ زوجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینبؓ انہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل دنیا میں جاری ہے حضورؐ کی وفات کے چھ ماہ بعد عالم جاودانی کو رخصت ہوئیں۔

صاحبزادوں میں سب سے پہلے قاسمؓ پیدا ہوئے انہیں کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوالقاسم (یعنی قاسم کے باپ) کہتے ہیں یہ صرف ڈیڑھ سال کی عمر پا کر انتقال کر گئے۔ مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں وفات پائی۔ آپؐ کی اولاد میں سب سے پہلے انہیں کی وفات ہوئی۔

ان کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہؓ پیدا ہوئے اور بہت تھوڑے دن دنیا کی ہوا کھا کر گوشہ قبر میں جا سوئے۔ خدا کی رضا پر ارضی

رہنے والے صابر و شاکر ماں باپ جس طرح اپنی اولاد کے مرنے پر صبر کرتے ہیں اسی طرح حضرت خدیجہؓ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خدمات کو صبر سے برداشت کیا ان کے علاوہ حضرت خدیجہؓ کے طیب و طاہر دو اور لڑکوں کا ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ عبد اللہؓ ہی کو طیب و طاہر کہتے تھے کوئی دوسرے لڑکے نہ تھے۔

(سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے اور سب سے چھوٹے ابراہیمؓ ہیں مگر یہ حضرت خدیجہؓ کی اولاد میں داخل نہیں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے آٹھویں سال ذی الحجہ میں ماریہ قبلیہ سے پیدا ہوئے اور پیدائش کے وقت ابورافع کی بی بی (سلمہ) ماریہ کے پاس تھیں انہوں نے اپنے خاوند سے کہا کہ جاؤ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دو کہ ماریہ کے لڑکا پیدا ہوا ہے آپ نے یہ خوش خبری سن کر ابورافع کو ایک غلام انعام دیا اور کچھ کپڑا بھی دیا اور نہایت خوش ہوئے ساتویں روز عقیقہ کیا اور ابراہیم نام رکھا ان کے بالوں کے وزن

لے ماریہ قبلیہ قومی قوم سے تھیں اس لئے ماریہ قبلیہ کہتے ہیں اسکندریہ کے حاکم مقوقس نے ماریہ امہان کی بہن سیرین ایک غلام ایک خچر ایک کپڑا ایک اونٹ اور بہت سے سونے کے ٹکڑے میں مدینہ تحفہ بھیجا تھا آپ نے ماریہ کی بہن سیرین کو حضرت حسان (اسلامی شاعر) کو دے دیا اور ماریہ کو اپنے لئے رکھ لیا، انہیں سے ابراہیم پیدا ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چھ برس زندہ رہیں اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے زمانہ میں ۱۶ھ میں انتقال کیا۔ حضرت عمرؓ ان کے جنازے کے لئے لوگوں کو خود بلا تے پھرتے تھے۔ اللہ اللہ ان بزرگوں کے دل میں رسول برحق کی کنسی قدر تھی کہ آپ کی بی بی کے جنازے کے لئے اس قدر اہتمام تھا۔

کے برابر آپ نے چاندی خیرات فرمائی اور بالوں کو دفن کر دیا۔

آپ نے ان کو پرورش کرنے اور دودھ پلانے کے لئے ایک عورت (ام سہینا) کے سپرد کر دیا تھا جن کے خاوند کا نام ابوسیف تھا اور آہنگری کا کام کرتے تھے اللہ اللہ اولاد کی محبت سب کو ہوتی ہے بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ جن کو اولاد پر شفقت نہ ہو تو سمجھو کہ خدا نے اس کے دل سے اپنی رحمت کو نکال لیا ہے یا وجود ابوسیف کا مکان بہت دور تھا مگر آپ اپنے پیارے بچے کو دیکھنے کے لئے کبھی کبھی تشریف لے جاتے ابوسیف اپنی آہنگری کے کام میں مشغول ہوئے اور مکان دھوئیں سے بھرا رہتا صحابہ آگے دوڑ کر خبر کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں تب دھواں موقوف کرتے (جب آپ ابراہیم کی زیادہ بیماری کی خبر سن کر تشریف لے گئے ہیں تو ایسے وقت پہنچے کہ بچے کو ہچکیاں آرہی تھیں اور روح جنت کو جانے کے لئے تیار تھی یہ منظر دیکھ کر اس رحمت عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے لوگوں نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آنسو بہاتے ہیں آپ نے فرمایا دل سے رنج کرنے اور آنکھ سے رونے میں کوئی حرج نہیں یہ تو خدا کی رحمت ہے ہاں بدن تو چٹا اور چلا کر رونا شیطانی کام ہے۔

ان کی وفات ہجرت کے دسویں سال سولہ مہینے کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور آپ نے نہایت حسرت و افسوس کے ساتھ ان کو جنت البقیع میں دفن فرمایا ان کی قبر پر پانی چھڑکا اسی روز اتفاق سے آفتاب کا گرہن ہوا لوگوں نے خیال کیا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے آفتاب کو گرہن لگا ہے آپ نے اس خیال کو دور کرنے کے لئے فرمایا کہ چاند سورج کو کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے گہن نہیں لگتا یہ صرف خدا تعالیٰ کی قدرت کے نشان

ہیں جن سے مندوں کو ڈرا دیتا ہے کہ دیکھو ہم ایسی بڑی بڑی روشن چیزوں سے
کس طرح نور چھین سکتے ہیں۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو جانے
کے بعد پندرہ سال آنحضرت صلی

نبوت کا ظہور اور

اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی

حضرت خدیجہ کی تصدیق

کو آرام سے زندگی بسر کرتے گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی نبوت
کے اظہار اور دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا زمانہ آ گیا۔ چھ مہینے سے
آپ کو ایسے خواب نظر آنے لگے تھے کہ جو کچھ رات کو خواب میں نظر آتا بالکل
دہی ظاہر ہو جاتا۔ آپ کی عادت تھی کہ کبکے کے ایک پہاڑ حرام کی کھوہ میں
جس کو غار حرام کہتے تھے عبادت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کچھ کھانا ساتھ
کر دیتیں اور آپ کئی کئی روز تک وہیں عبادت میں مشغول رہتے اسی عادت کے
مطابق ایک مرتبہ کئی روز تک عبادت میں مصروف رہے کہ خدا تعالیٰ کے
فرشتے (حضرت جبریلؑ) نے انسانی صورت میں آکر آپ کو نبوت کا پیام
پہنچایا۔ تین بار آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دیا یا اور سورۃ اقرآن کی شروع
کی آیتیں پڑھائیں۔

چونکہ یہ سب سے پہلا واقعہ تھا اور نبوت کا بار اٹھانا کوئی آسان کام
نہ تھا اس لئے آپ گھبرا گئے کانپتے ہوئے مکان پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی
سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھا دو۔ جب ذرا دل قابو میں ہوا تو اپنے دکھ درد
اور مشکل کام کلاہیک سے غم خوار اور ہمدرد سے بیان کرتے ہیں حضرت خدیجہ
سے تمام حال بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اس امر میں جان کا خوف ہے۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو ایک تجربہ کار اور دانشمند عورت تھیں یہ واقعہ

سن کر فوراً آپ کی نبوت کا یقین آگیا اور ایمان لے آئیں اور تسلی و تسکین دہی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں آپ میں چونکہ بہت سی عمدہ خصوصیات میں موجود ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مہانوں کی تواضع اور رشتہ داروں سے شفقت سے پیش آتے ہیں اس لئے خدا سے امید ہے کہ وہ کوئی ایسی بات آپ کے ساتھ کرے گا جس میں آپ کے واسطے کسی نقصان کا احتمال ہو آپ نے اس تسلی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ملے گئیں جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا وہ بہت بوڑھے ضعیف العمر قدیم زمانے کے شخص اور توریت و انجیل کے عالم تھے ورقہ نے تمام حال سن کر نہایت خوشی سے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے نبوت مبارک ہو بے شک یہ وہی فرشتہ تم کو نظر آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔

نبوت کے عطا ہونے کا یقین تو آپ کو غار ہی میں ہو گیا جب فرشتہ نے آکر قرآن پڑھا یا لیکن ابتدا میں کسی بڑے مشکل کام کو کرنے سے جیسے دل ڈرتا ہے اسی قسم کا اندیشہ آپ کو تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ورقہ کی تسلی سے وہ بھی جاتا رہا۔ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ایسے وقت میں آپ کو تسلی دینے اور ہمت بندھانے سے خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمت بلند اور دانشمندی کا پورا اندازہ ہو سکتا ہے یہی ایک بڑی فضیلت ہے جو ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہ ہوئی۔

اب وہ زمانہ شروع ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کا پیام پہنچا کرتے اور عرب کے لوگ جن بنوں کو صد ہا برس سے پوجتے چلے آئے تھے ان کو چھڑا کر خدائے واحد کی عبادت کرنے اور کفر سے توبہ کرنے کی تلقین فرماتے اسی بنا پر تمام لوگ آپ کے دشمن ہو گئے طرح طرح

کی تکلیفیں پہنچانے کی تدبیریں کرنے لگے اور بہت سی اذیتیں دینی شروع کر رہے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت و استقلال کے آگے ان لوگوں کی کچھ نہ چلی اور آپ نہایت مستعدی سے کلمہ حق کی اشاعت میں مشغول رہے۔

پوری قوم کا مخالفت ہو جانا ایک تنہا ہستی کے مقابلہ میں کچھ سنبھالی مصیبت نہیں اور تم بالائے ستم یہ کہ عزیزوں اور رشتہ داروں نے بھی مخالفین کا ساتھ دیا۔ اس مصیبت کے زمانہ میں اگر کوئی بہ ظاہر مددگار اور ہم نوا تھا تو وہ صرف آپ کے چچا ابوطالب تھے یا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ابوطالب چونکہ قریش کے سردار اور بزرگ سمجھے جاتے تھے اس لئے لوگ ان کا ادب کرتے تھے اور اکثر دفعہ صرف ان ہی کے رعب اور لحاظ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے ارادے سے رُک جاتے تھے۔

خاندانی شرافت اور عزت کے ساتھ جب کسی شخص کو دنیاوی عسروج اور ثروت حاصل ہوتی ہے اور کچھ لوگ اس کے ہمارے پر گزارہ کرنے والے ہوتے ہیں تو عام لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شرافت اور ثروت کا بھی لوگوں کو بہت لحاظ تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کو تکلیف سے بچانے اور آپ کی حفاظت کی پوری کوشش کرتی تھیں۔

آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا
ابوطالب آپ کی باتوں کو حق سمجھتے

حضرت خدیجہ کی وفات

تھے اور دل میں جانتے تھے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے لیکن اسلام قبول کرتے ہوئے شرم کرتے تھے کہ لوگ کہیں گے کہ ابوطالب جیسا عقلمند سردار ایک بچے کی باتوں میں آگیا جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے

آپ کی ہر طرح کی حمایت اور محبت و شفقت میں بھی کوئی کمی نہ رکھتے تھے اور آپ کے نہایت زبردست پشت پناہ و مربی سمجھے جاتے تھے اور ان کا رعب اور وجاہت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دنیاوی عزت و شرافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کی ایذا رسانی سے بچانے کے لئے ایک بہت بڑا محافظ کا کام دیتی تھی۔

اب خداوند تعالیٰ کو یہ دکھانا منظور تھا کہ بلا ظاہری نصرت کے ہم اپنے بچے نبی کی کیسے حفاظت کرتے ہیں اور کس طرح ان کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلاتے ہیں۔

ابوطالب کی عمر اسی برس سے زیادہ ہو گئی تھی۔ نبوت کے دسویں سال ذیقعدہ کے مہینے میں ان کو پیام اجل پہنچا۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کے رنج کے ساتھ اس کا بھی نہایت افسوس رہا کہ وہ آخر دم تک ایمان نہیں لائے۔

جس شخص کی تمام قوم اور رشتہ دار دشمن اور جان کے خواہاں ہوں اور دنیا میں کوئی اپنی طرف نظر نہ آتا ہو اس کو ایسے ہربان چچا کے دنیا سے اٹھ جانے کا جو کچھ صدمہ ہو جاسے اور وہ جتنا رنج کریں تصور ہے۔ یہی مصیبت آپ کے مبارک اور پاک دل کو پریشان کرنے کے لئے کچھ کم نہ تھی کہ ایک اور صدمہ سے دوچار ہونا پڑا یعنی ہمیشہ کی مہر و وہما خادمہ اور جان نثار بی بی سے بھی جدائی کی گھڑی آگئی۔ یعنی ابوطالب کے چند ہی روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سفر آخرت پیش آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دسواں سال تھا کہ اس نیک دل، پاک بی بی نے پینسٹھ سال کی عمر میں اس چند روزہ دنیا سے منہ پھیر کر آخرت کا رستہ لیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی سے بہت رنج ہوا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا اس لئے غسل و کفن کے بعد ان کو مدینہ کے مقبرہ جحون میں دفن کیا گیا۔

اب تو آپ پر دوسرا صدمہ اور دوسری طرفہ مصیبت ہو گئی جس کو آپ نے راضی بہ رضا و قضا ہو کر نہایت صبر و شکر سے برداشت کیا۔ آپ پر اس قدر رنج غالب تھا کہ اندیشہ ہوتا تھا کہ دیکھئے آپ بھی زندہ رہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت اور سچے دل سے خدمت گزاروں کا خیال تو آپ کو ہمیشہ ہی رہا اور تمام عمر یاد فرماتے رہے لیکن عرصہ تک ان کی وفات کا بہت اثر اور رنج خاطر مبارک پر رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو جانے کے بعد اس رنج میں تخفیف ہو گئی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بیس سال چھ ماہ آپ کی خدمت بابرکت اور نکاح میں رہ کر آپ کو آرام پہنچایا یہ مدت نہایت خوبی سے بسر ہوئی وہ بھی دل سے آپ کی قدر کرتی تھیں اور آپ کو بھی پوری محبت تھی جب تک یہ زندہ رہیں دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا اور ان کے بعد باوجود کئی نکاح ہو جانے کے برابر ان کو یاد فرما کے تعریف کیا کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے ہوں اور ان کا ذکر نہ آجاتا ہو۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میں نے دیکھا بھی نہیں اور وہ میرے آنے سے بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں لیکن مجھے اتنی بغیرت اور رشک آپ کی کسی بی بی پر نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا

۱۔ جحون ایک پہاڑ کا نام ہے وہیں قبرستان ہے اب اس کو جنت المعلیٰ کہتے ہیں۔

پر آتا تھا آپ ان کو اکثر یاد فرماتے رہتے اگر کبھی کوئی چیز تقسیم کرنے کے قابل ہوتی تو آپ تلاش کر کے حضرت خدیجہ رضی کی ہجولیوں اور سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے دفا داری اور یاد نگاری کی کتنی بہترین مثال ہے۔

حضرت خدیجہ رضی کی وفات کو عرصہ گزرنے کے بعد ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے کہ باہر سے حضرت خدیجہ رضی کی بہن نے آواز دی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت خدیجہ رضی کی آواز سمجھ کر چونک پڑے پھر فوراً ہی خیال آگیا کہ ان کی بہن پکارتی ہیں۔

ایک روز آپ نے بہت تعریف فرمائی تو حضرت عائشہ رضی نے کہا کہ بس اب قریش کی ایک بڑھیا کو کہاں تک یاد کیجئے گا خدا نے آپ کو اس سے اچھی بیبیاں عطا فرمادی ہیں اور آپ غصہ سے کانپ اٹھے اور فرمایا انہیں اس سے بہتر زوجہ نہیں ملی اس نے ایسے وقت میری بات کو مانا اور ایمان لائی جبکہ تمام لوگ مجھ کو چھلاتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے اور اپنے مال سے ایسے وقت میں میری مدد کی ہے کہ جب کسی کے مال سے بھی مجھے سہارا نہ تھا اور خدا نے مجھے اس سے اولاد عطا کی اور سب بیبیوں کی اولاد سے محروم رکھا۔ حضرت عائشہ رضی کہتی ہیں کہ پھر تو میں نے عہد کر لیا کہ حضرت خدیجہ رضی کو کبھی کسی برائی سے نوباد کروں گی۔ ایک بہت بڑی عزت و فضیلت جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں حضرت خدیجہ رضی کو یہ حاصل ہے کہ وہ تمام دنیا میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد ایمان لایا تھا نہ عورت نہ بوڑھا اور نہ بچہ اول ہی مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فارحہ سے تشریف لاکر اپنی نبوت اور فرشتہ کا حال بیان فرمایا تو انہوں نے اسی وقت گواہی دی اَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ (بے شک تم خدا کے رسول ہو) اس کے

بعد جو کچھ امداد و اعانت ان کی ذات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ کے رنج و مصائب میں ان کی وجہ سے جس قدر تخفیف ہوئی اس کا بیان ہو چکا ہے (حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ آکر عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک برتن میں کھانا لائے ہوئے آئی ہیں جب آپ کے پاس پہنچیں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہہ دیجئے اور ان کو جنت میں ایک موتی کا محل مل جائے گی خوشخبری سنا دیجئے گا جس میں آرام ہی آرام ہوگا۔ تکلیف کا نام نہ ہوگا)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین و آسمان کی بہترین عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں ان دینی فضیلتوں کو لئے ہوئے جن کا اندازہ ان کے حالات سے ہو سکتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عقل و دانش، ہوشیاری و بلند ہمتی کے زور سے بھی آراستہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دانشمندی کی ایک بہت بڑی مثال یہ بھی تھی کہ آپ کو اپنی تجارت کے لئے پسند کیا تھا۔

غرض کہ ابوطالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد دشمنوں کو تکلیف پہنچانے کا موقعہ مل گیا اور خوب مخالفت کی آپ تمام تکالیف کو خذہ پشانی سے برداشت کرتے ہوئے مکہ میں رہا کئے یہاں تک کہ تین سال کے بعد جن دنوں میں کافر آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو وطن چھوڑنے کا حکم فرمایا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے جہاں پہنچ کر اسلام کو وہ رونق اور ترقی ہوئی کہ تمام دنیا میں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد و الرسول اللہ کی آواز پہنچ گئی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔

(ماخوذ اسوہ صحابہ و الصحابیات)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی

حضرت ابو بکر صدیق رضی جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اول خلیفہ اور سب سے افضل صحابی تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی آپ کی بیٹی تھیں ان کی والدہ کو ام رومان کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چار سال ہو چکے تھے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی پیدا ہوئیں۔

چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی کا گھر نور اسلام سے روشن ہو چکا تھا اس لئے ان کی ولادت پر کسی قسم کے رنج و ناراضی کا ظہور نہیں ہوا جیسا کہ عرب کے لوگوں میں ایام جہالت میں لڑکیوں کی پیدائش پر ہوتا تھا بلکہ ایک قسم کی مسرت کا اظہار کیا گیا اور حسب طرح ایک سیدھی سادھی طرز پر زندگی بسر کرنے والوں کی اولاد پرورش پاتی ہے اسی طرح حضرت عائشہ رضی کی پرورش ہوئی خدا تعالیٰ کے سوا ابھی کسے خبر تھی کہ اس لڑکی کے مبارک نصیب میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عزیز بی بی بننے کی سعادت لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بی بی حضرت خدیجہ رضی کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا لہذا آپ کو نکاح کی ضرورت تھی۔

عثمان بن مظعون کی بی بی نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی ہیں مسلمان ہونے سے پہلے بھی شراب نہیں پیتے تھے مکہ سے جو لوگ آپ کے ہمراہ مدینہ آئے ان میں سب سے پہلے مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال کے بعد آپ نے ان کے چہرہ کو بوسہ دیا اور بقیع میں سب سے پہلے ان کو دفن کیا ان کی قبر پر آپ نے نشان کے لئے پتھر رکھ دیا تھا۔

علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا کس سے نکاح کریں انہوں نے عرض کیا کنواری اور بیوہ ہر قسم کی عورتیں موجود ہیں اگر آپ کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں تو آپ کے سب سے زیادہ عزیز دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی موجود ہے اور اگر بیوہ سے کرنا ہے تو زینب کی بیٹی سودہ سے ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ خدا تعالیٰ پر ایمان لاکر آپ کی تمام باتوں کو مان چکی ہیں۔

چونکہ دونوں موقع نہایت مناسب تھے آپ نے فرمایا دونوں جگہ جا کر ذکر کرو جہاں ہو جائے گا بہتر ہے۔ عثمان بن مظعون کی زوجہ ایک دانشمند عورت تھیں اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئیں اور نہایت خوبی سے اہطار مدعا کیا۔ جو خاندان رسول برحق پر جاں نثاری اور آپ کے پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کو ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتا تھا اسے اس عزت کو نہایت خوشی سے قبول کرنے میں کیا انکار ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہمی دوستی کی وجہ سے بھائی سمجھے جاتے تھے اور اس علاقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بستھی ہوتی تھیں اس لئے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے ہو سکتا ہے یا نہیں اسی خیال سے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد آجاتے ہیں ان کو آنے دو وہ آئیں تو جواب دیں اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے آئے ان سے اس کا ذکر کیا تو ان کو بھی یہی خیال ہوا اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ان سے کیسے ہو سکتا ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی بی بی نے یہ سب حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا آپ نے فرمایا کہ جا کر کہہ دو بے شک ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے اسلامی بھائی ہیں لیکن ان کی لڑکی سے میرا نکاح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ رشتہ کے حقیقی بھائی نہیں۔ انہوں نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

نے نہایت خوشی سے رشتہ منظور کر لیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں تشریف لے آئیں نکاح کر دیا جائے گا۔

اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ظاہر ہوئے دس برس ہو چکے تھے اور عائشہؓ کی چھ سال کی عمر تھی شوال کا مہینہ تھا آپ اور بعض خاص لوگ حضرت ابوبکرؓ کے مکان پر تشریف لائے اور اسلام کے قاعدہ کے مطابق سیدھا سا دھان نکاح ہو گیا۔

یہ زمانہ عائشہؓ کے ایسے بے خبری اور بچپن کا تھا کہ ان کو نکاح کی خبر بھی نہ ہوئی اور یہ نہ معلوم ہوا کہ دین و دنیا کی سب سے بڑی دولت، برکت اور عزت جو کسی عورت کو مل سکتی ہے مجھ کو حاصل ہوئی اسی کم عمری کی وجہ سے رخصت بھی ابھی ملتوی رہی۔

حضرت ابوبکرؓ کو جہاں نثار دوست اور خادم خاص ہونے کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ پہلے سے حاصل تھا مگر اس رشتہ اور تعلق سے ایک خاص عزت امتیاز حاصل ہو گیا سو وہ روز کے پاس جو پیام گیا تھا وہ بھی منظور ہو گیا اور نکاح ہو کر یہ آپ کے مکان پر بھی آ گئیں اس کے بعد تین برس کے قریب سب لوگ مکہ میں رہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ پیش آیا جو آپ کی زندگی کا ایک ممتاز واقعہ اور اسلام کے لئے ایک شاندار حکم تھا جب آپ مدینہ میں جا کر اطمینان سے پڑ گئے تو زید بن حارثہ کو ابورافع کے ساتھ دوادنت اور پانچ سو درہم

۱۔ ابورافع عباس کے غلام تھے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا جب عباسؓ کے مسلمان ہونے کی خوشخبری آئی تو آنحضرت نے ان کو آزاد کر دیا تھا زید بن حارثہ جب بچے تھے تو ان کی والدہ ان کو لے کر ان کی نہیال میں گئی تھیں وہاں ڈاکو دید کہ اٹھائے گئے اور درخت

خروج دے کر مکہ بھیجا کہ اپنی بی بی ام المین اور بیٹے اسامہ کو اور فاطمہ زہرا کو کلثوم
 آپکی صاحبزادیوں کو اور سودہ رضی اللہ عنہا کو جن کے نکاح کا حال ابھی بیان
 ہوا ہے مدینہ میں لے آئیں انہیں کے ہمراہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد اللہ کو
 بھی مکہ میں بھیجا تاکہ سب کے ساتھ اپنی والدہ ام رومان اور اپنے بھائی عبدالرحمن
 اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہا اپنی دونوں بہنوں کو مدینہ میں لے آئیں۔

مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے ساتھ ہی بیٹے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نو سال
 کی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر سوال کے ہینے میں حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کیا گیا۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت
 صحبت میں اتفاق و محبت و اتحاد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر گزری کہ آپ
 کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہو گئے۔

عرب کے لوگ قدیم خیال کے مطابق سوال کے ہینے میں نکاح کو خمس
 اور نامبارک خیال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا یہ خیال دور کرنے کے
 لئے فرماتی تھیں کہ دیکھو میرا نکاح اور رخصت دونوں باتیں سوال ہی میں
 ہوئی ہیں اب تم ہی بتلاؤ کہ میرے سے زیادہ خاوند کا اتفاق کس کو نصیب
 ہوگا اور سب بیبیوں میں میرے سے زیادہ کسی سے بھی محبت و الفت
 ہے؟

ابھی صفحہ ۴۶ کا ذکر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے نے چار سو درہم میں خرید لیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو لے کر
 دیدیا نکاح کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ان کے گھر والوں کو خیر ہوئی تو ان کے باپ اور
 چچا اپنے آئے آپ نے خدیجہ کو اختیار دیدیا کہ چاہے ہمارے پاس رہو خواہ گھر چلے جاؤ۔ مگر آپ کے
 اخلاق و احسانات کے شیدا ہو چکے تھے گھر والوں کے ساتھ نہ گئے آپکی خدمت میں رہنا پسند کیا۔

حضرت عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مدینہ میں رہتے ہوئے آنحضرت کی محبت اور دوسرے حالات

کی نکاح کئے تھے مگر جو محبت آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی وہ کسی بی بی سے نہ تھی۔ ظاہری مراسم اور خوش

معاملگی میں آپ سب بیبیوں سے برابر پیش آتے تھے اور خدا سے عرض کرتے تھے کہ یا اللہ جو باتیں میرے اختیار میں ہیں ان میں برابری کرتا ہوں

اور جو چیز اختیار کی نہیں (یعنی قلبی محبت) اس میں میرا تصور معاف کرنا۔ بعض دفعہ سفر میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ ہوتی تھیں کبھی آپ ہی کے اونٹ پر کبھی دوسری سواری میں۔

ایک دفعہ سفر میں جاتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ پر سوار تھے باتیں کرتے جاتے تھے ایک مقام پر اترے تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آؤ عائشہ رضی اللہ عنہا تم ہمارے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور ہم تمہارے اونٹ پر سوار ہو جائیں گو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت عقلمند تھیں مگر کبھی بھی تو عمر تھیں بلا سوچے

سمجھا سے منظور کر لیا چلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی معمولی اونٹ پر سوار ہوئے جس پر آج خلافت معمول حفصہ رضی اللہ عنہا سوار تھیں قافلہ چل دیا اور آپ راستہ میں ان سے باتیں کرتے رہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی اس دل لگی اور منہی کی بات سے بڑا رنج ہوا اور اس اونٹ کے تباہی کو بہت ہی ناگوار سمجھ کر تمام راستہ افسوس کرتی رہیں کہ بڑا ہی دھوکہ کھایا

منزل پر اترے تو بیچو کر روئے لگیں اور بچوں کی طرح اڑیاں رگڑ کر اپنے آپ کو کوسنے لگیں آپ نے تسلی دے کر پہلا دیا اور خوش کر کے جب معمول اپنے اونٹ پر سوار کر لیا جس سفر میں تیمم کا حکم نازل ہوا ہے اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی

ساتھ تھیں۔ خداوند کریم نے ان ہی کی برکت سے مسلمانوں کی آسانی کے لئے یہ احسان فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ جہاں پانی نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک موٹیوں کا ہار جسے وہ اپنی بہن اسماء سے مانگ کر لائی تھیں گلے سے ٹوٹ کر گر گیا آپ نے دو آدمی تلاش کے لئے روانہ کئے مگر نہ ملا اس میں نماز فجر کا وقت ہو گیا پانی کے لئے سب پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ناراض ہوئے اور کہا کہ تمہاری نادانی سے تمام شکر کو تکلیف ہوئی اور ایسی جگہ ٹھہرنا پڑا کہ جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے باپ کے ادب اور آپ کی بے آرامی کے سبب دم نہ مارا تھوڑی دیر کے بعد خداوند کریم نے وہ آیتیں نازل فرمائیں جن میں یہ حکم ہے کہ

”جب تم کو پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو مٹی سے تمیم کر لیا کرو۔“

چلتے وقت جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ اٹھایا گیا تو وہیں سے ہار بھی مل گیا۔ حج کعبہ کے فرض ہونے کا حکم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے چھٹے سال ہی آگیا تھا لیکن آپ نے اپنی وفات سے کچھ پہلے ہی اس کو ادا کیا ہے جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک قابل یاد کار حال اور اسلام کے لئے دینی و دنیوی فائدوں سے بھرا ہوا سفر تھا۔ اس کثرت سے مسلمان اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے کہ حساب و شمار نہ ہو سکتا تھا۔ پھر بھی ایک لاکھ چوبیس ہزار آدمیوں کا اندازہ کیا گیا۔ اس میں آپ نے فرمادیا تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو۔ شاید اس سال کے بعد پھر تم لوگوں سے ملنا نہ ہو۔ اس سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ہمراہ حج کرنے گئی تھیں اور آپ کی دوسری بیبیاں بھی تھیں۔

جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہؓ سے نہایت الفت تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا بھی دل و جان سے آپ سے محبت رکھتی تھیں اور جہاں تک ہو سکتا تھا آپ کو راحت و آرام پہنچانے میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہؓ رضی اللہ عنہا تمہارے رنجیدہ اور خوش ہونے کی حالت کو میں خوب سمجھتا ہوں جب تم خوش ہوتی ہو تو اس طرح قسم کھاتی ہو کہ محمدؐ کے رب کی قسم اور جب رنجیدہ ہوتی ہو تو ہمارا نام نہیں لیتیں بلکہ یوں کہتی ہو کہ ابراہیمؑ کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا کہ درست ہے لیکن رنج میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں مگر دل سے آپ کی محبت نہیں جاتی۔

ایک روز رات کو دیکھا کہ آپ بستر پر نہ تھے حضرت عائشہؓ کو شبہ ہوا کہ آپ کسی دوسری بی بی کے گھر تشریف لے گئے اندھیرے میں ہاتھ سے ٹوٹنا شروع کیا تو ان کے ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑے۔ آپ نماز پڑھتے تھے تب تو عائشہؓ نے سانس بھر کر کہا: ہم کس خیال میں ہیں اور آپ کس حال میں ہیں۔“

ایک مرتبہ آپ نے اپنی تمام بیبیوں کو خداوند کریم کے فرمان کے مطابق یہ حکم سنا دیا کہ اگر تم دنیوی مال و متاع اور عیش و آرام کو پسند کرتی ہو تو ہم تم کو خوشی سے طلاق دے دیتے ہیں اگر خدا اور خدا کے رسول کی مرضی اور آخرت کی راحت چاہتی ہو تو دنیا کی تکلیفوں سے دل برداشتہ نہ ہو اور ہمارے نکاح میں رہو۔ سب سے پہلے یہ حکم آپ نے حضرت عائشہؓ کو سنایا مگر ان کی نوعمری اور ناتجربہ کاری کی بنا پر فرمایا کہ اپنے والدین سے پوچھ کر جواب دینا کیوں کہ آپ جانتے تھے کہ ان کے والدین تو ہرگز جدائی

کی اجازت نہ دیں گے یہ شاید اپنی نادانی اور ناتجربہ کاری کی وجہ سے جدائی کو پسند کر لیں) لیکن آفرین ہے حضرت عائشہ کی سمجھ کو کہ انہوں نے فوراً تعجب سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملے میں بھی کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو پسند کرتی ہوں اور اس لئے آپ کا دامن فیض چھوڑنا مجھے ہرگز گوارا نہیں مگر دوسری بیبیوں کو میرا یہ جواب نہ تپلائیے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی اولاد نہ تھی مگر اس کا انہیں مطلق خیال اور رنج نہ تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کو دوسری باتوں کا خیال تک نہ آتا تھا اور آپ کی خدمت میں اس قدر مشغول تھیں کہ اس قسم کے خیالات ان کو غمگین نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ ان کے بھانجے کا نام عبد اللہ تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی ام عبد اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ تمام زندگی میں جو سب سے بڑی مصیبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تھی اٹھارہ برس کی عمر میں خاندان کا سر سے اٹھ جاتا زبردست صدمہ کی بات ہے اور پھر خاندان بھی کیسا بیبیوں کا پیشوا اور دین و دنیا کا سردار جس کی مثل نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض شرعی ہوا جو دنیا سے مفارقت کا سبب بنا تو ابتدا میں باری باری آپ ہر بی بی کے مکان پر رہتے تھے لیکن آخر میں سب بیبیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر تم بخوشی اجازت دو تو میں عائشہ کے مکان میں مرض کے ایام گزاروں چونکہ آپ کی خوشی اور راحت و آرام سب کو مقدم تھا اس لئے سب نے اسے منظور فرمایا پھر تو دنیا سے رخصت ہونے تک آپ وہیں رہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تمام دنیا سے علاوہ

چھوڑ کر آپ کی خدمت میں مصروف ہو گئیں ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب دن ہوا اور کب رات آگئی ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کرتی تھیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ میرے ہمارے سے بیٹے ہوئے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نازک اور پاک دل نے آج تک کوئی صدمہ نہ اٹھایا تھا۔ آپ کی وفات کے صدمہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں لیکن اپنی دانشمندی عقل و تدبیر سے کام لے کر جو قدرت نے انہیں بڑی فیاضی سے عطا کیا تھا صبر کیا اور دل کو سنبھالا جب تک زندہ رہیں اس صدمہ کو دل میں رکھا۔ دل سے جس قدر یاد کرتی ہوں گی اس کا حال تو خدا ہی کو معلوم ہو گا مگر زبان سے بھی موقعہ بہ موقعہ پر ہر بات میں آپ ہی کا ذکر کرتیں اور آپ کو یاد کرتی تھیں اور ایسے خاوند کو کیوں نہ یاد کرتیں جن کی یاد دین و دنیا کی بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد و علیٰ آلہ و اصحابہ و ازواجہ وسلم۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو ہی برس بعد اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا صدمہ عظیم اٹھانا پڑا۔ ان دونوں عظیم المرتبت ہستیوں کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اگرچہ زندگی کا لطف باقی نہ رہا لیکن خداوند کریم نے مسلمانوں کو علم کا فیض پہنچانے کے لئے بہت عرصہ تک ان کو زندہ رکھا۔ بڑے بڑے علیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے مشکل مسائل پیش کرتے اور نہایت اطمینان اور تشفی کا جواب پاتے تھے۔

جس زمانہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے

خلیفہ) شہید ہو گئے اور حضرت علی رضی خلیفہ ہوئے تو حضرت عثمان رضی کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے بدلہ لینا اس وقت مشکل ہو رہا تھا بعض آدمیوں کو شبہ ہو گیا کہ حضرت علی رضی ان کو بچانا چاہتے ہیں انہیں قاتلوں کو حضرت علی رضی سے طلب کرنے اور سزا دلانے کے لئے حضرت زبیرؓ کو حضرت عائشہ رضی کو مکہ سے اونٹ پر سوار کر کے حضرت علی رضی کے پاس بصرہ لے گئے وہاں دونوں کے درمیان بعض شری اور فساد کی لوگوں کی سازشی تدبیروں سے ایسا اتفاق ہوا کہ باہم جنگ کی نوبت آگئی اور جنگ جمل کا واقعہ پیش آ گیا۔ آخر حضرت عائشہ رضی کی سواری کا اونٹ جس پر وہ سوار تھیں سکی کچل کر ٹپ کی کچھ مہین بی بکر نے سنبھالا اور حضرت علی رضی نے ان کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا زمانہ
حضرت عائشہ رضی کی وفات تو حضرت عائشہ رضی کے لئے نہایت مبارک
 زمانہ اور خوشی کا وقت تھا۔ مگر آپ کے بعد جو عمر گزری اس میں بہت سے
 رنج و کھینچے مسلمانوں کے باہمی جھگڑے اور دنیا میں طرح طرح کی خرابیاں
 دیکھ کر ان کے دل کو بہت صدمہ پہنچتا تھا اور دل ہی دل میں بہت کڑھتی
 تھیں بہت سے واقعات دیکھے اور صبر کیا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم سے سینتالیس سال بعد جس زمانہ میں حضرت امیر معاویہ رضی خلیفہ
 تھے ان کو بھی سفر آخرت پیش آیا۔ رمضان المبارک میں جب کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو ستاون برس گزر چکے تھے۔ طبیعت علیل ہوئی
 اور نسل کی رات میں سترہ رمضان کو چھیا سٹھ سال کی عمر میں اس دنیائے
 فانی کو چھوڑ دیا۔

گو ان کی وفات سے تمام مسلمانوں کو غم اور صدمہ عظیم ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ کیونکہ وہ لوگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار اور نشانی سمجھتے تھے اور دین کے بڑے بڑے کاموں میں ان سے مدد لیتے تھے غسل و کفن کے بعد جنازہ باہر لایا گیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ کی نماز پڑھائی چوں کہ یقیح میں دفن کرنے کی وصیت کی تھی اس لئے وہیں آپ کے بھائیوں اور بھتیجیوں نے قبر میں اتار کر دفن کیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

حضرت عائشہؓ کی تفصیلات علمی اور بزرگی کے لئے کافی ہے کہ وہ رسول

حضرت عائشہؓ کا علم و فضل

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و صحبت میں نو برس رہیں اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ ایک مرتبہ عمرو بن العاصؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے۔ فرمایا عائشہؓ رضی اللہ عنہا۔ پوچھا مردوں میں فرمایا ان کے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ وہ علم جس کی بزرگی دنیا میں سب سے زیادہ ہے حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا سے مالا مال تھیں۔ دنیا بھر میں آپ سے زیادہ عالم کوئی عورت

۱۔ یہ مشہور صحابی ۳۰ سال کی عمر میں مسلمان ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے مصر فتح کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک وہیں رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاتم مددگار تھے۔ ۹۰ سال کی عمر میں ۳۰ سال میں وفات ہوئی ان کے بیٹے عبد اللہ نہایت عابد و زاہد مشہور صحابی تھے۔

نہ ہوگی۔ اگر تمام دنیا کی عورتوں کے علم کو ملائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کا علم اس سے زیادہ رہے گا اور اگر آپ کی تمام بیبیوں کے علم کو یکجا کریں تو حضرت عائشہ رضہ کا علم اس سے بڑھ جائے گا۔ بڑے بڑے صحابہ میں جو علم کے کمال میں اول درجہ کے سمجھے جاتے تھے جب کسی مسئلہ پر بحث آ پڑتی اور باہم فیصلہ نہ ہوتا تو سب حضرت عائشہ رضہ سے رجوع کرتے اور ان کے محققانہ فیصلے کو سب نہایت خوشی سے مانتے اور اگرچہ عزت و احترام کی خاطر ان کو ام المومنین (یعنی مومنوں کی ماں) ہونے کی فضیلت کافی تھی لیکن اس علمی خصوصیت کی وجہ سے سب صحابہ ان کا نہایت ہی احترام و تعظیم کرتے تھے۔ بعض مشکل مسائل میں بڑے بڑے اہل علم و فضل صحابہ سے ان کی رائے علیحدہ ہوتی اور اپنی بات کو بزرگی یا زبردستی سے منوانا نہ چاہتی تھیں بلکہ خوبی کے ساتھ قرآن و حدیث سے دلیل پیش کرتی تھیں (چنانچہ اس مسئلہ میں حضرت عمر رضہ سے اختلاف تھا کہ رشتہ داروں کے رونے چلانے سے میت کو عذاب

ہوتا ہے یا نہیں۔)

حضرت عطا کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضہ کی رائے سب سے عمدہ ہوتی تھی اور وہ

۱۔ (حضرت عمر رضہ فرماتے تھے کہ عذاب ہوتا ہے حضرت عائشہ رضہ کہتی تھیں کہ اگر رشتہ دار ماتم کریں اور چلائیں تو مردہ کی کیا خطا ہے عذاب جب ہوتا ہے کہ زندگی میں وہ شخص رونے چلانے کو پسند کرے یا رشتہ داروں سے کہہ گیا ہو کہ مجھ کو اس طرح رونا۔)

۲۔ عطا اور عروہ دونوں مشہور تابعی اور جلیل القدر عالم تھے ان کے علم و فضل کی کوئی انتہا نہ تھی۔ عروہ حضرت عائشہ رضہ کے بھانجے بھی ہوتے ہیں ان کے والد کا نام زبیر تھا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچو بھی زاد بھائی تھے تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہو مگر آپ کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو۔ حضرت عروہ کا ذکر ابابیر النبی میں دیکھئے۔

سب سے زیادہ سمجھدار تھیں عروہ رضی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی سے زیادہ سمجھدار کوئی فقہ میں تھا نہ طب میں نہ شعر میں۔ حضرت عائشہ رضی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ سو حدیثیں بیان کی ہیں بہت سے نامی گرامی صحابہ ان سے سن کر حدیثیں بیان کرتے ہیں چنانچہ حضرت عمر رضی اور ان کے بیٹے عبد اللہ ابو ہریرہ رضی مشہور صحابی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبد اللہ ابن عباس رضی۔ سائب بن زید۔ زید بن خالد وغیرہ مشہور صحابی (رضی اللہ عنہم) حدیث میں ان کے شاگرد ہیں۔

علم کے ساتھ ذہانت، حاضر جوابی، نصاحت اور تقریر کی عمدگی کے جوہر بھی موجود تھے حدیث کی کتابوں میں چند موقعوں پر ان کی تقریر بیان ہوئی ہے جس سے ان کی پوری ذہانت و نصاحت اور تقریر کی صفائی ظاہر ہوتی ہے۔

نکاح سے کچھ روز بعد ایک دن عائشہ رضی گڑیوں سے کھیل رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کی بنی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کر کے پوچھا عائشہ رضی یہ کیا چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی نے عرض کیا کہ حضرت یہ گھوڑا ہے اور یہ اس کے پر ہیں۔ آپ نے منہ کر فرمایا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی نے جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے بھی تو پر تھے۔ آپ اس بھولے پن کے جواب کو سن کر اور ان کی حاضر جوابی سے خوش ہو کر خاموش رہے۔

علم و عقل کی دولت کے ساتھ عمل کا ذخیرہ بھی ان کے پاس کچھ کم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو ان کا زمانہ بھی نو عمری کا تھا اور تمام دنیا کی عبادتوں سے بڑی عبادت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

کو سمجھتی تھیں اس لئے ضروری عبادات ادا کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں
مصرف رہتی تھیں۔ لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عبادت میں اس
طرح مشغول ہوئیں کہ تمام عمر عبادت میں ہی گزار دی ادنیٰ ہی خطا پر بہت شرمندہ
ہو جاتیں۔ بھتیجے کی موت کے صدمہ میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے چلی گئیں پھر
ساری عمر افسوس کرتی رہیں کہ بڑی غلطی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے تو عورتوں کو قبروں پر جانے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت عائشہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم خاص اور صحبت فیض اثر نے تمام
خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں جمع کر دی تھیں۔ کبھی کوئی سامان دنیوی راحت
آسائش کی غرض سے ذخیرہ نہ کیا۔ مردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا نے ستر ہزار درہم خیرات کر ڈالے لیکن کپڑے جو پھٹے ہوئے تھے یا پوند لگے
ہوئے تھے ان کو نہ بنایا۔

عبداللہ بن ابی

ایک مرتبہ روزے سے تھیں اسی دن ان کے بھائی نے عبد اللہ نے ایک

دیکھ کر کہتے ہیں
کہ ان کے پاس
بھی ایسی چیزیں
تھیں

عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں ان میں اتنی فضیلتیں جمع ہیں کہ کسی میں نہ ہوں گی جب پیدا ہوئے
تو ان کو ہٹا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد میں دیا اپنے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی سب سے پہلے حضور کا لعاب
مبارک ان کے پیٹ میں گیا ان کے نانا حضرت ابو بکر نے کان میں اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خالہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ ان کی دادی۔ ان کے والد عشرہ مبشرہ
میں داخل۔ خود عابد و زاہد حق کے معاملہ میں کسی سے نہ ڈرنے والے۔ آٹھ حج کئے ان کو خلافت کی
طرح نہ تھی مگر لوگوں نے مجبور کر کے ان کو ۶۴ھ میں خلیفہ بنایا ۱۳ھ میں حجاج بن یوسف نے ان
کو قتل کیا اور سولی پر لٹکایا۔ ان کے والد زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ
نے ان کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی احد کی لڑائی میں آنحضرت کے ساتھ برابر جہے رہے۔

لاکھ درہم بھیج دیئے انہوں نے کچھ رشتہ داروں کو اور مساکین، محتاج فقیروں کو
 دے کر ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہ رکھا۔ بونڈی نے عرض کیا کہ رات کے کھانے
 وغیرہ کے لئے تو کچھ رکھ لیتیں فرمانے لگیں کہ مجھے تو کچھ خیال نہیں رہا اگر تو یاد
 دلاتی تو رکھ لیتی۔

انتقال کے قریب کہتی تھیں کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں پیدا نہ ہوتی۔ دنیا میں
 کوئی مجھے نہ جانتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو جب ان کی وفات کی خبر پہنچی تو کہنے لگیں
 کہ خدا رحمت کرے اس عورت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر
 کے سوا سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ الصحابیات
 صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین

سیرت عائشہؓ پر ایک عمومی تبصرہ

جس وقت حضرت عائشہ صدیقہؓ کی سیرۃ مبارک پر عام تبصرہ کیا جاتا
 ہے تو سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت جو نہ صرف صحابیات بلکہ بعض صحابہ
 کرام کے مقابلہ میں بھی آپ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، یہ تھی کہ آپ فطرت
 کی طرف سے فلسفیانہ دماغ لے کر آئی تھیں اور تفقہ فی الدین۔ قوت اجتہاد
 سلیقہ، ضبط واقعات، صرف روایت، صحت فکر و اصابت رائے میں آپ
 کا مرتبہ بلند تھا۔

آپ جو بات فرماتی تھیں، جو توجیہ آپ کرتی تھیں وہ بالکل عقل کے
 مطابق ہوتی تھی اور شکل سے کوئی روایت آپ کو ایسی ملے گی جسے باور کرنے
 کے لئے عقل انسانی کو دوران کار تا ویوں سے کام لینا پڑے۔
 اس میں کلام نہیں کہ رسول اللہ کی قربت کی وجہ سے آپ کو آنحضرت

صلعم کے اقوال و افعال کے مطالعہ کا نہایت اچھا موقعہ حاصل تھا لیکن جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علاوہ آپ کے اور بھی متعدد مستحیات ایسی تھیں جنہیں قریت کا یہی درجہ حاصل تھا تو ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ذہنی تفوق نمایاں نظر آنے لگتا ہے کہ وہی ایک بات تھی جس کو رسول اللہ صلعم کی زبان مبارک سے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اور بھی سنتے تھے، لیکن جس نتیجہ پر آپ پہنچتی تھیں، اور اس کی حقیقی روح تک جس طرح آپ کے ذہن مبارک کی رسائی ہو جاتی تھی، وہ دوسروں کو نصیب نہ تھی۔

آپ کو رانہ تقلید کی سخت مخالفت تھیں اور ہمیشہ رسول اللہ صلعم کے اقوال و افعال کے حقیقی مدعا تک پہنچنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ رسول اللہ کے عہد مبارک میں عورتوں کو مسجد میں آکر نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور چاہئے تھا کہ حضرت عائشہ اس کو ہمیشہ جائز قرار دیتیں، لیکن چون کہ آپ اچھی طرح واقف تھیں کہ قدرتاً یہ اجازت کس وقت تک قائم رہ سکتی ہے اسی لئے آپ نے زمانہ ماجد میں عورتوں کی اخلاقی حالت کا منزل محسوس کر کے فرمایا۔

اگر رسول اللہ کو معلوم ہوتا کہ عورتوں کی حالت کیا ہو گئی ہے تو آپ ان کو مسجد میں آنے سے روک دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا جاتا تھا۔

اسلام میں شرک فی العبادات سے لوگوں کو باز رکھنے کے لئے جس قدر احتیاط سے کام لیا گیا ہے۔ وہ کسی سے مخفی نہیں اور خصوصیت کے ساتھ حضرت عمر کو آپ نے اس درخت کو جس کے پیچھے بیعت الرضوان ہوئی تھی، صرف اسی لئے قطع کرادیا کہ کہیں لوگ اسے بھی متبرک نہ سمجھنے لگیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس باب میں بہت سخت تھیں چنانچہ جب شیبہ بن عثمان نے جو آپ کے زمانہ میں کعبہ کے کلید بردار تھے، آپ سے ذکر کیا کہ کعبہ کا غلاف اتارنے کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں نے غیر طاہر ہاتھوں تک نہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ "یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہے جب غلاف اتر گیا تو پھر کیا جس کا جی چاہے استعمال کرے، تم کیوں نہیں اس کو بیچ کر قیمت غریبوں وغیرہ کو تقسیم کر دیا کرتے رہے؟"

ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو تفقہ فی الدین اور صرف ورایت کے ساتھ کلام الہی کا بھی علم پورا حاصل تھا اور جب کبھی ایسے مباحث پیش آتے تھے تو آپ کی رائے ایسی مجتہدانہ رنگ میں ڈوبی ہوتی تھی کہ اس سے آپ کا علوئے مرتبت پوری طرح ثابت ہوتا تھا۔ مثلاً حضرت عمرؓ سے ایک روز سماعِ موتے کے متعلق یہ پائی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے آپ کے دریافت کرنے پر فرمایا۔

"یعنی وہ تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے؟"

جب حضرت عائشہؓ نے اس روایت کو سنا تو فرمایا کہ رسول اللہ کا ارشاد یہ نہیں تھا کیونکہ کلام مجید میں اس کے خلاف نص قطعی موجود ہے کہ

"اے رسول تو نہ مردوں کو اپنی بات سنا سکتا ہے اور نہ قبر میں مدفون ہونے والوں کو"

اس طرح جب شب معراج کے واقعہ میں رویت باری تعالیٰ اور مردوں پر اہل و عیال کے رونے سے عذاب ہونے کے مسائل پیش ہوئے تو آپ نے

روایت کے متعلق کلام مجید کی آیت کَلَّا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ
 الْاَبْصَارَ (سورہ النعام) اور دوسرے مسئلہ کے نسبتاً دوسری آیت کَلَّا
 تَزِدُّا ذَرَّةً وَ ذَرَّةً اُخْرٰی (سورہ بنی اسرائیل) پیش کر کے نہ صرف کلام الہی
 پر کامل عبور رکھنے کا ثبوت دیا بلکہ حقیقتاً یہ بھی بتا دیا کہ مسائل شرع میں ذرا
 سے کام لینا ضروری ہے اور نیز یہ کہ وہ روایت کس نوع کی ہونی چاہیے۔

آپ کی زندگی کے بعض واقعات ایسے ہیں جن سے یہ بات ثابت
 ہوتی ہے کہ آپ نے اسلام کی حقیقی روح کو کس قدر تکمیل کے ساتھ سمجھا تھا۔
 رسول اللہ کی تمام تعلیمات اور آپ کے ہر طرز عمل سے یہ بات مترشح ہوتی
 تھی کہ اسلام میں حد درجہ سہولت مرکوز ہے اور اسی لئے اسے فطری مذہب
 کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس نکتہ کو جس قدر خوبی کے ساتھ سمجھا وہ آپ
 ہی کا حصہ تھا۔ آپ کے زمانہ میں ابن ابی السائب تابعی و عتظ کے بڑے
 شایق تھے اور ہر نماز کے بعد دیر تک مسبح عبارت میں دُعا مانگا کرتے تھے۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو معلوم ہوا تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ہفتہ میں ایک
 دن اور حدیثیں دن سے زیادہ دعظ نہ کہا کرو اور دُعا بھی مختصر مانگا کرو۔ مسبح
 و مقفی عبارت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ اور ان کے صحابہ کا یہ وطیرہ
 نہیں تھا کہ وہ دعظ و تلقین اور دعا کی طوالت سے لوگوں کو گھبرا دیں۔

حضرت عائشہ اگر چاہتیں تو صرف یہ کہہ سکتی تھیں کہ دعظ و دعا میں
 اختصار کرو لیکن آپ نے دعاؤں کی طوالت کے اصل راز کو معلوم کر کے مسبح
 عبارت کے بنانے سے منع کیا، کیونکہ آپ سمجھتی تھیں کہ طوالت کی وجہ یہی ہے۔
 اس کے بعد ہم آپ کے وسعت معلومات، صحت فکر، اصابت رائے

اور تفقہ فی الدین کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔

(۱) فجر کی نماز میں باوجود اس کے کہ وقت کافی ہوتا ہے صرف دو رکعت فرض کی اور دو سنت کی رکھی گئیں جس کی وجہ یہ ظاہر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نماز فجر میں اس لئے زیادہ رکعتیں نہیں رکھی گئیں کہ اس وقت قرأت طویل کی جاتی ہے۔

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنی چاہئے بظاہر اس مخالفت کا کوئی سبب معلوم نہ ہوتا تھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر کوئی شخص ٹھیک طلوع وغروب کے وقت نماز پڑھے گا تو آفتاب پرست لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔

(آج کل عام طور سے لوگ نفل کی نماز بیٹھ کر ادا کرتے ہیں کیوں کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بابت سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ ﷺ زور ہو گئے تھے۔)

ایک بار رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ بعض صحابہ نے خیال کیا کہ یہ حکم ہمیشہ کے لئے اور بعض نے صرف اس وقت و زمانہ کے لئے مخصوص سمجھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس حکم کو وقتی سمجھا جس کی وہ نہایت معقول وجہ یہ بیان کرتی ہیں کہ اس زمانہ میں کم لوگ

قربانی کر سکتے تھے اس لئے اللہ نے یہ حکم دیا تاکہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہے انہیں بھی مل جائے۔

مکہ معظمہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام محصب ہے۔ چونکہ رسول اللہ نے ایام حج میں یہاں قیام فرمایا تھا اس لئے بعد کو صحابہ بھی یہاں قیام کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تو یہاں کے قیام کو سنن حج میں شامل کر لیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کے خلاف تھیں وہ فرماتی تھیں کہ یہاں کے قیام کو سنن حج میں داخل کرنا اس لئے صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ کا قیام یہاں صرف اس لئے ہوتا تھا کہ یہاں سے حج کے لئے کوچ کرنے میں آسانی ہوتی تھی نہ اس نیت سے کہ یہاں کا قیام مذہبی نقطہ نظر سے اولیٰ و احسن ہے۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کس دل و دماغ کی خاتون تھیں اور آپ کی نگاہ نکتہ رس معاملات کی حقیقت تک کیونکر پہنچ جاتی تھی۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے اور یہی فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جو لوگ فلسفیانہ دماغ رکھتے ہیں وہ مذہبی احکام کی طرف سے ذرا بے پروا ہو جاتے ہیں ہر بات کو عقل کی روشنی میں دیکھنے کی وجہ سے وہ بہت سی باتوں کی تاویل کر لیتے ہیں اور آخر کار تقویٰ کی حدود تک نہیں پہنچتے لیکن حضرت عائشہ باوجود اس کے بے انتہا تقویٰ کا لحاظ رکھتی تھیں۔

جب فتح عجم کے بعد جدید شرابوں کے جدید ناموں کا رواج عرب میں ہوا تو لوگوں کو ان کے حلال و حرام کی نسبت دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی کیونکہ عربی میں خمر صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں اور اب بہت سی جدید شرابیں آگئیں تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ "شراب کے برتنوں

میں چھوڑنے تک نہ بھگوئے جائیں۔ پھر عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تمہارے منکوں کے پانی سے نشہ پیدا ہونے لگے تو وہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ نے عام طور سے ہر مسکّر چیز کو حرام قرار دیا ہے۔

عرب میں جہاں اور بہت سی مذہبوں میں رائج تھیں، وہیں ٹوٹکے کا بھی بہت رواج تھا علی الخصوص عورتوں میں جن کا کوئی کام بغیر شگون کے پورا ہی نہیں ہوتا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وجود عورت ہونے کے ٹوٹکوں کو بہت برا سمجھتی تھیں۔ آپ نے ایک مرتبہ کسی بچے کے سر ہانے استرہ رکھا ہوا دیکھا تو منع فرمایا اور کہا کہ رسول اللہ ٹوٹکوں کے سخت مخالف تھے۔ آپ میں ان تمام صفات کے ساتھ وہ جو ہر بھی تھا جس کے لئے مرزیا

عرب کے مرد و عورت مشہور ہیں یعنی وہ خطرے کے وقت بے انتہا جری تھیں اور میدان جنگ میں پیٹھ پر مشک لا کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں یہ دنیا کی عام تہذیب میں بھی آپ کا وہ عالم تھا جس پر آج بھی فخر کیا جاسکتا ہے۔ طلحہ کی صاحبزادی نے جن کا نام بھی عائشہ تھا، حضرت عائشہ کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی اور لوگ دور دور سے ان کے پاس آتے، خطوط روانہ کرتے اور تحائف بھیجتے۔ جب یہ حضرت عائشہ سے ذکر کریں تو آپ فرمائیں کہ "خطوں کا جواب لکھ دو اور ہدیہ کا معاد دے دو"۔

حضرت عائشہ کا مرتبہ طبقہ روادہ میں بھی بہت بلند ہے اور سوائے

۱۔ سنن نسائی کتاب الخمر ۲۔ استرہ اس لئے رکھا جاتا تھا کہ بچہ آسیب سے محفوظ رہے
۳۔ مسلم کتاب الجہاد لکھ اسوہ صحابہ جلد دوم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے کسی اور صحابی سے اتنی روایتیں بیان نہیں کی گئیں جتنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں۔
 حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں ۴۳۷۲ ہیں ان کے بعد عبداللہ ابن عباس کا درجہ چھٹوں نے ۲۶۶۰ حدیثیں بیان کی ہیں اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جن سے ۲۲۱۰ احادیث روایت کی گئی ہیں۔

آم المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا

آپ کا نام سودہ باپ کا نام زبیر بن قیس اور ماں کا نام شمس بن قیس تھا۔ آپ کا نکاح آپ کے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے ہوا تھا۔ جب سکران بن عمرو سرزمین حبش سے مکہ آئے تو سودہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ سکران بن عمرو اور حضرت سودہ دونوں کے اسلام اور ہجرت کا ایک ہی زمانہ ہے۔ سکران کی وفات مکہ میں ہوئی۔ جب عدت کے دن پورے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا اور سودہ رضی اللہ عنہا سے حاطب بن عمرو بن عبد شمس کی ولایت میں نکاح ہو گیا۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس کی تفصیل مورخین اسلام نے یوں بیان کی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ رضی اللہ عنہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ان دنوں آپ حضرت خدیجہ کے انتقال کی وجہ سے بہت مغموم رہتے تھے اور تنہائی کا رنج پریشان کرتا تھا۔ خولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدیجہ کی

وفات سے آپ کو بہت ملول دیکھتی ہوں آپ نے فرمایا ہاں ہے تو کچھ ایسا ہی
 خولنے کہا پھر میں آپ کا نکاح کیوں نہ کر ادوں آنحضرت صلعم نے اسے منظور
 فرمایا تو خول نے سو وہ کو خوشخبری سنائی سو وہ نے قبول کیا مگر کہا میرے
 والد سے بھی دریافت کر لو۔ غرضیکہ سب مرحلے طے ہو جانے کے بعد ستائیس
 میں ان کے باپ نے آنحضرت صلعم سے ۴۰ درہم مہر پر نکاح پڑھا دیا۔ ان
 کے والد زعمہ بہت بوڑھے تھے اس لئے عاتب بن عمر بن عبد شمس ممکن ہے کہ
 ولی بنا دیئے گئے ہوں۔

اس نکاح کے بعد سو وہ رض کے بھائی عبداللہ ابن زعمہ جو اس وقت تک
 مسلمان نہ ہوئے تھے آئے اور ان کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو بہت افسوس کیا
 اور سر پر خاک ڈالی اسلام لانے کے بعد جب اپنی اس حرکت پر خیال کرتے
 تھے تو ان کو بہت افسوس ہوتا تھا۔

ابن سعد نے ہشام بن محمد کے حوالے سے روایت کی ہے کہ جس زمانہ میں
 سو وہ اپنے پہلے شوہر سکران بن عمرو کے پاس تھیں تو انہوں نے خواب میں
 دیکھا کہ رسول اللہ صلعم آئے اور آپ نے اپنے پاؤں سو وہ کی گردن پر رکھ
 دیئے۔ سو وہ نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا اگر تو نے
 واقعی یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد رسول
 اللہ صلعم تجھ سے نکاح کریں گے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ
 میں ایک تکتے کے سہارے لیٹی ہوں اور آسمان سے چاند پھٹ کر مجھ پر گر پڑا
 ہے۔ اس کا ذکر بھی سکران سے کیا تو سکران نے کہا میں عنقریب مرجاؤں
 گا اور تم میرے بعد نکاح کرو گی اسی روز سے سکران بیمار ہوئے اور چند
 روز میں انتقال کر گئے۔

حضرت سودہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی مدت میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے قبل حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو چکا تھا اور دونوں بیویوں کے تعلقات میں کسی قسم کی کشیدگی نہ تھی۔ واقعات سے ظاہر ہے کہ آپس میں رشتہ اتحاد قائم تھا اور اکثر خانگی امور میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مشورہ دیتی سمجھیں۔

حجۃ الوداع میں آنحضرت صلعم نے ازواج مطہرات کو ہدایت فرمائی کہ اب اس حج کے بعد گھر سے نہ نکلتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ کی وفات کے بعد اور بیویاں حج کرتی تھیں مگر سودہ بنت زمعہ اور زینب بنت جحش نے اس حکم کی سختی سے تعمیل کی اور گھر سے باہر نہ نکلیں۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے اہیار اور ان کی اطاعت شکاری کا حال مذکورہ روایتوں سے واضح ہو گیا ہو گا ذیل میں وہ روایتیں درج کی جاتی ہیں جن سے ان کی بقیہ اوصاف و اخلاق پر روشنی پڑتی ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھیلی میں کچھ درہم بھیجے تو آپ نے کہا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا ”درہم“ بولیں ”تھیلی میں کچھ درہم کی طرح؟“ یہ کہہ کر سب اسی وقت تقسیم کر ڈالے۔

(حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کسی عورت کو حسد سے خالی نہ دیکھا سوائے سودہ رضی اللہ عنہا کے نہ علاوہ سودہ کے کسی عورت کی نسبت میری یہ خواہش ہوئی کہ میری روح اس کے قالب میں ہوتی) حضرت سودہ رضی اللہ عنہا مزاج کی تیز تھیں اور بعض اوقات ذرا سی بات میں ناراض ہو جاتی تھیں مگر ساتھ ہی طرافت کا پاکیزہ مذاق بھی قدرت سے ودیعت ہوا تھا اور اکثر آنحضرت صلعم کو ہنسائی تھیں۔

ایک بار حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلعم سے کہا کہ کل رات کو میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ اتنی دیر تک رکوع میں رہے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میری نکسیر نہ پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے اس لئے میں اپنی ناک پکڑے رہی آپ نے یہ سن کر تبسم فرمایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت قریب اٹھم تھا جب حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی ہے یہ قول علامہ ابن عبد البر کا ہے اور اسی پر امام بخاری اور دیگر ثقافت محدثین متفق ہیں۔

(ابن سعد نے عفان بن مسلم کے حوالہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن سب ازواج مطہرات نے آپ سے کہا یا رسول اللہ ہم میں کون سب سے پہلے آپ سے ملے گا۔ فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ بڑے ہاتھ والا ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب بیویاں ایک دوسرے کے ہاتھ پا کر تکیوں سو وہ کا ہاتھ سب سے بڑا نکلتا تھا جب منب سے پہلے زینب بنت جحش کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ طول ید سے مراد صدقہ تھا جو حضرت زینب کو بہت محبوب تھا) محمد بن عمرو بھی اس حدیث کو سودہ کے حق میں غلط بتاتے ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے کیوں کہ یہ حدیث زینب بنت جحش سے متعلق ہے جن کی وفات آنحضرت صلعم کی ازواج میں سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں ہوئی سودہ بنت زمو اس وقت زندہ تھیں۔

ان کی اولاد کے تذکرہ سے اکثر کتب سیر خالی ہیں۔ زرقانی جلد ۳ صفحہ ۳۴ میں لکھا ہے کہ ان کے صرف پہلے شوہر سے ایک لڑکا ہوا تھا جس کا نام عبدالرحمن تھا اور جو جنگ فارس میں رتبہ شہادت سے فائز ہوا۔

ام المومنین حضرت حفصہ رضی

خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی کی دوسری صاحبزادی تھیں جو نبوت سے پانچ سال پہلے جبکہ قریش کے لوگ تعمیر کعبہ میں مصروف تھے پیدا ہوئیں۔ حضرت عمر رضی جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ساتھ ہی آپ بھی مسلمان ہوئیں۔ پہلا نکاح خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی سے ہوا۔ خنیس اسلام میں آپ کے دوش بدوش تھے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی اس وقت بھی زن دشوہر ساتھ تھے۔

حضرت خنیس رضی نے جنگ بدر میں ہلک زخم کھائے تھے۔ مدینہ پہنچ کر وفات پائی یہ واقعہ ہجرت کے بعد کا ہے جب کہ آنحضرتؐ جنگ بدر سے تشریف لے آئے تھے۔

حضرت حفصہ رضی جب بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی نے حضرت ابوبکرؓ سے نکاح کرنے کا خیال ظاہر کیا مگر وہ خاموش رہے اور جواب نہ دیا۔ یہ بات حضرت عمر رضی کو ناگوار ہوئی اس وقت حضرت عثمان غنی رضی کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلعم کا انتقال ہو چکا تھا، اس لئے حضرت عثمان رضی سے کہا، انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی نکاح کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت عمر رضی آنحضرت صلعم کی خدمت میں آئے اور آپ سے صورت حال بیان کی حضرت عمر رضی اور جناب رسالت مآب صلعم کے تعلقات ایسے نہ تھے کہ قرابت تک نوبت نہ آتی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی

سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا۔ حفصہؓ کو بھی یہ سعادت نصیب ہونی تھی۔ اس لئے آپ نے فرمایا: حفصہ کا نکاح ایسے شخص سے نہ ہو جائے جو عثمانؓ سے بہتر ہے اور عثمان کو ایسی بیوی نہ دی جائے جو حفصہ سے بہتر ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمرؓ کو حفصہؓ کا پیام دے کر اپنا نکاح کر لیا۔ حضرت حفصہ کا یہ نکاح ۳ھ میں ہوا۔

ابو اسامہ حماد بروایت حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوا اور شہد بہت مرغوب تھا۔ آپ عصر کی نماز کے بعد ازواج کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے ایک دن حضرت حفصہؓ کے پاس معمول سے زیادہ دیر ہو گئی۔ یہ تقاضائے فطرت انسانی حضرت عائشہ کو رشک ہوا اور انہوں نے حالات دریافت کئے تو معلوم ہوا کہ کسی عورت نے حفصہؓ کے لئے شہد بھیجا تھا اور آنحضرت صلعم نے اسے کھا یا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر سو وہ رضی سے کیا اور ان کو سکھا دیا کہ جب آنحضرت صلعم تمہارے پاس آئیں تو کہنا یا رسول اللہ آپ نے معافیر کھایا ہے (معافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس کو شہد کی مکھی چوتی ہے ای میں کسی قدر بو ہوتی ہے اور بو آنحضرت صلعم کو سوت ناپسند تھی) آپ فرمائیں گے مجھے حفصہؓ نے شہد پلایا ہے، تم کہنا شاید یہ شہد عرفط کی مکھی کا ہے۔ یہی بات حضرت صفیہ کو بھی سکھا دی۔ آپ سو وہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پرد گرام کے مطابق وہی کہا جو پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد ایک روز آپ حضرت حفصہؓ کے پاس آئے تو انہوں نے شہد کے متعلق دریافت کیا آپ نے فرمایا مجھے اس کی حاجت نہیں اور عہد کر لیا کہ آئندہ شہد نہ کھائیں گے۔

اس کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔

اے نبی تم بیویوں کی خوشنودی کے لئے جو چیز خدا نے حلال کی ہے اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو۔

اس واقعہ کے بعد آنحضرت صلعم نے کوئی بات راز کی حضرت حفصہ سے کہی اور تاکید فرمادی کہ کسی سے نہ کہیں مگر وہ حضرت عائشہ سے نہ چھپا سکیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور جب پیغمبر نے اپنی بعض بیویوں سے راز کی بات کہی اور انہوں نے فاش کر دی اور خدا نے پیغمبر کو اس کی خبر کر دی تو پیغمبر نے اس کا کچھ حصہ ان سے کہا اور کچھ چھوڑ دیا پھر جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا کس نے آپ کو خبر دی پیغمبر نے کہا مجھ کو خدا نے علیم وخبیر نے خبر دی۔

چونکہ یہ صورت رسول اللہ صلعم کی برہمی کی تھی اس لئے حضرت حفصہؓ و حضرت عائشہؓ نے متفق ہو کر معاملہ کو سلجھانا چاہا تو دونوں کی شان میں اس آیت کا نزول ہوا۔

اگر تم دونوں خدا کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں اور اگر رسول اللہ صلعم سے منظرہ کرو تو خدا و جبریل اور تمام دنیا سب کے سب فرشتے رسول اللہ کے مددگار ہیں۔ اس آیت میں منافقین کی طرف اشارہ ہے اور ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر حفصہ اور عائشہ دونوں منظرہ کریں اور منافقین سازش کر کے اس

سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو بھی خدا پیغمبر کی مدد کرے گا اور خدا کے ساتھ جبریل ملائکہ اور تمام دیبا ہے۔

حضرت حفصہ بہت سمجھ دار تھیں ان کو علم
تعلیم و تفہیم کا بڑا شوق تھا، عبداللہ بن عمر
حمزہ بن عبداللہ حارثہ بن وہب، عبدالرحمان بن حارث، وغیرہ مردوں
میں اور صفیہ بنت ابی عبیدہ، ام ملبشر انصاریہ عورتوں میں ان کے دائرہ
تلامذہ میں داخل ہیں۔ حضرت حفصہ سے ۶۰ حدیثیں منقول ہیں جو انہوں
نے خود آنحضرت صلعم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے سنی تھیں یہ

مسند ابن جنبل میں ایک واقعہ لکھا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ
دین سے ان کو کیا شغف تھا۔ ایک بار آنحضرت صلعم نے فرمایا مجھے امید
ہے کہ اصحاب بدو حدیبیہ جہنم میں داخل نہ ہوں گے حضرت حفصہ نے
اعتراض کیا کہ اللہ تو فرماتا ہے۔

وان منکوا لا وارھا

تم میں سے ہر ایک دار و جہنم ہو گا۔

آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی تو ہے،

ثم نُنْفِئُ الَّذِينَ اتَّقَوْا

پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے

اور ظالموں کو ایمین زانوؤں کے بل گرا

نذار الظالمین فیہا جثیبا۔

ہوا چھوڑ دیں گے اے

حضرت حفصہ بہت بڑی عبادت

گزارا اور مذہب کی پابند تھیں

اخلاق و عادات

تمام اللیل اور صائم النہار تھیں آخر وقت تک روزہ نہ چھوڑا۔
حضرت عائشہ اور ان میں بہنا پاتھا، اکثر معاملات میں ایک دوسرے
کی شریک تھیں کبھی کبھی رقابت کا بھی اظہار ہو جاتا تھا جیسا کہ حضرت عائشہؓ
کے ذکر میں لکھا گیا۔

حضرت عائشہؓ ان کی نسبت فرماتی تھیں "حفصہ اپنے باپ کی بیٹی
ہیں" جیسے راسخ الاعتقاد ہر بات میں وہ ہیں ویسے ہی یہ بھی ہیں۔

ان کے سال وفات میں اختلاف ہے

ابن اثیر کہتے ہیں کہ جو زمانہ حضرت حسن

بن علیؓ کے امیر معاویہ سے بیعت کرنے کا ہے وہی زمانہ حضرت حفصہؓ
کی وفات کا ہے یعنی ۳۵ھ (اسد الغابہ)

ابن سعد کا خیال ہے کہ حضرت حفصہ نے شعبان ۳۵ھ میں وفات

پائی اکثر ارباب سیر اس پر متفق ہیں۔

مردان عامل مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ ان کا

جنازہ مغیرہ کے گھر سے مدفن تک لے گئے۔ عبداللہ بن عمر، عاصم بن عمر

اور عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم، عبداللہ اور حمزہ قبر میں اترے اور بقیع

میں آپ دفن کی گئیں۔

طبقات ابن سعد والصحاح ابیات

أم المومنین

حضرت زینب بنت خزیمہ

زینب نام أم المومنین لقب۔ پہلے عبداللہ ابن حبش کی زوجیت میں تھیں جو جنگ احد ۳ھ شہید ہوئے عبداللہ کے بعد اسی سال آل حضرت صلعم نے ان سے نکاح کر لیا۔ لیکن دو ہی تین مہینے کے بعد سفر آخرت پیش آیا۔ یہ پہلی بیوی ہیں جو آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد رہ گئے۔ فردوس ہوئیں۔ وفات کے وقت ان کی عمر کم و بیش تیس سال تھی۔ زمانہ انتقال آخر ماہ ربیع الاول ہے، رسول اللہ صلعم نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع میں دفن فرمایا۔ (طبقات)

آل حضرت صلعم سے ان کا نکاح اوائل رمضان ۳ھ میں ہوا اور بارہ اوقیہ ہیر قرار پایا بعض لوگ حدیث ادلسکن لحوقابی اطولکن یذا زینب بنت خزیمہ کے حق میں بتاتے ہیں کیونکہ وہ بہت صدقہ دیا کرتی تھیں اور مساکین پر بہت ہیر بان بھتی لیکن یہ غلط ہے اصل میں یہ حدیث زینب بنت حبش سے متعلق ہے جن کا انتقال آل حضرت صلعم کے بعد تمام ازدواج سے پہلے ہوا زینب بنت خزیمہ تو بالاتفاق محدثین آل حضرت صلعم کی زندگی میں وفات پا چکی تھیں۔

أم المومنین

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا

آپ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنی مخزوم سے تھا۔ اصل نام ہند ہے لیکن چونکہ کنیت زیادہ متعارف ہے اس لئے أم سلمہ کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ باپ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھے اور ماں عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک کنانیہ بعض لوگ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ بھی بتاتے ہیں مگر اس کی کوئی اصل نہیں محدثین اس روایت کو لیس بستی سے تعبیر کرتے ہیں۔ (اصحابہ)

ابو امیہ کا نام حذیفہ تھا اور زاد الرکب کے لقب سے مشہور تھے کیونکہ مکہ کے فیاضوں میں ان کا خاص اعتبار تھا اور جب کبھی سفر کرتے تھے تو تمام قافلہ کے خود کفیل ہوتے تھے یہی فیاضانہ کفالت تھی جس کی دل پذیری نے زبان عرب سے ابو امیہ کو یہ لقب دلایا۔

پہلے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابو سلمہ بن عبد الاسد سے ہوا جو ان کے چھیرے بھائی تھے۔ یہ اور ان کے شوہر دونوں لوگوں میں سے ہیں جن کو قدیم الاسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی آغاز نبوت میں جب کہ لوگ "ترک و اختیار" کی کشمکش میں مبتلا تھے اور مذہب کی نسبت حق بجانب فیصلہ کرنا صرت خوش نصیبوں کا حصہ تھا، یہ میاں بیوی اسلام کی غیر فانی دولت سے مالا

مال ہوئے۔

جس طرح اسلام میں دونوں دوش بدوش تھے اسی طرح ہجرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ پہلے حبشہ کا رخ کیا وہاں سے کچھ دنوں کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی مدینہ کی ہجرت میں حضرت ام سلمہ کو حذافہ المناک واقعات پیش آئے۔ انہیں کی زبان سے ابن اثیر نے اپنی کتاب میں بیان کئے ہیں فرماتی ہیں: "جب ابو سلمہ نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تو ان کے پاس ایک ہی اونٹنی تھی اسی پر مجھ کو اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کر دیا اور اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لئے چل دیئے۔ بنو مغیرہ نے جو میرے بیٹے کے لوگ تھے ہم لوگوں کو دیکھ لیا اور ابو سلمہ سے مزاحمت کی کہ ہم اپنی لڑکی کو ایسی خراب حالت میں نہ جانے دیں گے، ابو سلمہ کے ہاتھ سے نکیل چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ لے چلے اتنے میں بنو عبد اللہ ابو سلمہ کے خاندان کے لوگ آ پہنچے اور انہوں نے میرے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنو مغیرہ سے کہا اگر تم اپنی لڑکی کو شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے بچے کو تمہاری لڑکی کے پاس ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اب میں میرا شوہر میرا بچہ تینوں ایک دوسرے سے جدا تھے، مارے مارے سے میری حالت خراب تھی چونکہ ہجرت کا حکم صادر ہو چکا تھا اس لئے ابو سلمہ تو مدینہ پہنچ گئے میں تنہا رہ گئی۔ روزانہ صبح کو گھر سے نکلتی اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر شام تک رویا کرتی، اسی حال میں مجھ کو کم و بیش ایک سال ہو گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ کے ایک شخص نے جو میرا عزیز تھا، میری یہ پرکھ کر ترس لکھا یا اور بنو مغیرہ کو جمع کر کے سب کی طرف مخاطب ہو کر کہے: "آپ لوگ اس مسکین کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے جس کو آپ نے اس کے

بچہ اور شوہر سے جدا کر دیا ہے؟ یہ مفہوم کچھ ایسے موثر الفاظ میں ادا کیا گیا تھا کہ میرے میکے والوں کو رحم آگیا۔ اور انہوں نے اجازت دے دی کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر ابو عبد اللہ نے بھی میرے بچے کو میرے پاس بھیج دیا، اب اونٹ پر میں نے کجاوا کسا اور سلمہ کو گود میں لے کر سوار ہو گئی۔ میں بالکل تنہا تھی اور اسی عالم میں تیغ پہنچی وہاں عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے انہوں نے میرا ارادہ معلوم کر کے مجھ سے پوچھا کیا کوئی تمہارے ساتھ ہے میں نے کہا نہیں صرف میں ہوں اور یہ میرا بچہ، انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور ہاتھ سے کھینچتے ہوئے آگے آگے چلنے لگے، خدا جانتا ہے مجھے ابن طلحہ سے زیادہ شریف آدمی عرب میں نہیں ملا، جب منزل آتی اور ہم کو ٹھہرنا پڑتا تو وہ کسی درخت کی آڑ میں ہو جاتے، چلنے کا وقت ہوتا تو اونٹ پیٹا کر لاتے اور جب میں اطمینان سے بیٹھ جاتی تو اونٹ کی ہمارے کر آگے آگے چلنے لگتے۔ اثناء سفر میں یہی معمول رہا، مدینہ پہنچ کر نبی عمرو بن عوف کی آبادی (موضع قباء) سے گذر ہوا تھا تو عثمان ابن طلحہ نے مجھ سے کہا تمہارا شوہر اس گاؤں میں ہے ابو سلمہ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، میں اللہ کے بھروسہ پر اس محلہ میں داخل ہوئی اور خدا خدا کر کے ان سے ملاقات ہوئی۔ عثمان ابن طلحہ مجھے ابو سلمہ کا پتا بتا کر مکہ واپس ہو گئے۔

حضرت ام سلمہ پر اس ہمدردی کا ہمیشہ اثر رہا اور وہ اکثر فرمایا کرتی تھیں۔

”میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ ساتھ دینے والا شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا۔“

اسی دور ابتلا میں جب کہ مسلمان ہر طرف سے آماجگاہ حوادث بنے ہوئے تھے اور ان کی پریشانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ہجرت کے موقعہ پر جو مصیبتیں حضرت ام سلمہ کو اٹھانی پڑیں انہیں کا حصہ سمجھیں چنانچہ ان کا دل خود بھی اس احساس سے خالی نہ تھا اور وہ جب ہجرت کا ذکر کرتی تو فخر یہ کہتی تھیں ”میں نہیں جانتی کہ اہل بیت میں سے کسی نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہوں جو اسلام کی خاطر خاندان ابوسلمہ کو جھیلنا پڑیں۔ (اسد الغابہ) جہاں ادا اوصاف میں حضرت ام سلمہؓ دیگر ازواج سے ممتاز تھیں ہجرت میں بھی ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ وہ پہلی پردہ نشین بیوی تھیں جن کو ابتداءً مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا اتفاق ہوا۔ (اسد الغابہ) حضرت ام سلمہؓ بڑی با وقعت بیوی تھیں، ان کے باپ ابو امیہ قریش کے نہایت معزز شخص تھے۔ ہجرت کے زمانہ میں جب یہ قبا میں داخل ہوئیں تو لوگ ان کا حال پوچھتے اور باپ کا نام سن کر یقین نہ کرتے تھے۔ کیونکہ شریف عورتیں اس زمانہ میں بھی اس طرح تنہا نکلنے سے پرہیز کرتی تھیں۔ صرف ام سلمہؓ کو اسلام کا درد تھا اور خدا کے حکم کی پابندی فرض سمجھتی تھیں اس لئے ان کو کچھ خیال نہ ہوتا تھا اور مجبوراً چپ رہتی تھیں۔ جب کچھ لوگ حج کے لئے مکہ روانہ ہوئے اور انہوں نے اپنے گھر رقعہ بھیجا اس وقت سب کو ان کی خاندانی شرافت و بزرگی کا یقین آیا۔ (اسد الغابہ)

ابھی ہجرت کے مصائب تازہ تھے اور شوہر کے لئے زیادہ رہنے کا

موقعہ ملا تھا کہ حضرت ابوسلمہ کو غزوہ احد میں شریک ہونا پڑا، میدان جنگ میں انہیں کے ہم نام ابوسلمہ حبشی کے تیر سے ان کا بازو زخمی ہوا۔ ایک ماہ تک علاج ہونے کے بعد صحت ہوئی اس کے دو سال گیارہ ماہ بعد پھر آنحضرت صلعم کے حکم سے قطن کی طرف بھیج دیئے گئے اور وہ وہاں ۲۹ روز تک رہے (اسد الغابہ)

۳ صفر کی آٹھویں نویں کو پھر مدینہ آئے مگر اب زخم شق ہو گیا تھا اس سے جانبر نہ ہو سکے اور اسی سال جمادی الاخریٰ کو نویں تاریخ کو وفات پائی (طبقات جلد ۸ صفحہ ۶۰-۶۱)

حضرت ام سلمہ آنحضرت صلعم کو خبر وفات سنانے آئیں۔ آپ خود ان کے گھر تشریف لائے مکان محشر غم بنا ہوا تھا حضرت ام سلمہ بار بار کہتیں "ہائے غربت میں کیسی موت ہوئی" آپ نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا ان کی مغفرت کی دعا مانگو اور کہو اللہم اخلہ بنی خیراً متھا اے اللہ مجھے ان سے بہتر ان کا جانشین دے" پھر رسول اللہ صلعم ابوسلمہ کی لاش پر تشریف لائے۔ بڑے اہتمام سے جنازہ کی نماز پڑھائی گئی جس میں آپ نے نو تکبیریں کہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا یہ ہزار تکبیروں کے مستحق تھے چونکہ وفات کے وقت ابوسلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئیں تھیں اس لئے رسول اللہ نے خود دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں اور مغفرت کی دعا مانگی۔ (رزقانی جلد ۲ صفحہ ۷۲۵)

جب حضرت ابوسلمہ کا انتقال ہوا تو حضرت ام سلمہ حاملہ تھیں عدت کے بعد حضرت ابوبکر نے ان کی غربت و کسب پیرنا کے خیال سے اپنے

نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ (طبقات جلد ۸ صفحہ ۶۲)

ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی اپنے نکاح کا پیام دیا تھا مگر صاحب اصابہ کا خیال ہے کہ حضرت عمرؓ کے واسطے سے آنحضرت ﷺ نے اپنے نکاح کا پیام بھیجا تھا، ابو سلمہ کی جاں نثاری اور ام سلمہ کی بے باگی و غربت کا احساس ایسا نہ تھا کہ جناب رسالت ﷺ کو متاثر نہ کرتا۔ آپ نے حکیم الہی حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمرؓ کے ذریعہ سے اپنے نکاح کا پیام بھیجا اب حضرت ام سلمہ کو یہ جرات نہ تھی کہ تعمیل ارشاد سے انحراف کرتیں پہلے چند عذر کئے مگر آنحضرت ﷺ نے سب شرطیں منظور فرمائیں تو راضی ہو گئیں اور اپنے بیٹے عمر سے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح کر دو۔ سوال ۳۷ کی اخیر تاریخوں میں رسم ازدواج ادا ہوئی اور اس طرح نہ صرف حضرت ام سلمہ کے اُس جانگسل صدمہ کی تلافی ہو گئی جو ان کو ابو سلمہ کی حسرت خیز وفات سے پیدا ہوا تھا بلکہ اُن کی عارضی مدت جیات ابدی مسرت میں بدل گئی۔

احمد بن اسحاق حضرمی زیاد بن مریم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک بار ام سلمہ نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر جنت نصیب ہو اور عورت اس کے بعد دوسرا نکاح کرے تو اللہ اس عورت کو بھی شوہر کے ساتھ جنت میں جگہ دیتا ہے۔ یہی صورت مرد کے لئے ہے تو آؤ ہم تم معاہدہ کر لیں نہ تم ہمارے بعد نکاح کرو نہ ہم تمہارے بعد ابو سلمہ نے جواب دیا کیا تم میری اطاعت کرو گی؟ ام سلمہ نے کہا سوائے تمہاری اطاعت کے مجھے کس بات میں خوشی ہو سکتی ہے۔ ابو سلمہ نے کہا تو جب میں مر جاؤں تو میرے بعد نکاح کر لینا میرا ابو سلمہ نے

دُعای مانگی ”یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر جاننا عطا فرما۔“ حضرت
 ام سلمہ رضی فرماتی ہیں جب ابو سلمہ مر گئے تو میں اپنے دل میں کہتی تھی ابو سلمہ
 سے بہتر کون ہو گا اس کے کچھ دنوں کے بعد آنحضرت صلعم سے میرا نکاح ہو
 گیا۔ (طبقات)

آنحضرت صلعم نے ام سلمہ کو دو چکیاں، دو مشکیزے، ایک تیکہ چمڑے کا جس
 میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی عنایت فرمایا، یہی سامان دوسری
 ازواج کو عطا ہوا تھا۔

حضرت ام سلمہ کے واقعات نکاح میں یہ واقعہ خصوصیت سے قابل
 ذکر ہے کہ جب روزیہ بیاد کر لائی گئیں اس دن اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا زینبہ
 بنت خزیمہ رضی کا انتقال ہو چکا تھا رخصتی کے بعد حضرت ام سلمہ ان ہی کے گھر
 لائی گئیں۔ اسباب خانہ داری پہلے ہی سے ہیا تھا حضرت ام سلمہ نے ایک
 گھڑے سے جو نکالے اور کچھ چربی نکال کر دیگی میں چڑھا دی۔ جو پیسے
 اسی دیگی میں چربی ملا کر کھانا تیار کیا یہ تھا وہ کھانا جو جناب رسالت مآب
 اور ان کی شریک زندگی نے شب عروسی میں تناول فرمایا۔ (طبقات جلد ۸)
 صلح حدیبیہ کے سلسلے میں رسول اللہ صلعم کو ان کا مشورہ دینا بہت
 مشہور واقعہ ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ صلح کے بعد رسول اللہ صلعم نے
 فرمایا کہ لوگ حدیبیہ میں قربانی کریں اور چونکہ شرائط صلح بظاہر مسلمانوں کے
 خلاف تھیں اس لئے عام طور پر شکستہ دلی پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے تین بار
 حکم دینے پر بھی کوئی شخص تعمیل ارشاد پر آمادہ نہ ہوا آپ گھر آئے اور حضرت
 ام سلمہ رضی سے واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا ”آپ کسی سے کچھ نہ فرمائیے باہر
 نکل کر خود قربانی کیجئے اور احرام اتارنے کے لئے بال مندوا بیٹے۔“ آپ

نے ایسا ہی کیا جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا فرمان مطلق ہے اور آپ خود اس پر عمل پیرا ہیں تو سب نے قربانیاں کیں اور احرام اتارا۔ (صحیح بخاری) حضرت ام سلمہ کی یہ وہ رائے تھی جس کی موزونیت کو سب نے تسلیم کیا ہے۔

حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہر چند بیارہتیں مگر آپ کو گوارا نہ ہوا کہ دینی فرض سے پہلو تھی کریں اس لئے باوجود عذریح ہونے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں طواف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ام سلمہ! جب نماز فجر ہونے لگے تم اونٹ پر سوار ہو کر طواف کر لینا۔" حضرت ام سلمہ کی تمام اولادیں پہلے شوہر سے تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب مبارک سے ان کے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

حضرت ام سلمہ کی زندگی سرتاپا زہد تھی۔

اخلاق و عادات دنیا کی طرف بہت کم توجہ کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک ہار پہن لیا جس میں کچھ سونا بھی شامل تھا۔ حضور نے اعتراض فرمایا تو اتار ڈالا۔ ہر مہینہ پیر جمعرات اور جمعہ تین دن روزہ رکھتی تھیں۔ پہلے شوہر کی اولاد ساتھ تھی جن کی پرورش نہایت دل سوزی سے کرتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا مجھے اس کا ثواب ملے گا۔ فرمایا ضرور ملے گا۔ اور نواہی کا بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔

خود بھی بڑی سخی تھیں اور دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھیں۔ آپ کو دوسروں کی راحت رسانی کا بڑا خیال رہتا۔ جہاں تک ہوتا کار خیر میں بھی دریغ نہ کرتیں۔ بہ مقصدانے محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک برکات اپنے پاس رکھتیں۔ صحابہ میں کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ایک پیالہ

پانی بھر کر ان کے پاس لاتے اور وہ موئے مبارک اس میں ڈبو دیتیں اور اس کی برکت سے ان کی تکلیف دور ہو جاتی۔

آپ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا ایک روز بال گندھوانے میں مصروف تھیں کہ اتنے میں آنحضرت صلعم خطبہ کے لئے ممبر پر رونق افروز ہوئے زبان سے "یا ایہا الناس" نکلا تھا کہ مشاطہ سے کہا بال باندھ دو۔ اس نے کہا جلدی کیا ہے ابھی تو زبان مبارک سے یا ایہا الناس ہی نکلا ہے حضرت ام سلمہ نے کہا کیا خوب ہم آدمیوں میں داخل نہیں؟ اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھیں اور پورا خطبہ سنا۔

اس واقعہ سے علاوہ ذوق علمی کے ان کی خاطر طبعی کا بھی اندازہ ہو

سکتا ہے۔

ذیل کے واقعات سے حضرت ام سلمہ کے تفقہ پر کافی روشنی

پڑتی ہے۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما میں جنابت کو ناقص صوم خیال کرتے تھے ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس خیال کی تصدیق چاہی دونوں نے تردید کی اور کہا کہ آنحضرت صلعم خود بحالت جنابت روزہ سے پائے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو سخت نادام ہوئے اور کہا میں کیا کروں فضل بن عباس نے مجھ سے یہی کہا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ام سلمہ اور عائشہ کو زیادہ علم ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر عصر کے بعد دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے

مروان نے پوچھا آپ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ کہا آنحضرت صلعم بھی

پڑھا کرتے تھے چونکہ حضرت عبداللہ نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے

سلسلہ سے سنی تھی اس لئے مروان نے ان کے پاس تصدیق کے لئے آدمی بھیجا انہوں نے کہا کہ مجھ کو ام سلمہ سے پہونچی ہے حضرت ام سلمہ کے پاس آدمی گیا اور یہ قول نقل کیا تو بولیں۔

اللہ عائشہ کو بخشے انہوں نے میری بات بجا طریقہ پر سمجھی میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آنحضرت صلعم نے ان کے پڑھنے کی ممانعت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو کوئی مسئلہ بتایا اس کو تسکین نہیں ہوئی وہ

ان کے پاس سے دوسری ازواج کے پاس گیا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا۔ واپس آکر حضرت ام سلمہ رحمہ کو یہ خبر سنائی تو بولیں نعوذواشفیک! ٹھیرو میں تمہاری تشفی کرنا چاہتی ہوں میں نے اس کے متعلق آنحضرت صلعم سے

حدیث سنی ہے۔

ابو جندبہ کا یہ علت کی رائیں ان کے فضل و کمال کے متعلق لکھ کر دینا

سکا خیال لکھیں محمود بن سعید کہتے ہیں۔

”یہ یوں تو ازواج مطہرات میں سب کو کثرت سے احادیث حفظ

تھیں مگر حضرت عائشہ اور ام سلمہ کا کوئی حریف نہ تھا۔“

علامہ ابن قیم کا قول ہے۔ اگر ان کے فتاویٰ جمع کئے جائیں تو ایک

چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔

امام الحرمین فرماتے ہیں۔ ام سلمہ سے زیادہ صاحب الرائے عورتوں

میں مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔

ان کے سنہ وفات میں اختلاف ہے

واقدی کا خیال ہے کہ شوال ۵۹ھ میں

وقات

وفات پائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ابن جہان کہتے

کہتے ہیں۔ آخر ۶۱ھ میں بعد شہادت حضرت حسین بن علی آپ نے انتقال کیا اور ابو خثیمہ اس کے قاتل ہیں کہ ان کا زمانہ وفات یزید بن معاویہ کا عہد خلافت ہے۔ (یعنی آخر ۶۱ھ) مگر حق یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کا سال وفات ۶۳ھ ہے اسی سال واقعہ حیرہ پیش آیا تھا یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر کے محاصرہ کے لئے شامی افواج مکہ پر چڑھ آئیں تھیں۔

وفات کے وقت حضرت ام سلمہ کی عمر ۸۴ سال کی تھی حضرت ابو ہریرہ نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھائی قاعدہ تھا کہ حاکم وقت جنازہ کی نماز پڑھاتا تھا اس زمانہ میں ولید بن عقبہ مدنیہ کا والی تھا مگر حضرت ام سلمہ کی وصیت کی وجہ سے وہ نہ آنے پایا۔ بجائے اس کے حضرت ابو ہریرہ نے یہ فرض ادا کیا کیونکہ صحابہ میں فضل و کمال قدر و منزلت کے اعتبار سے اس وقت سب سے زیادہ جلیل القدر ہی تھے۔

ام المؤمنین

حضرت زینب بنت جحش

نام و نسب
 نام زینب، کنیت ام حکم، آپ کا تعلق خاندان اسدیہ سے تھا جو اسد بن خزیمہ سے منسوب ہے۔ آپ کا نسب یہ ہے۔ زینب بنت جحش بن رباب بن عجم بن صبرہ بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دووران بن اسد بن خزیمہ۔ ماں کا نام امیرہ تھا جو آنحضرت کے دادا عبدالمطلب کی بیٹی تھیں اور حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب کی سگی بہن۔ اس رشتہ سے حضرت زینب بنت جناب سالت

آپ کی حقیقی پھوپھی بہن ہوئیں۔

ہجرت و اسلام
اسلام کے لحاظ سے آپ سابقون الاولون
میں سے ہیں۔ یعنی پہلے دور میں اسلام
لائیں ابن اثیر لکھتے ہیں۔ کانت قدیمۃ الاسلام
رسول اللہ صلعم کے ساتھ جن عورتوں نے ہجرت میں ہجر کا بی کا شرف
حاصل کیا انہی میں یہ بھی ہیں۔

حضرت زید بن حارثہ آنحضرت صلعم کے آزاد کردہ غلام
تھے اور آپ کے متنبی بھی تھے۔ یا میاء نبوت پناہ
حضرت زینب انہی کے ساتھ بیاہ دی گئیں بظاہر تو یہ نکاح ایک معمولی
حیثیت رکھتا ہے لیکن حقیقت میں مساوات اسلام کی بے لوث تعلیم
کا عملی سنگ بنیاد ہے۔

”غلامی“ کی نسبت ایک ایسی نسبت تھی جس کو اس زمانہ کی تارک
خیالی پر نظر کرتے ہوئے قریش اور خاص کر خاندان ہاشم کا دامن شرافت
پنپنے لئے کبھی گوارا کر سکتا تھا۔ لیکن چونکہ اسلام اس قسم کا لایعنی امتیاز
اٹھا دینے کے لئے آیا تھا اور حضرت زید بن حارثہ کی دینی خدمات ایسی
یہ تھیں کہ ان کا رتبہ شرافت سے کسی طرح کم سمجھا جاتا اس لئے آل حضرت
صلعم نے حضرت زینب کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ دوسرے یہ
بھی مدنظر تھا کہ حضرت زید حضرت زینب کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں۔
نکاح ہونے کو تو ہو گیا لیکن حضرت زینب کو یہ رشتہ پسند نہ تھا
انہوں نے نکاح سے پہلے بھی رسول اللہ صلعم سے عرض کیا تھا ”اے
ارضاء لِنَفْسِی (میں ان کو اپنے لئے پسند نہیں کرتی) صرف رسول اللہ

صلعم کی تعمیل ارشاد منظور تھی اس لئے تقریباً ایک سال تک نباہا مگر اس کے بعد ناگواریاں بڑھتی گئیں اور حضرت زید نے آنحضرت صلعم سے شکایت کی کہ

”زینب مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں میرا ارادہ ہے کہ ان کو طلاق دے دوں آنحضرت صلعم ان کو سمجھتے رہے کہ طلاق نہ دیں قرآن مجید میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور جب کہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے اور تم کے احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رکھو اور خدا سے خوف کرو۔“

مگر نباہ نہ ہو سکا حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینبؓ کو طلاق دے ہی دی۔ جب حضرت زینبؓ طلاق کی عدت پوری کر چکی تو اس خیال سے کہ وہ آپ کی بہن ہونے کے علاوہ آپ ہی کے زیر تربیت کن شعور کو پہنچی تھیں اور آپ ہی کے حکم سے زید کے نکاح میں آئیں آپ نے اس میں ان کی دلجوئی دیکھ کر خود نکاح کرنا چاہا اس وقت تک زینبؓ جاہلیت کا اثر باقی تھا اور متبنی کی وہی حیثیت بھی جاتی تھی جو اصلی بیٹے کی ہوتی ہے حضرت زید متبنی کے رشتہ سے زید بن محمد مشہور تھے اس لئے منافقوں کے اعتراض کا خیال وجہ تامل ہوا اس پر یہ آیت نازل ہوئی

”تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو خدا ظاہر کر دینے والا ہے اور لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ خدا ہی سے ڈرنا زینب ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ایک تو دل سے یہ خطرہ نکال دیا دوسرے کھلے لفظوں میں منافقوں کو یہ مسکت جواب دیا۔

” محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہ ہونگے لوگوں کو ان کے باپ
کے نام سے پکارو۔“

اب کوئی امر مانع نہ تھا۔ آپ نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم جاؤ
اور زینب کو میرے نکاح کا پیام دو حضرت زید حضرت زینب کے گھر
آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلعم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں حضرت
زینب بولیں جب تک خدا کا حکم نہ ہو ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی یہ جواب
دے کر مسجد کا رخ کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔
” فلما قضی زید منها وطرا ان جنا کھا“

چونکہ حکم الہی ہو چکا تھا اب کوئی امر ایسا نہ تھا کہ استحکام ازدواج میں مانع
ہوتا اس لئے نکاح کی تکمیل ہو گئی اور آنحضرت صلعم بغیر انتظار اجازت
حضرت زینب کے پاس آنے جانے لگے۔

ولیمہ میں گوشت روٹی کا انتظام کیا گیا تھا جو مسلمانوں نے شکم سیر
ہو کر کھا یا ولیمہ کے بعد ہی آیت جانب نازل ہوئی جس کی صورت یہ ہوئی
کہ کھانے کے بعد لوگ باتوں میں مشغول ہو گئے آپ حضرت زینب کے
گھر میں تشریف رکھتے تھے ان لوگوں کے سبب سے بار بار آتے اور چلے
جاتے اخلاقاً کچھ نہ فرماتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

” اے ایمان والو نبی کے گھر نہ آؤ مگر اس صورت میں کہ تم کو
کھانے کا اذن دیا جائے اس کے برتنوں پر نظر ڈالے بغیر
(آسکتے ہو) لیکن جب تم کو دعوت دی جائے تو آ جاؤ اور
جب کھا چکو تو چلے جاؤ اور باتوں میں نہ لگ جاؤ کیوں کہ
تمہارا یہ فعل نبی کو تکلیف دیتا ہے اور وہ تم سے بسبب شرم

کے کچھ نہیں کہتا مگر اللہ کو حق بات کہنے سے کوئی شہم نہیں اور
جب تم ان سے (نبی کی بیبیوں سے) کچھ مانگو تو ان سے پردہ کی آڑ
سے مانگو۔

آپ نے دروازہ پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت
ہو گئی یہ واقعہ زنی قعدہ شہ کا ہے۔

ابن اثیر نے لکھا ہے کہ حضرت زینب دیگر ازواج کے مقابلہ میں اپنے
نکاح پر فخر کرتی تھیں اور کہا کرتی تھیں میرا عقد اللہ تعالیٰ نے آسمان پر کیا
ہے اور میرے ہی نکاح پر آنحضرت صلعم نے گوشت روٹی سے ولیمہ کیا۔
ابن سعد اس ولیمہ کی خصوصیت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلعم نے اپنی کسی بیوی کا ولیمہ اس شان سے نہیں کیا جس
شان سے حضرت زینب کا ولیمہ کیا ان کا ولیمہ بکری کے گوشت سے کیا۔
محمد ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت زینب نے جناب رسالت
مآب صلعم سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی کسی بیوی کی طرح نہیں ہوں
ان میں سے کوئی عورت ایسی نہیں جس کا نکاح باپ یا بھائی یا خاندان کی
ولایت میں نہ ہوا ہو سوائے میرے کہ مجھے اللہ نے آسمان سے آپ کی
زوجیت میں دیا۔

مذکورہ روایتیں گو یا حضرت زینب کی خصوصیات نکاح کا منظر
ہیں جن میں ان کا کوئی شریک نہیں حضرت عائشہؓ اسی خیال سے حضرت
زینبؓ کے متعلق فرماتی تھیں۔

ازواج مطہرات میں ایک ہی تھیں جن کو مجھ سے مساوات کا
دعوئی تھا۔

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کو اس دعویٰ کا حق تھا کیونکہ ان کے اس نکاح سے بعض رسوم جاہلیت کی بیخ کنی ہو گئی مثلاً پہلے عام خیال تھا کہ تہنی صلی اولاد کا حکم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے ذریعہ اس کی عملی اصلاح کی آزاد و غلام کا امتیاز اٹھ گیا اور حضرت زید کو خاندان ہاشم میں مساوات کی تکمیل کا منظر بنایا گیا بے پردگی کی مکروہ رسم موقوف ہوئی اور پردہ کا عام حکم مسلمانوں کو پہنچایا گیا۔

حضرت زینبؓ میں جو اخلاقی خصوصیات

اخلاق و عادات

پائی جاتی ہیں کم عورتوں میں ایسی ہونگی

جو اس میں ان کی شریک ہوں۔ یاد صفت اس کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ

عہنا سے اکثر ان کا حریفانہ مقابلہ رہتا تھا اور مقتضائے طبیعت بشری

ایک حد تک رشک و رقابت کا بھی تعلق تھا لیکن واقعہ افک میں جب

حضرت عائشہؓ کے متعلق ان سے رائے طلب کی گئی تو انہوں نے نہایت

صفائی سے کہا کہ میں ان میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی غور کیا جانے تو

عورت جیسی کمزور فطرت کے لئے یہ بڑا نازک وقت تھا علاوہ مذکورہ

تعلقات کے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت زینبؓ کی بہن حمہ اس سازش

میں شریک تھیں مگر اللہ کو منظور تھا کہ حضرت عائشہؓ کی براءت کے ساتھ

حضرت زینبؓ کی بے لوث حق گوئی کا بھی اعلان کر دے حافظ ابن حجر

نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔

”یعنی حضرت عائشہؓ نے افک کے معاملہ میں حضرت زینبؓ کی تعریف

کی ہے“

آپ نہایت فیاض، فراخ دست، متوکل اور قانع تھیں، یتامی و

ہن کی سرپرست اور فقرا کی پشت و پناہ تھیں ابن سعد ایک روایت لکھتے ہیں۔

زینب بنت جحش نے درہم و دنیا رکھ نہ چھوڑا وہ جو کچھ پاتی تھیں صدقہ نبی تھیں وہ مساکین کی ملٹی و ماویٰ تھیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی اکثر تعریف کی ہے فرماتی ہیں۔

”آنحضرت صلعم کی ازواج میں سوائے زینب بنت جحش کے آپ کے نزدیک حسن منزلت میں کوئی میرا مد مقابل نہ تھا۔“

کی صناعت تھیں، چھڑا پکاتی تھیں اور اس کی آمدنی راہِ خدا میں صدقہ تھی تھیں۔

سعادت کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زینبؓ کے ہزار درہم مقرر فرما دیئے تھے انہوں نے کبھی نہ لئے صرف ایک سال ل فرمائے اور کہا ”اے اللہ آئندہ یہ سال مجھ کو نہ پائے کیوں کہ یہ ہے؟ پھر اس کو اپنے قرابت داروں میں حاجت مندوں میں تقسیم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو بولے ”یہ بیوی بڑی صاحب خیر ہیں؟ ان کے دروازہ پر دیر تک ٹھیرے رہے سلام کہا بھیجا اور کہا آپ نے جو لیا مجھے اس کی خیر ہو گئی اس کے بعد ہزار درہم ان کے خرچ کے لئے اور بے انہوں نے وہ بھی اسی طرح صرف کر دیئے۔“

آپ نہایت خاشع و خاضع اور عبادت گزار بیوی تھیں ایک موقع پر ماجرین کے گردہ میں آنحضرت صلعم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے یہ نہ سچ ل بول اٹھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جھڑک دیا کہ دخل در معقولات لریں آپ نے فرمایا ”عمر ان سے کچھ نہ کہو یہ اوادہ (یعنی بڑی عابد و زاہد) ہیں۔“

حضرت زینبؓ کے فضائل کا اندازہ
سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہؓ

فضائل و مناقب

سلیم الغیم اور عظیم المرتبت بیوی ان کے اوصاف میں رطب اللسان
حضرت عائشہؓ نے ان کے حالات زندگی کا جس غائر نظر سے مطالعہ
تھا کتب احادیث اس کی شاہد ہیں۔ ہم یہاں بعض اقوال حضرت
کے اپنے بیان کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔

موسیٰ بن طارق اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ
حضرت زینبؓ کا ذکر کیا تو بولیں

” ان سے بہتر عورت، معاملات دین، تقویٰ، صداقت اصل
رحم سخاوت اور نیک نفس میں کوئی نہ تھی۔“

ایک موقع پر علامہ بن عبدالبر نے حضرت عائشہؓ کے یہ الفاظ نقل
کئے ہیں۔

” میں نے مذہبی نقطہ نظر سے حضرت زینبؓ سے بہتر کبھی کوئی عورت
نہیں دیکھی۔“

محمد بن عمر نے موسیٰ بن محمد کے سلسلہ سے حضرت عائشہؓ کا یہ قول نقل کیا
” اللہ زینب بنت جحش پر رحم کرے، واقعی ان کو دنیا میں بے زہر
حاصل ہوا۔ اللہ نے اپنے نبی سے ان کو بیاہ دیا اور ان کے سبب سے
قرآن کی بعض آیتیں اُتریں۔“

حضرت ام سلمہ کا ارشاد ہے۔

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَامَةً قَوَّامَةً

وفات - بہ عہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے

اگر خیر باد کہا اسی سال مصر فتح ہوا تھا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تریس سال کی تھی یہ روایت حافظ ابن حجر نے لکھی ہے اور اسی طرف عام مورخین حجاج ہے مگر واقدی کی رائے ہے کہ حضرت زینبؓ کی کل مدت چالیس سال ہے جو اکثریت کے خلاف ہے۔

حضرت زینبؓ کی فیاضانہ روش آخر تک قائم رہی جب انتقال ہوا آپ کے پاس کچھ نہ تھا سب صدقہ کر چکی تھیں صرف ایک مکان ان کی دگارتھا جو ولید بن عبد الملک نے چاس ہزار درہم میں ان کے اعزم سے لیکر مسجد نبوی میں ملا دیا۔

آپ نے مرنے سے قبل تاکید کر دی تھی کہ میں نے اپنا کفن تیار کر لیا ہے شاید عمر میرے لئے کفن بھیجیں اگر ایسا ہو تو ایک کفن صدقہ میں دینا۔

آپ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابوت پر مجھ کو اٹھایا جائے اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو اس تابوت پر قبر تک پہنچایا جا چکا تھا۔ یہ سہلی خاتون تھیں جو حضرت ابو بکرؓ کے بعد تابوت نبوی پر اٹھائی گئیں۔

حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی جنت البقیع میں دفن ہوئیں عقیق اور ابن حنفیہ کی قبروں کے درمیان ان کا مزار تیار ہوا اس دن گرمی بہت شدت کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے جہاں قبر کھد رہی تھی خیمہ لگوا یا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا خیمہ تھا جو بقیع میں قبر پر نصب ہوا۔

دفن کے وقت حضرت عمرؓ نے ازواج مسطرات سے دریافت کرایا کہ جناب زینبؓ کی قبر میں کون اترے جواب آیا کہ جو ان کی زندگی میں

ان کے پاس آتا جاتا رہا ہو چنانچہ حضرت عمر کے حکم سے محمد بن عبدالشکر
حجش اسامہ ابن زید، عبدالشکر ابن ابی احمد بن حجش اور محمد بن طلحہ نے قبر میں
آٹا یہ سب حضرت زینبؓ کے رشتہ دار تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کی وفات کا زیادہ صدمہ ہوا
جب حضرت زینبؓ کا انتقال ہوا تو کہنے لگیں "وہ نیک بخت ہے
بیوی چلی گئیں اور یتامی و بیوگان کو بے چین کر گئیں"

حضرت زینبؓ کے متعلق بہت مشہور ہے اور ان کی خصوصیات
سے اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے قبل
ازواج کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم میں سے جس کا ہاتھ سب سے
ہو گا وہی سب سے پہلے مجھ سے ملے گا۔ دراصل ہاتھ کی بڑائی سے کیا
مقصود تھی ازواج نے حقیقی معنی ملحوظ رکھے جب سب یکجا ہوئیں ایک
دوسرے کے ہاتھ ناپا کرتیں۔ جب تک حضرت زینبؓ کی وفات نہیں
ہوئی تھی اس وقت تک یہی ہوا کرتا تھا پھر غور کیا تو اصل مدعا رسول
اللہ کا سمجھ میں آیا چنانچہ حضرت عائشہؓ نے اس حدیث کی تشریح
میں فرمایا۔

"ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی حضرت زینبؓ تھیں
کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی میں صدقہ کرتی تھیں۔"

(الصحابیات)

ام المومنین

حضرت جویریہ بنت حارث

نام و نسب
جویریہ یہ نام تھا اور بنی خزاعہ کے خاندان
مصطلق سے تعلق رکھتی تھیں آپ کا نسب
یہ ہے جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار بن عائد بن مالک بن خندبہ
ابن مصطلق۔

پہلا نکاح
پہلا نکاح مسافع بن صفوان مصطلق سے
ہوا تھا جو ان کا ابن عم تھا اور ابن ذی الشفر
کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔

نکاح ثانی و دیگر حالات
غزوہ بدر میں جویریہ مصطلق کی جنگ
کا دوسرا نام ہے ۵۰ھ میں اور
بقول بعض ۶۰ھ میں ہوا تھا حضرت جویریہ نے جنگ کی غنیمت میں
ہاتھ آئی تھیں جب اموال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو آپ ثابت بن قیس کے
حصے میں آئیں۔ چونکہ نازک مزاج، خوب رو اور سردار قبیلہ کی بیٹی تھیں
لونڈی بن کر رہنا گوارا نہ ہوا ثابت سے مکاتبت کی درخواست کی وہ
راضی ہوئے تو آنحضرت ﷺ سے عرض کیا کہ میں مبتلائے مصیبت ہوں
اپنے تئیں آزاد کرانا چاہتی ہوں آپ میری امرا و فرما ئے ارشاد ہوا کیا
یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں تمہارا زر کتابت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں

جویریہؓ نے کہا بہتر ہے۔ آنحضرتؐ نے روپیہ دے کر نکاح کر لیا جب یہ حال مسلمانوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے بنو مصطلق کے سارے قیدی آزاد کر دیئے کیونکہ اب قرابت نبوی کا پاس مانع تھا ابن اثیر نے لکھا ہے کہ اس تقریب میں بنو مصطلق کے سو خاندان آزادی کی دولت سے بہرہ مند ہوئے حضرت عائشہؓ حضرت جویریہؓ کو اس خصوصیت پر مستحق محبین قرار دیتی ہیں اور فرماتی ہیں۔

”میں نے کسی عورت کو جویریہ سے زیادہ اپنی قوم کے لئے وجہ برکت نہیں دیکھا۔“

رسول اللہ کے نکاح میں آنے کے کچھ

عام حالات

دن بعد عارث ابن ابی زار بجز اس

علم کے کہ ان کی بیٹی حرم نبوی میں داخل ہو گئی ہے اموال و اسباب

ادموٹوں پر بارگاہ کے حضرت جویریہؓ کی رہائی کے لئے مدینہ روانہ ہوئے

مکہ میں مقام عقیق پر اپنے ادنیٰ چرانے کے لئے چھوڑ دیئے ان میں

سے دو ادنیٰ ان کو بہت پسند تھے۔ اس لئے ان کو کسی گھائی میں

دیا مدینہ پہنچ کر جناب رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

عرض کیا ”تم میری بیٹی کو قید کر لائے ہو اس کا فدیہ مجھ سے لے لو“

اس کو میرے ساتھ کر دو“ پھر جو مال اور ادنیٰ وغیرہ فدیہ دینے کے

لئے لائے تھے پیش کرنے لگے آپ نے فرمایا: ”وہ دو ادنیٰ کہا

ہیں۔ جن کو تم عقیق کی گھائیوں میں چھپا آئے ہو“

حادثہ پر اس اطلاع کا بڑا اثر ہوا اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا اب

اس کو معلوم ہوا کہ جس بیٹی کو چھڑانے کے لئے اس نے اتنی زحمت اٹھا

ہے وہ حرم نبوی کی رونق بنی ہوئی ہے بہت خوش ہوا اور بڑی مسرت کے ساتھ اپنی بیٹی سے مل کر منسی خوشی سے اپنی قوم کے گھر روانہ ہوا۔ پہلے حضرت جویریہؓ کا نام برہ تھا آپ نے بدل کر جویریہ رکھا کیوں کہ پہلے نام میں ایک طرح کی بدشگونی پائی جاتی تھی اور خود ستانی کا پہلو نکلتا تھا ابن عباس کی روایت میں ہے۔

”یعنی آپ کو برہ ناما پسند تھا کہ برہ کے پاس سے چلے آئے۔ مگر ہماری رائے میں اس توجیہ کے مقابلہ میں آیہ کلا تسرکوا انفسکم کی تاویل زیادہ مناسب ہے۔

ابن سعد نے حضرت جویریہؓ کا مہر یہ بتلایا ہے۔

”بنو مصطلق کے تمام قیدیوں کی آزادی ان کا مہر قرار پائی تھی۔ حضرت جویریہؓ جس وقت آنحضرت صلعم کے نکاح میں آئیں جو ان تھیں صورت اچھی پائی تھی حضرت عائشہؓ نے ان کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے

”جویریہ میں حلاوت و ملاحت دونوں وصف تھے جو شخص ان کو دیکھتا اپنے دل میں جگہ دیتا۔

آپ بہت خود دار تھیں عزت نفس کا بے انتہا خیال رکھتی تھیں چنانچہ اپنی آزادی کے لئے جدوجہد اس کا کافی ثبوت ہے زہد و عبادت سے بہت شغف تھا اکثر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم تشریف لائے اور ان کو تسبیح و تہلیل میں مصروف پایا۔

صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے کہ نبی صلعم جویریہؓ کے پاس آئے وہ

مسجد میں تھیں دوپہر کے قریب دوبارہ پھر تشریف لائے اور ان سے فرمایا تم ہمیشہ اسی حالت میں رہتی ہو کہا "ہاں" فرمایا میں تم کو ایسے کلمے یہ سکھلا دوں جن کا کہہ لینا تمہاری نفل عبادت سے زیادہ ترجیح رکھتا ہے پھر آپ نے چند کلمات تعلیم فرمائے۔

ابن سعد کی روایت ہے کہ جمعہ کے دن آنحضرت صلعم حضرت جویریہ کے پاس آئے اس دن وہ روزہ سے تھیں آپ چونکہ ایک روزہ رکھنا مکروہ خیال فرماتے تھے اس لئے دریافت فرمایا "تم نے کل روزہ رکھا تھا بولیں نہیں" پھر فرمایا کل ارادہ ہے کہا "نہیں" ارشاد ہوا تو تم افطار کرو۔

آنحضرت صلعم ان سے بہت محبت فرماتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تو پوچھا "کچھ کھانے کو ہے" جواب دیا "میری کنیز نے صدقہ کا گوشت دیا تھا وہی رکھا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں۔"

فرمایا لے آؤ کیوں کہ صدقہ جس کو دیا گیا تھا اس کو پہنچ گیا۔

حضرت جویریہ نے بھرہ ۶۵ سال ۵۵۰ھ میں وفات پائی

بروایت محمد بن عمران کا سال وفات ۵۶۰ھ ہے جو

وفات

امیر معاویہ کا عہد خلافت ہے ماہ ربیع الاول میں انتقال ہوا۔ مروان بن حکم نے جو اس زمانہ میں مدینہ کا والی تھا نماز جنازہ پڑھائی۔ بقیع میں دفن کی گئیں۔ آپ بڑی نفل و کمال والی بیوی تھیں چند احادیث بھی آں حضرت سے روایت کی ہیں۔

حسب ذیل بزرگوں نے ان سے احادیث بیان کی ہیں۔

ابن عباس، جابر بن عمر، عبید بن السباق طفیل، ابویوب مرغ، مجاہد

مرکب، کلثوم بن مطلق، عبداللہ بن شداد بن الہاد۔

نفلی روزہ

صدقہ

اُم المؤمنین

حضرت اُم حبیبہ

نام و نسب رملہ نام ہے اور یہی مشہور ہے بعض کے نزدیک

ہند ہے مگر بہ نسبت نام کے آپ کی کنیت ام حبیبہ زیادہ معروف ہے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت ابی العاص تھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سگی بہو بھی تھیں

اور باپ کا نام ابوسفیان مخر بن امیہ بن عبد شمس تھا۔

ولادت بعثت نبوی سے سترہ سال قبل پیدا ہوئیں۔

نکاح آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش بن یاب سے ہوا جو

بنی اسد بن خزیمہ کے خاندان سے تھے اور حبیبہ بن امیہ کے حلیف تھے۔

اپنے شوہر کے ساتھ مسلمان ہوئیں اور ساتھ

ہی ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں، یہاں پہنچ

ہجرت و اسلام

کر عبید اللہ کے حلیف سے ان کی رملہ حبیبہ پیدا ہوئی جس کے نام سے آپ

ام حبیبہ مشہور ہوئیں۔ کچھ دنوں بعد عبید اللہ نے ترک اسلام کر کے عیسائی

مذہب اختیار کیا۔ عبید اللہ کے ارتداد سے پہلے حضرت ام حبیبہ نے شوہر

کو نہایت یدنما صورت میں دیکھا بہت گھبرائیں اور دل میں کہنے لگیں کہ

یقیناً اس کی حالت خراب نظر آتی ہے۔ صبح ہوئی تو عبید اللہ نے ان سے کہا

”ام حبیبہ میں نے مذہب کے معاملہ میں غور کیا تو مجھے نصرانیت سے بہتر

کوئی مذہب نہ معلوم ہوا گو میں پہلے مسلمان ہو چکا ہوں لیکن اب پھر

عیسائی ہوتا ہوں۔ حضرت ام حبیبہ نے بہت ملامت کی اور اپنا خواب بھی

بیان کیا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا وہ آخر تک عیسائی رہا چونکہ زندانہ زندگی بسر کرتا تھا شراب خواری کے عالم میں مر گیا۔

اب حضرت ام حبیبہ تنہا تھیں اور حبشہ میں بیوگی کے دن کاٹ رہی تھیں۔ عدت پوری

نکاح ثانی

ہو گئی تو جناب رسالت مآب صلعم نے نکاح کا پیغام دینے کے لئے عمر بن ابی سلمہ کو نجاشی شاہ حبش کے پاس بھیجا ان کے پہنچتے ہی نجاشی نے ابرہہ اپنی لونڈی کے ذریعہ سے حضرت ام حبیبہ کے پاس رسول اللہ صلعم کا پیام پہنچایا اور کہلا دیا کہ آنحضرت نے مجھ کو تمہارے نکاح کے لئے لکھا ہے تم اپنا کوئی وکیل مقرر کر دو کہ یہ تقریباً انجام پائے حضرت ام حبیبہ نے اس کے صلہ میں ابرہہ کو دو چاندی کے کنگن دو پانوں کے چھلے اور نقرئی انگوٹیاں عنایت کیں خالد بن سعید کو اس کی اطلاع کر دی اور انہیں کو اپنا وکیل بنایا جب شام ہوئی تو نجاشی نے وہاں کے مسلمانوں اور جعفر بن ابی طالب کو بلا کر خود نکاح پڑھایا اور چار سو دینار مہر کے آنحضرت صلعم کی طرف سے خالد بن سعید کو ادا کئے جب مراسم نکاح سے فراغت ہو گئی اور لوگ اٹھ کر جانے لگے تو خالد بن سعید نے پھیرا یا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کرتے ہیں تو کھانا بھی کھلاتے ہیں پھر سب کو کھانا کھلا کر رخصت کیا۔

یہ نکاح ۶ یا ۷ھ میں ہوا اس وقت حضرت ام حبیبہ ۳۶ یا ۳۷

سال کی ہوں گی نکاح کے بعد جہاز میں بیٹھ کر..... مدینہ کی

طرف روانہ ہوئیں اور مدینہ کی بندرگاہ میں اتریں اس وقت آنحضرت صلعم

خیبر میں تشریف فرما تھے۔

نکاح کی روایت طہقات اور مسند وغیرہ میں صحیح کتب سیر سے ماخوذ

ہے اور اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں لیکن ہر کی تعداد سہو روایت پر بی معلوم ہوتی ہے علامہ ابن عبد البر، امام احمد بن حنبل وغیرہ محقق نے قابل وثوق ذرائع سے لکھا ہے کہ ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا ہر چار چار سو درہم تھا اور ہمیں بہت کم اختلاف ہے اس بناء پر ہر کی تعداد قابل اعتبار نہیں۔

حضرت ام حبیبہ بڑے مستحکم ایمان کی خاتون تھیں اور

اس خصوص میں وہ اپنے کسی عزیز و قریب کی رعایت

اخلاق

نہ کرتی تھیں ان کے باپ ابوسفیان کفر کے زمانہ میں آنحضرت صلعم کے

پاس مدینہ آئے کہ میعاد صلح کی توسیع کے لئے سلسلہ جنبانی کریں بیٹی کو بھی

دیکھنے گئے اور رسول اللہ صلعم کے بستر مبارک پر بیٹھنے لگے حضرت ام حبیبہ

نے بھونٹا الٹ دیا اس پر باپ کا بیٹھنا گوارا نہ کیا ابوسفیان سخت ناراض ہوئے

بولے بیٹی تجھ کو بھونٹا اتنا عزیز ہے کہ مجھ سے روگردانی کرتی ہے جواب دیا

یہ رسول اللہ صلعم کا بستر ہے اور آپ چونکہ مشرک ہیں اس لئے ناپاک ہیں۔

ابوسفیان نے کہا۔ تو میرے بعد بہت ہی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔

عمل بالحدیث کی بہت پابندی تھی دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھیں

ایک بار ان کے بھانجے ابوسفیان ابن سعید آئے اور انہوں نے سنتو کھا کر

کلی کی تو بولیں تم کو وضو کرنا چاہیے کیوں کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ

جس چیز کو آگ پکائے اس کے استعمال سے وضو لازم آتا ہے۔

آنحضرت صلعم سے سنا تھا کہ جو شخص بارہ رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس

کے لئے جنت میں گھر بنایا جائے گا اس کی اتنی پابندی تھی کہ خود فرماتی ہیں۔

یعنی یہ سننے کے بعد میں ان رکعتوں کو ہمیشہ پڑھتی ہوں۔

ان کے باپ ابوسفیان کا انتقال ہوا تو خوشبو منگا کر رخساروں اور

بازوؤں پر ملی اور کہا مجھے اس کی خبر نہ بھی ہوتی اگر میں نے رسول اللہ صلیم
 کو یہ فرماتے نہ سن لیا ہوتا کہ ایماندار عورت کے لئے تین دن سے زیادہ کا
 سوگ جائز نہیں بجز شوہر کے کہ اس کے سوگ کی مدت چار ہفتہ دس دن کے
 وقت ہے۔

۳۷ سال کی عمر میں وفات پائی اور مدینہ میں دفن ہوئیں۔ انتقال سے
 قبل حضرت عائشہؓ کو بلایا اور کہا: "مجھ میں اور آپ میں سوکنوں کے تعلقاً
 تھے اگر کوئی تعزیر ہوئی تو معاف کر دیجئے اور میرے لئے دعائے مغفرت
 کیجئے۔ حضرت عائشہؓ نے دعا کی تو بولیں

"آپ نے مجھے خوش کیا اللہ آپ کو خوش کرے"

عمومی تبصرہ
 آپ بڑی فاضل و کامل الادوات ہوئی تھیں
 فن حدیث میں آپ کے کئی شاگرد تھے اور

آپ کی حرویہ احادیث کی تعداد ۶۵ بتلائی جاتی ہے۔ جو آپ نے آنحضرت
 صلیم اور ام المومنین حضرت زینب بنت جحش سے روایت کیں جن لوگوں
 نے حضرت ام حبیبہ سے روایت کی ہے ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں۔
 حبیبہ بنت عبد اللہ معاویہ بن ابی سفیان، عقیلہ بنت ابی سفیان، عبد اللہ
 بن عتبہ بن ابی سفیان، ابوسفیان بن سعید بن المغیرہ، سالم بن سواد، ابن
 الجراح، صفیہ بنت شیبہ، زینب بنت ام سلمہ، عروہ بن زبیر، ابوصالح سمان
 وغیرہ وغیرہ۔

ان کی قبر کے متعلق ایک عجیب روایت ہے۔ صاحب استجاب نے
 لکھا ہے کہ ام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کا ایک گوشہ
 کھدوایا تو ایک کتبہ برآمد ہوا جس میں لکھا تھا۔

”یہ رملہ بنت ضحریٰ کی قبر ہے“

انہوں نے یہ دیکھ کر اس کتبہ کو پھروا دیا اور کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں تھی۔ اس سے زیادہ حالات حضرت ام حبیبہ کے مدفن کے متعلق نہیں معلوم ہو سکے۔
(الصحابیات)

أم المومنین

حضرت صفیہ بنت حبیبہ

نام و نسب :- آپ کا نام صفیہ تھا حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام کی اولاد سے تھیں اسی لئے ان کو صفیہ بنت حبیبہ اسرائیل کہتے ہیں۔ نسب یہ ہے۔ صفیہ بنت حبیبہ بن اخطب بن معید بن عامر بن عبید بن کعب بن الخزرج بن ابی حبیب بن انصیر بن نعام بن منجم ماں برہ بنت سموان تھیں جن کا سلسلہ نسب یہودیوں کے مشہور خاندان قرظیہ سے ملتا تھا اس حساب سے حضرت صفیہ کا دادھیال بنی نصیر اور نایہال بنی قرظیہ یہود کے ہر دو یک جدی خاندان قرار پاتے ہیں۔

حضرت صفیہؓ کے باپ اور نانا دونوں اپنی قوم کے معزز و باوقار سردار تھے اور اسی لئے بنی اسرائیل کے تمام عربی قبائل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ حبیب بن اخطب ان کے والد کی حد سے زیادہ قد و منزلت کی جاتی تھی تمام افراد قوم ان کی سرکاری لہجہ بجا بہت کے آگے سر جھکاتے تھے ان کی والدہ برہ سموان کی بیٹی تھیں جو سارے جزیرہ عرب میں اپنی شجاعت و دلیری کے

حالات سے بہت مشہور تھے الغرض صفیہ کا حسب و نسب ایک خاص امتیاز رکھتا تھا۔

نکاح :- پہلے سلام بن مشکم القرظی سے نکاح ہوا جو

ایک مشہور شاعر اور سردار تھا اس سے طلاق ہو جانے کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق نے عقد کیا یہ بھی سلام سے کچھ رقبہ نہ رکھتا تھا بلکہ خیبر کے نامی قلعہ القموص کا سردار تھا اور یہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بود و باش رکھتا تھا۔ جب جنگ خیبر میں مسلمانوں کو معرکہ الآرافع حاصل ہوئی اور القموص جیسا مضبوط قلعہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کنانہ ابن ابی الحقیق قلعہ ہی میں مارا گیا اور اس کے تمام اہل و عیال جن میں حضرت صفیہؓ بھی تھیں قید ہو گئے۔

یہ لڑائی یہودیوں کے لئے ایسی تباہ کن تھی کہ ان کی سب امیدوں پر پانی پھر گیا اور آئندہ وہ سراٹھانے کے قابل نہ رہے اس جنگ میں ان کے نامی گرامی سردار حن چن کے کام آئے جن میں حضرت صفیہؓ کے باپ اور بھائی بھی تھے۔ اس لئے اس جنگ میں حضرت صفیہؓ کی حالت بہت زیادہ قابل رحم تھی۔

جب اموال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی اور تمام قیدی اس مقصد سے جمع ہوئے تو وحیہ کلبی نے آنحضرت صلعم سے درخواست کی کہ مجھے ایک لونڈی کی ضرورت ہے آپ نے انتخاب کی اجازت دی، وحیہ نے حضرت صفیہ کو پسند کیا۔ چونکہ یہ غیرت و وقار کی حیثیت سے اس سے زیادہ ذی وقعت تھیں کہ حضرت وحیہ کے حصہ میں آئیں یا ان کے ساتھ عام عورتوں کا سا برتاؤ کیا جاتا اس خیال سے بعض صحابہ نے گزارش کی کہ "صفیہ نبی

تصیر و بنی قریظہ کی رئیسہ ہے وہ تو آپ ہی کے لئے مناسب ہے۔ آنحضرت صلعم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور وحیہ کو دوسری لونڈی عنایت کر دی اور صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔

یہ واقعہ شہ کا ہے نکاح کے بعد جب خیبر سے روانگی ہوئی تو مقام صہبا میں رسم عروسی ادا کی گئی۔ اور وہیں دعوت ولیمہ بھی ہوئی صہبا سے چلنے لگے تو آپ نے ان کو اپنے ادنٹ پر سوار کیا اور خود اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صفیہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔

اب آپ مدینہ پہنچے صفیہ کو حارث بن نعمان کے مکان میں اتارا حضرت حارث بن نعمان آنحضرت صلعم کے نہایت جان نثار اور فداکار صحابی تھے پھر خدا نے دولت بھی عطا کی تھی ایسے موقعوں پر خود سبقت کرتے تھے اور آنحضرت صلعم کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی انہیں کا اہتمام کیا آیا اس مکان میں حضرت زینب بنت جحش حضرت حفصہؓ، حضرت عائشہؓ اور حضرت جویریہؓ برقعہ پہنے انصار کی عورتوں کے ساتھ حضرت صفیہؓ کو دیکھنے آئیں یہ روایت ام سنان سلیمہ کی ہے عطا بن یسار کی روایت ہے کہ حضرت صفیہؓ کے حسن و جمال کا حال سن کر انصار کی عورتیں ان کو دیکھنے آئیں حضرت عائشہؓ بھی نقاب ڈالے ان لوگوں میں شامل تھیں جب دیکھ کر جانے لگیں تو آنحضرت صلعم پیچھے پیچھے آئے اور حضرت عائشہؓ سے فرمایا۔

”عائشہ تم نے اس کو کیسا پایا“

بولیں یہودیہ ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو وہ تو مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا

اسلام بہتر ہے۔

آپ مزاج کی بے حد حلیم اور بے انتہا ضابطہ
تھیں جس وقت قلعہ القموص فتح ہوا اور

اخلاق و عادات

خیبر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو حضرت صفیہ اور ان کی چچا زاد بہن کو حضرت
بلال رضی اللہ عنہما کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے راستہ میں ان کا
گذر یہودیوں کی لاشوں پر ہوا ایسے مواقع بہت نازک ہوتے ہیں مضبوط
سے مضبوط دل ہل جاتے ہیں چنانچہ ان کے ساتھ والی عورت یہ ہولناک
سمان دیکھ کر چیخ اٹھی اور سر پر خاک ڈالنے لگی مگر حضرت صفیہ کی متانت
دیکھنے کہ محبوب شوہر کی نعش سے گزریں اور جبیں پر شکن تک نہ آئی۔

ان کی ایک لونڈی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی اور کہا کہ
ان میں اب تک یہودیت کی بو پائی جاتی ہے کیوں کہ وہ اب بھی "ہفتہ" کو
دوست رکھتی ہیں۔ اور یہودیوں سے ان کے تعلقات قائم ہیں۔ حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کے لئے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرایا انہوں نے جواب
دیا کہ "جب سے مجھے اللہ نے ہفتہ کے بدلہ جمعہ عنایت فرمایا۔ ہفتہ کو دوست
رکھنے کی کوئی ضرورت نہ رہی۔ یہودیوں سے تعلقات تو ان سے میری قرابت
ہے مجھے صلہ رحم کا خیال رکھنا پڑتا ہے" اس کے بعد اس لونڈی کو بلا کر
پوچھا کہ تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا تھا لونڈی نے کہا شیطان نے
یہ سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئیں اور اس کو آزاد کر دیا۔

آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت محبوب رکھتی تھیں جب آپ علیہ السلام ہوئے
اور تمام ازواج عیادت کے لئے آئیں تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھرت کھنے لگیں
یا نبی اللہ کاش آپ کی تمام تکلیفیں مجھے مل جائیں۔ یہ سن کر اور بیویاں

ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں آنحضرت صلعم نے فرمایا واللہ وہ سچی ہے۔
یہی حال قریب قریب آنحضرت صلعم کی محبت کا تھا حضرت صفیہؓ کے
ساتھ آپ کو ان کی خاطر بہت عزیز تھی، اور ان کی دل جوئی کا بہت خیال
رکتے تھے ایک بار سفر میں تھے ازواج مطہرات ساتھ تھیں اتفاق سے
حضرت صفیہؓ کا اونٹ بیمار ہو گیا یہ بہت گھبرائیں اور بے اختیار رونے لگیں
آپ کو معلوم ہوا تو خود تشریف لائے اور دست مبارک سے ان کے آنسو
پونچھنے لگے مگر اس طرح ان کی گریہ و زاری میں اور اضافہ ہو گیا۔ آخر آپ
کے سب اتر پڑے جب شام ہوئی تو زینب بنت جحش سے فرمایا زینب تم
صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ حضرت زینب بولیں کیا میں اس یہودیہ کو
اپنا اونٹ دے دوں یہ کلمہ آنحضرت صلعم کو بہت ناگوار ہوا اور آپ اس
قدر ناراض ہوئے کہ دو تین ہینہ تک حضرت زینبؓ سے بات نہ کی پھر
حضرت عائشہؓ نے بمشکل معاف کرایا۔

اسلام کا تقدس حاصل ہو جانے کے بعد یہودیت کا طعن آپ کے لئے
سخت دل خراش ہوتا تھا بعض اوقات جب ان پر اس قسم کا طنز کیا جاتا تو
بہت رنجیدہ ہوتیں۔ ایک بار آپ تشریف لائے تو حضرت صفیہؓ رو رہی
تھیں سب دریافت فرمایا تو کہا "عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ وہ تمام
ازواج میں افضل ہیں۔ کیونکہ وہ بیوی ہونے کے علاوہ آپ کی چچا زاد
بہن بھی ہیں۔"

آنحضرت صلعم نے دل جوئی کے لئے فرمایا "تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ
میرے باپ ہارونؑ، میرے چچا موسیٰؑ اور میرے شوہر محمدؑ ہیں اس لئے تم
لوگ مجھ سے کیوں کرا افضل ہو سکتی ہو۔"

درایتاً تو اس حدیث میں کوئی کلام نہیں ممکن ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہو۔ تمام اہل سیر ابن سعد حافظ ابن حجر وغیرہ اپنی تصانیف میں اسے نقل کرتے ہیں۔ روایتاً البتہ اس کے متعلق امام ترمذی کی رائے ہے کہ ”یہ حدیث غریب ہے۔ ہاشم کوئی کے سوا اور کسی سے نہیں سنی گئی اور اس کی سند کچھ ایسی نہیں ہے۔“

یہ ہاشم کوئی وہی ہیں جن کی نسبت محدثین کی رائے اچھی نہیں ہے۔ آپ بے انتہا سیر حشم اور فیاض بخش ہیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ کا صرف ایک ذاتی مکان تھا اور وہ بھی اپنی زندگی میں صدقہ میں دے ڈالا۔ زرقانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ آئیں تو انہوں نے جناب فاطمہ زہرا اور ازواج مطہرات میں اپنی سونے کی بجلیاں تقسیم کر دیں۔

آپ میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا فطری جذبہ پایا جاتا تھا چنانچہ جب ۳۵ھ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محصور ہو گئے اور ان کے مکان پر پہرہ بٹھا دیا گیا تو حضرت صفیہؓ ایک غلام کو ساتھ لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئیں اور ان کے مکان کی طرف چلیں اشتر نخعی نے دیکھا تو خچر کو مارنے لگا چونکہ آپ اشتر نخعی کے مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکتی تھیں۔ اس لئے مصالحت واپس چلی گئیں اور اپنی جگہ حضرت حسینؓ کو اس خدمت پر مامور کیا۔

تمام ارباب سیران کے محاسن اخلاق کے ستائش گر ہیں۔ علامہ ابن عبد اللہ لکھتے ہیں :-

”صفیہ عاقل، فاضل اور حلیم تھیں۔“

ابن اثیر کی رائے ہے۔

وہ نہایت عقلمند عورت تھیں۔

حضرت صفیہؓ دیگر ازواج کی طرح علمی خصوصیات
کا بھی مخزن تھیں۔ اکثر لوگ ان سے مسائل

فصل و کمال

پوچھتے اور اطمینان حاصل کرتے تھے۔ صہیرہ بنت حبیر جب حج سے فارغ
ہو کر حضرت صفیہؓ سے ملنے آئیں تو دیکھا کہ کونہ کی بہت سی عورتیں مسائل
دریافت کرنے کے لئے ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ سب کے
سوالات کا جواب نہایت حسن کے ساتھ دے رہی تھیں۔

حضرت صفیہؓ سے چند احادیث کی بھی روایت کی گئی ہے جن کو امام
زین العابدینؓ، اسحاق بن عبداللہ بن حارث، مسلم بن صفوان، کنازہ اور
یزید بن معتب وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

وفات :- ۵۷ھ میں جب کہ آپ کی عمر ۶۰ سال کی تھی

وفات پائی۔ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ وفات سے قبل وصیت کی
تھی کہ میری متروکہ املاک کا ثلث میرے بھانجے کو دے دیا جائے۔

ابن سعد نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک لاکھ درہم چھوڑے تھے۔
مخالف مذہبی کی وجہ سے لوگوں نے وصیت پوری کرنے میں تامل کیا۔
کیوں کہ حضرت صفیہؓ کا بھانجا یہودی تھا لیکن جب حضرت عائشہؓ نے
کہلا بھیجا کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہؓ کی وصیت پوری کرو تب اس
کی تعمیل ہوئی۔

أم المؤمنین

حضرت میمونہ بنت حارثؓ

نام و نسب آپ کا پہلا نام برہ ہے۔ آنحضرت صلعم کے نکاح میں آنے کے بعد میمونہ نام رکھا گیا آپ ام الفضل لبایۃ الصغریٰ کی بہن تھیں ان کا نسب یہ ہے:-

میمونہ بنت حارث بن حزن بن بکیر بن یزیم بن رویہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ۔ مال کا نام ہند تھا جن کا سلسلہ نسب یہ ہے ہند بنت عوف بن زہیر بن حارث بن جاملہ بن جرثوم۔

نکاح :- پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمر ثقفی سے ہوا یہ

روایت طبقات و ذرقاتی و دیگر کتب سیر میں پائی جاتی ہے لیکن صاحب اصابہ نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے پہلے شوہر کون تھے۔ اجمالاً یہ لکھ دیا ہے کہ نبی صلعم سے قبل ابورہم بن عبدالعزیٰ کی زوجیت میں تھیں پھر حال مسعود بن عمر سے طلاق ہو جانے کے بعد ابورہم بن عبدالعزیٰ سے نکاح ہوا۔ جب شہدہ میں ابورہم نے وفات پائی تو رسول اللہ صلعم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا یہ آنحضرت صلعم کی آخری بیوی تھیں یعنی ان کے بعد پھر کسی سے رسول صلعم نے نکاح نہیں کیا۔

یہ نکاح حضرت عباس بن عبدالمطلب کی ولایت میں ہوا آنحضرت صلعم جب ذیقعد کے مہینہ میں عمرہ کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے تو جعفر بن ابی طالب کو حضرت میمونہ کے پاس نکاح کا پیغام دیکر بھیجا انہوں نے

حضرت عباس بن عبدالمطلب کو وکیل بنایا۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ خود حضرت عباس نے آپ حضرت صلعم کو ان سے نکاح کرنے پر آمادہ کیا غرض اسی احرام کی حالت میں عمرہ کی نیت سے آپ باندھے ہوئے تھے۔ سوال سہمہ میں بعوض .. ۵ درہم حضرت میمونہ سے نکاح ہوا جب آپ عمرہ سے فارغ ہو کر مدینہ تشریف لانے لگے تو مقام سرف میں جو مدینہ کی راہ میں مکہ سے دس میل کے فاصلہ پر واقع ہے قیام فرمایا۔ رجم عروسی ادا ہوئی اور ارفع آنحضرت صلعم کے خادم حضرت میمونہ کو ہمیں لے آئے تھے۔ حضرت عائشہؓ کا ارشاد ہے۔

اخلاق و عبادات " میمونہ ہم میں سب سے زیادہ خدا سے

ڈرنے والی اور صلہ رحم کا خیال رکھنے والی تھیں۔ "

آپ نہایت صحیح العقیدہ اور راسخ الخیال بیوی تھیں۔ ایک عورت نے بیماری کی حالت میں منت مانی تھی کہ شفا ہوگئی تو بیت المقدس جا کر نماز پڑھوں گی۔ اللہ نے اس کو شفا دی اور وہ منت پوری کرنے کے لئے حضرت میمونہؓ سے رخصت ہونے آئی کہ ان سے مل کر روانہ ہو حضرت میمونہؓ نے اس کو سمجھایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مسجدوں میں نماز پڑھنے کے ثواب سے ہزار گنا زیادہ ہے تم یہیں رہو اور مسجد نبوی میں نماز پڑھ لو۔

کبھی کبھی قرض لیتی تھیں۔ ایک مرتبہ زیادہ لے لیا تو کسی نے پوچھا

اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی۔ فرمایا آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے خدا اس کا قرض خود ادا کر دیتا ہے۔ اور امر و نواہی کا بہت خیال رکھتی تھیں اور اس بارہ میں بہت سخت

تھیں ایک دفعہ ان کا ایک رشتہ دار ان کے پاس آیا اس کے منہ سے شراب کی بو آرہی تھی انہوں نے اس کو بہت سختی سے جھڑک دیا اور کہہ دیا کہ آئندہ کبھی میرے ہاں نہ آنا۔

ان کی ایک کنیز حضرت ابن عباس کے گھر گئی تو میاں بیوی کے پچھونے دور دور بچھے ہوئے دیکھے سمجھی کہ کچھ رنجش ہو گئی ہے مگر پوچھا معلوم ہوا کہ ابن عباس نسوانی امراض کی حالت میں بسترالگ کر لیتے ہیں جب حضرت میمونہؓ کو یہ خبر پہنچی تو بولیں ان سے جا کر کہو کہ رسول اللہ ﷺ کے طریقہ سے اس قدر کیوں اعراض ہے آپ تو برابر ہم لوگوں کے پچھونے پر آرام فرماتے تھے۔

ان کی مرویہ حدیثیں ۴۶ ہیں اور بقول بعض ۷۶ ان میں سے ۷ متفق علیہ

قضائل و کمالات

ایک فرد بخاری ۵ فرد مسلم باقی اور کتابوں میں ہیں۔ بعض احادیث سے ان کے تفقہ کا پتا چلتا ہے۔

مثلاً ایک روایت پر اکتفا کی جاتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابن عباسؓ پر آگندہ مو آئے تو بولیں اس کا کیب سبب ہے جواب دیا ام عمار (ان کی بیوی) نسوانی امراض میں مبتلا ہے وہی میرے کنگھا کرتی ہیں۔ بولیں کیا خوب آنحضرت صلعم ہماری گود میں مہر رکھ کر لیٹے اور قرآن پڑھتے تھے اور ہم اسی حالت میں چٹائی اٹھا کر مسجد میں رکھ آتے تھے۔ بیٹا کہیں ہاتھ میں کبھی مرض ہوتا ہے۔

جن حضرات نے حضرت میمونہؓ سے حدیث کی روایت کی ہے ان

نام یہ ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ، عبداللہ بن شداد بن الہاد، عبدالرحمن

السائب، یزید بن اہم (یہ سب ان کے بھانجے تھے) عبید اللہ الخولانی (اُبیہ)
ندیہ (کنیز) عطاء بن یسار سحان بن یسار (غلام) ابراہیم بن عبداللہ بن سعید
بن عباس کریب (ابن عباس کے غلام) عبیدہ بن بساق، عبید اللہ بن عبداللہ
بن عتبہ، عالیہ بنت سلیم۔

وفات :- ان کے سوانح زندگی میں یہ واقعہ بھی یاد گا
ہے کہ جس مقام پر رسم عروسی ادا ہوئی وہیں آپ کی وفات بھی آئی۔ یعنی
سرف جو ایک وقت ان کی شادی کا منظر تھا آخر میں وہی مدفن قرار
پایا ۵۱ سال وفات ہے حضرت ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی
جس وقت نعش اٹھائی جانے لگی تو حضرت ابن عباس نے کہا یہ رسول اللہ
صلعم کی بیوی ہیں جنازہ کو زیادہ حرکت نہ دو یہ ادب آہستہ لے چلو۔
جس طرح سب سے آخر میں ان کا نکاح ہوا تھا اسی طرح آنحضرت
صلعم کی ازواج میں آپ کی وفات بھی سب کے بعد ہوئی۔

(اسد الغابہ والصحابیات)

حضرت ریحانہ بنت تمیمون

نام و نسب :- آپ کا تعلق یہودیوں کے مشہور قبیلہ
بنی نضیر سے تھا آپ کا نسب یہ ہے ریحانہ بنت تمیمون بن زید اور
بقول بعض ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خناتہ بن تمیمون بن زید۔
نکاح :- پہلے نبی کریم کے ایک شخص حکم سے آپ
کا نکاح ہوا جب مسلمان قریبہ پر غالب آئے اور ان کے اموال و املاک
پر قبضہ آگیا تو مال قیمت کے ساتھ بزمرة بہران جنگ حضرت ریحانہ

بھی آئیں۔ چند روز تک یہ المنذر بنت قیس کے گھر ٹھیرائی گئیں اور مال غنیمت کی تقسیم اور قیدیوں کا فیصلہ ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلعم تشریف لائے اور ریحانہ سے فرمایا تم اگر اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرو تو میں تم کو اپنے لئے مناسب سمجھتا ہوں۔ ریحانہ نے منظور کیا۔ پھر آنحضرت صلعم نے ان کو آزاد کر کے بارہ اوقیہ ایک نعش ہر دے کر نکاح کر لیا جو اور ازواج کا ہر تھا اور ام المنذر کے گھر رخصت کرا لائے۔

آنحضرت صلعم کو حضرت ریحانہ سے بڑی محبت تھی۔ اور آپ ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ابن سعد کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ ریحانہ آنحضرت صلعم کے حصہ میں آگئیں تو آپ نے ان کو اختیار دیا کہ خواہ مسلمان ہو جائیں خواہ اپنے مذہب پر قائم رہیں ریحانہ نے کہا کہ میں اپنے مذہب پر قائم رہوں گی اس پر رسول اللہ کو قلق ہوا اور دوبارہ فرمایا اگر مسلمان ہو گئی تو میں تجھ کو اپنے پاس رکھوں گا مگر وہ ابھی راضی نہ ہوئیں یہ بات آپ کو زیادہ گراں گزری۔ ایک دن سر مجلس آپ تشریف رکھتے تھے یکا یک کسی کے پاؤں کی چاپ سنائی دی تو فرمایا یہ ثعلبہ بن شعبہ ہے مجھے ریحانہ کے اسلام کی بشارت دینے آتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا اور رسول اللہ صلعم نے ریحانہ کو بطور ملک اپنے پاس رکھا نکاح نہیں کیا۔

اور واقعہ بھی یہی ہے کہ اس نکاح میں اختلاف ہے صرف ابن سعد نے متعدد طریقوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آنحضرت صلعم نے ریحانہ کو آزاد کر کے نکاح میں لیا ان پر پردہ عائد کیا اور بیویوں کی طرح رکھا عاقظ ابن حجر کا رجحان بھی اسی طرف ہے سوائے ان دو مورخوں کے دیگر ارباب سیر بالاتفاق حضرت ریحانہ کا وہی رتبہ سمجھتے ہیں جو ماریہ قبطیہ

ہے یعنی یہ کہ وہ آنحضرت صلعم کی خادمہ تھیں بیوی نہ تھیں۔
 ریحانہ بروایت ابن سعد محرم ۶۰ھ میں آنحضرت صلعم کے نکاح میں
 آئیں اور بروایت ابن اسحاق آپ کی وفات سے دس سال پہلے انتقال کیا۔

— * — (اسد الغابہ تاریخ اسلام مرتبہ محمد عبدالرشید عثمانی
 ص ۹۷۷ طبع انجمن) —

حضرت زینب بنت رسول اللہ صلعم

نام :- زینب نام تھا۔ جناب سرور کائنات خاتم المرسلین امام النبیین
 ل سب سے بڑی صاحبزادی تھیں جو راہ الہی میں شہید ہوئیں آپ کی نسبت
 حضرت عائشہ صدیقہ آنحضرت صلعم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا
 وہ میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستانی گئی۔

آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن
 ہاشم ہیں جنہوں نے تصدیق رسالت میں سب سے پہلے پیش قدمی کی اور
 جن کے فضائل و مناقب اس قدر ہیں کہ اس امت میں آپ کا وہی مرتبہ
 ہے جو امت ماضیہ میں حضرت مریم کا تھا۔

ابو عمرو کا قول ہے کہ یہ سب صاحبزادیوں میں بڑی صاحبزادی ہیں۔ اس
 میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں غلطی پر ہیں اور
 ان کا دعویٰ ناقابل التفات ہے اگر التفات ہے تو اس امر میں کہ اولاد
 رسول اللہ صلعم میں اولاً حضرت زینبؓ پیدا ہوئیں یا حضرت فاطمہؓ علمائے
 نسب کے ایک گروہ کا قول ہے کہ اول حضرت فاطمہؓ پیدا ہوئے ان کے
 بعد حضرت زینبؓ۔

ابن کلبی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت زینبؓ پیدا ہوئیں پھر حضرت فاطمہؓ۔

بہر حال حضرت زینبؓ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی تھیں۔

بعثت سے دس سال قبل پیدا ہوئیں اس وقت

ولادت

آنحضرت صلعم کی عمر تیس سال کی تھی حضرت زینبؓ

کے حالات عہد طفولیت کے پردہ حفاہ میں ہیں۔ کتب تاریخ سے کہیں

نہیں ملتا اس لئے آپ کا حال زمانہ شادی سے قلمبند کیا جاتا ہے۔

آنحضرت صلعم کی صاحبزادیوں میں سب سے پہلے

نکاح

حضرت زینبؓ کی شادی کسی میں قبل نبوت

آپ کے حقیقی عمالہ زاد بھائی ابوالعاص (ملقب بہ لقیط) بن ربیع بن عبد

بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی کے ساتھ ہوئی۔ جو حضرت خدیجہ کی

بہن ہالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔

حضرت زینبؓ کے جنیر میں مجدد دیگر سامان کے عقیق بینی کا ایک

ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہؓ نے دیا تھا۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز

اسلام

ہوئے تو حضرت زینبؓ بھی اسلام لے آئیں

حضرت زینبؓ نے اپنے شوہر ابوالعاص کے اسم

ہجرت

نہ لانے سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور ان کو وہیں شرک کی حالت

میں مکہ میں چھوڑ دیا۔

آنحضرت صلعم حضرت زینبؓ اور حضرت ابوالعاص

عام حالات

کے باہمی تعلقات ارتباط اور شریفانہ طرز

کی اکثر تعریف فرمایا کرتے تھے۔

چونکہ ابوالعاص شرک میں مبتلا تھے اور اسلام کا حکم یہی ہونا چاہیے

تھا کہ زوجین میں تفریق کر دی جائے۔ لیکن آنحضرت صلعم اس وقت مکہ میں مغلوب تھے اور کوئی اسلامی قوت نہ تھی، کفار کی ایذا رسانی کا بازار گرم تھا۔ اشاعتِ اسلام کیلئے قوت پہلا زینہ تھا اس لئے آنحضرت صلعم نے مصالحتاً زوجین میں تفریق نہ فرمائی۔

اشاعتِ اسلام کے ساتھ کفار کی مخالفت بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی آنحضرت صلعم کو تکلیف دینے کا کوئی طریقہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے اختیار نہ کیا ہو قریش کے چند لوگوں نے ابوالعاص کو مجبور کیا کہ وہ حضرت زینبؓ کو طلاق دیدیں اور بجائے ان کے قریش کی کسی لڑکی سے نکاح کر لیں لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا یہی وجہ تھی کہ آنحضرت صلعم ان کی قرابت کو اچھا سمجھتے تھے اور تعریف کرتے تھے۔

حضرت زینبؓ کو بھی ابوالعاص سے بہت محبت تھی حضرت زینبؓ کی محبت و اختیار کا حال ذیل کے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے۔

نبوت کے تیرہویں سال جب آنحضرت صلعم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو حضرت زینبؓ اپنے سسرال میں تھیں اور ابوالعاصؓ مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر میں شریک تھے۔ عبداللہ بن جبیر بن نعمان نے دوسرے قیدیوں کے ساتھ ابوالعاص کو بھی گرفتار کیا اس گرفتاری کی خبر اہل مکہ کو پہنچی تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا حضرت زینبؓ نے بھی اپنے دیور عمرو بن زینح کو وہ ہار (جو آپ کی والدہ حضرت خدیجہؓ نے حمیر میں دیا تھا) دے کر روانہ کیا۔ رسول اللہ صلعم کی خدمت میں وہ ہار پیش کیا گیا آنحضرت صلعم اس کو دیکھ کر منگوم و مخزون ہوئے اور ہار کو دیکھ کر حضرت خدیجہؓ کی یاد تازہ ہو گئی پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب

کرنے فرمایا کہ اگر تم لوگ مناسب خیال کرو تو زینبؓ کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو چنانچہ وہ رہا کر دیئے گئے اور ہار بھی واپس کر دیا گیا۔

چونکہ سب قیدی فدیہ لیکر چھوڑے گئے تھے اور یہ شان نبوت کے خلاف تھا کہ ابوالعاص صرف آنحضرت صلعم کے داماد ہونے کی حیثیت سے بغیر کسی فدیہ کے چھوڑ دیئے جاتے اس لئے ابوالعاص کا فدیہ یہ قرار پایا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینبؓ کو مدینہ منورہ بھیج دیں۔

حضرت زینبؓ کے لانے کے لئے ابوالعاص کے ہمراہ حضرت زینبؓ بن حارثہ کو بھی روانہ کیا اور ہدایت کی کہ تم بطن یاجج میں ٹھہر کر منتظر رہو جب حضرت زینبؓ وہاں آجائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ پہنچانا۔ ابوالعاص نے مکہ پہنچ کر حضرت زینبؓ کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ کے ساتھ مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی۔

حضرت زینبؓ جب سامان سفر کی تیاری میں مشغول تھیں تو ہند بن عتبہ آپ کے پاس آئیں اور کہا اے بنت محمد کیا تم اپنے باپ کے پاس جا رہی ہو حضرت زینبؓ نے فرمایا کہ فی الحال تو ایسا ارادہ نہیں ہے آگے جو خدا کو منظور ہو ہند نے کہا بہن اس پوشیدگی کی کیا ضرورت ہے اگر واقعی جا رہی ہو اور کچھ زادراہ وغیرہ کی ضرورت ہے تو بے تکلف کہہ دو میں خدمت کے لئے حاضر ہوں۔

ابھی طبقہ نسواں میں عداوت کا وہ زہر پلا اثر نہیں پیدا ہوا تھا جو مردوں میں سرایت کر چکا تھا اس لئے حضرت زینبؓ فرماتی ہیں کہ بہن جو کچھ کہہ رہی تھیں وہ سچے دل سے کہہ رہی تھیں یعنی اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت

ہوتی تو وہ غالباً ضرور پورا کرتیں لیکن وقت کی مصلحت سے انکار کر دیا۔
 غرض جب سامان سفر سے فراغت ہو گئی تو اپنے دیور کنانہ بن ریح
 کے ساتھ ادنٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ چونکہ کفار کا غلبہ تھا اور ان کے
 تعرض کا خوف تھا اس لئے آپ کے دیور کنانہ اپنے ساتھ ترکش اور کمان
 وغیرہ بھی رکھ لیا جب وہ لوگ روانہ ہوئے تو قریش میں کھلبلی مچ گئی اور
 گرفتاری کی فکر کی گئی۔ چنانچہ قریش کی ایک جماعت ان کی جستجو میں نکلی اور
 مقام ذی طوی میں ان دونوں کو گھیر لیا۔ اس جماعت میں ہبار بن اسود
 یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی کے رط کے تھے اور اس رشتہ سے حضرت
 زینب کے بھائی تھے ان کی اس بجا حرکت پر فتح مکہ کے دن آنحضرت صلعم
 نے ان کے قتل کی اجازت دے دی تھی لیکن انہوں نے اپنی تقصیر کی معافی
 چاہی اور مشرف بہ اسلام ہوئے (اصابہ حالات ہبار بن اسود) اور ان کے
 ساتھ ایک اور دوسرا شخص بھی تھا ان دونوں میں سے کسی ایک نے نیزہ
 سے حضرت زینب پر حملہ کیا وہ اونٹ سے زمین پر گر پڑیں وہ حاملہ تھیں
 حمل ساقط ہو گیا چوٹ بہت زیادہ آئی اس پر کنانہ نے ترکش سے تیر
 نکالا اور کہا اب جو کوئی میرے قریب آئے گا وہ ان تیروں کا نشانہ بنے گا۔
 لوگ منتشر ہو گئے ابوسفیان سرداران قریش آگے بڑھا اور کہا
 کہ تم اپنے تیروں کو تھوڑی دیر روکے رکھو کہ ہم تم سے کچھ باتیں کر لیں۔
 کنانہ نے اپنے تیر ترکش میں رکھ لئے اور ان سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو جو کچھ
 کہنا ہو کہو ابوسفیان نے کہا محمد کے ہاتھوں جو مصیبتیں اور تکلیفیں شکست
 رسوائی اور ذلت کی صورت میں ہم لوگوں کو پہنچیں ہیں اس سے تم بے خبر
 نہیں ہو اب اگر تم محمد صلعم کی بیٹی کو علانیہ ہمارے سامنے سے لے جاؤ گے تو

لوگ اسے ہماری کمزوری اور بزدلی پر محمول کریں گے اور ہمارے ضعف و
 ادبار کا پیش خمیہ خیال کریں گے یہ تو تم خود خیال کر سکتے ہو کہ ہمیں محمد مصلم کی
 بیٹی کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت تم
 لوٹ چلو جب ہنگامہ فرد ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ محمد مصلم
 کی بیٹی کو واپس لے آئے تو تم چوری چھپے دوسرے وقت ان کو لے جانا
 کسانہ نے اس بات کو منظور کیا اور وہ واپس آگئے جب یہ واقعہ عام طور
 سے مشہور ہو گیا تو ایک روز مخفی طور سے ان کو لے کر روانہ ہو گئے اور بطن
 یاجج میں حضرت زید بن عارثہ کے سپرد کر کے واپس چلے آئے جو حضرت
 زینبؓ کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔

چونکہ ابوالعاص کو بھی حضرت زینبؓ سے بہت محبت تھی اور ان دونوں
 کے تعلقات اتحاد و ارتباط بہت خوش گوار تھے اس لئے حضرت زینبؓ
 جب مدینہ منورہ تشریف لے گئیں تو ابوالعاص بہت منہموم رہنے لگے ایک
 مرتبہ شام کے سفر میں حضرت زینبؓ بہت یاد آئیں تو انہوں نے یہ دو
 شعر پڑھے۔

”جب کہ میں موضع ارم سے گزرا تو زینبؓ کو یاد کیا اور (میاختہ)
 یہ دعا دی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تروتازہ رکھے جو حرم میں
 سکونت پذیر ہے امین (محمد مصلم) کی لڑکی کو خدائے تعالیٰ
 جزائے نیک دے اور ہر شوہر سی بات کی تعریف کرتا ہے جس
 کو وہ خوب جانتا ہے۔“

ابوالعاص تجارتی تجربہ اور امانت داری کے لحاظ سے بہت
 مشہور تھے اہل قریش اپنا تجارتی مال ان کے ساتھ فروخت کر لے کے

نے بیچ دیا کرتے تھے۔ جمادی الاول ۱۰۰ھ میں ابوالعاص قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو آنحضرت صلعم کو خبر ہوئی آنحضرت نے زید بن حارثہ کو مع ایک سوستر سوار کے تعاقب کے لئے روانہ فرمایا چنانچہ مقام عیص میں دونوں قافلے ایک دوسرے سے سرسری پکار ہوئے سواران اسلام نے مشرکین کو گرفتار کیا اور جو کچھ مال ان کے پاس تھا اس پر قبضہ کیا لیکن ابوالعاص سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی گئی۔

ابوالعاص نے جب قافلہ کا یہ حشر دیکھا تو فوراً مدینہ منورہ گئے اور وہاں پہنچ کر حضرت زینب سے پناہ طلب کی چنانچہ حضرت زینب نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا آنحضرت صلعم نماز فجر میں مشغول تھے حضرت زینب نے باواز بلند فرمایا انی قط اجدت ابالعاص یعنی میں نے ابوالعاص کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ جب آنحضرت صلعم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے لوگو تم نے کچھ سنا۔ سب نے عرض کیا جی ہاں سنا آپ نے فرمایا مجھے اس قبل اس واقعہ کی کچھ اطلاع نہ تھی کیا عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے کمزور لوگ دشمنوں کو پناہ دیتے ہیں۔

جب آنحضرت صلعم گھر میں تشریف لائے تو حضرت زینب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا ابوالعاص کا جو کچھ مال و متاع لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے چنانچہ آنحضرت صلعم نے اہل سریرہ کے پاس کہلا بھیجا کہ تم میرے اور ابوالعاص کے رشتہ سے واقف ہو اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے اور اس کا مال و متاع واپس کر دو گے تو میری خوشی کا باعث ہو گا ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ سب نے کہا ہم کل چیزیں واپس کرنے

کے لئے حاضر ہیں۔ چنانچہ سب چیزیں واپس کر دی گئیں اور یہ حکم اہل سرہ کو بھیجا اور ادھر اپنی بیٹی زینب سے یہ فرمایا کہ تم ابو العاص کی خاطر مدارات اعزاز و احترام میں کوئی کمی نہ کرنا لیکن جب تک وہ مشرک ہیں ان کی قربت سے احتراز کرنا کیونکہ اسلام و کفر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔

اس روایت سے پہلی روایت عدم تفریق زوجین کی بظاہر تردید ہوتی ہے لیکن حقیقتاً چونکہ اب اسلام کی قوت بڑھ گئی تھی اور دشمنوں کا مقابلہ آسانی سے ہو سکتا تھا اس لئے اب کوئی وجہ نہ تھی کہ آنحضرت صلعم ایسا حکم نہ دیتے چونکہ وہ وقت حقیقتاً بہت نازک تھا اس لئے اس وقت تفریق نہیں کی گئی۔

اس کے بعد ابو العاص اپنا مال و اسباب لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے مکہ پہنچ کر جس جس کا جو کچھ لینا دینا تھا لے دے کر حساب صاف کیا اور ایک روز قریش کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اہل قریش اب میرے ذمہ کسی کا کوئی مطالبہ باقی نہیں ہے۔ اہل قریش نے کہا ہاں بے شک اب کوئی مطالبہ نہیں ہے اور خدا تم کو جزائے نیک دے تم ایک با وفا اور کریم النفس شخص ہو۔ ابو العاص نے کہا ہاں سن لو میں اب مسلمان ہوتا ہوں اور یہ کہہ کر کلمہ پڑھا اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اسلام لانے سے صرف یہ امر مانع تھا کہ تم لوگ یہ خیال نہ کر لو کہ میں تمہارے مال کو غنیمت کر چکا ہوں اس لئے مسلمان ہو گیا ہوں اب جب کہ خدا نے مجھے اس بارگراں سے بخیر و خوبی سبکدوش کر دیا تو اب کوئی امر مانع نہیں کہ میں اسلام قبول نہ کر لوں یہ واقعہ محرم شہ کا ہے اس کے بعد حضرت ابو العاص مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

جب حضرت ابوالعاصؓ مشرف باسلام ہو کر مدینہ منورہ پہنچے تو آنحضرت
صلعم نے حضرت زینبؓ کو بعقد اول ان کی طرف رجوع کر دیا یعنی تجدید نکاح
نے کی۔ بلکہ وہی پہلا نکاح قائم رکھا اس وقت سورہ ہرات نازل نہیں ہوئی
تھی مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کے پاس اسلام لانے کے بعد بلا تجدید
نکاح ان کی زوجیت میں آجایا کرتی تھیں۔

حضرت زینبؓ اپنے والد رسول اللہ صلعم اور حضرت ابوالعاص سے
بہت محبت رکھتی تھیں قیمتی کپڑے پہننے کی شائق تھیں حضرت انس نے آپ
کو ریشمی چادر اڑھے دیکھا ہے جس پر زرد رنگ کی دھاریاں تھیں۔

اولاد حضرت ابوالعاص کے عیال سے حضرت زینبؓ کی

دو اولادیں پیدا ہوئیں ایک فرزند علی اور ایک دختر امامہ علیؓ ہجرت کے قبل
پیدا ہوئے آنحضرت صلعم نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا اور وہ آپ کے
سایہ عاطفت میں تربیت حاصل کرتے رہے۔ فتح مکہ کے روز جب
آنحضرت صلعم مکہ میں داخل ہوئے تو علی آپ کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے۔
سن بلوغ کو پہنچ کر اپنے والد ابوالعاص کی زندگی میں انتقال کیا لیکن ابن عباس کی
ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علی جنگ یرموک تک زندہ رہے اسی جنگ
میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔

حضرت زینبؓ کی صاحبزادی امامہ اس کے بعد تک زندہ رہیں حضرت علیؓ
کی بیوی فاطمہؓ کے انتقال کے بعد حضرت علیؓ کا عقد ثانی حضرت امامہ سے ہوا۔
وفات حضرت زینبؓ حضرت ابوالعاص کے اسلام لانے کے

بعد تقریباً سال سوا سال زندہ رہیں۔ رسول اللہ صلعم کی جیات مبارک
میں شہدہ میں رہ گئے فردوس ہوئیں۔ حضرت زینبؓ کی وفات کا حال

استیجاب میں یہ لکھا ہے۔

یعنی جب حضرت زینبؓ مکہ سے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں آنے لگیں تو راستہ میں مہار بن اسود اور ایک دوسرے شخص نے آپ پر حملہ کیا ان دونوں میں سے کسی ایک نے نیزہ حضرت زینبؓ کے مار دیا وہ اونٹ سے گر پڑیں حمل ساقط ہو گیا اور بہت خون نکلا عرصہ تک اسی مرض میں بیمار رہیں حتیٰ کہ ۸۷ھ میں انتقال کر گئیں۔

حضرت ام امینؓ حضرت سودہؓ حضرت ام سلمہؓ اور ام عطیہؓ غسل میں شریک تھیں انہی لوگوں نے غسل دیا آنحضرت صلعم خود قبر میں اترے اور اپنی نور ویدہ کو سپرد خاک فرما دیا اس وقت آنحضرت صلعم کے چہرہ مبارک پر رنج و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ آنحضرت صلعم نے حضرت زینبؓ اور آپ کے ضعف کو یاد کیا تو خدا تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے خدا تو زینبؓ کی مشکلات کو آسان کر دے اور اس کی قبر کی تنگی کو کشادگی سے بدل دے۔ حضرت ام عطیہؓ کہتی ہیں کہ میں زینبؓ بنت رسول اللہ صلعم کے غسل میں شریک تھی غسل کا طریقہ آنحضرت صلعم خود بتلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا پہلے ہر عضو کو تین بار یا پانچ بار غسل دو اور اس کے بعد کافور لگا دو۔

ایک روایت میں سات بار بھی غسل دینا آیا ہے مقصود یہ تھا کہ اگر طہارت تین مرتبہ میں ہو جائے تو زیادہ غسل کی ضرورت نہیں اسی قدر کافی ہے ورنہ اگر ضرورت ہو تو بڑھا دیا جائے تاکہ اچھی طرح طہارت ہو جائے آنحضرت صلعم نے حضرت ام عطیہؓ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے خبر کر دینا چنانچہ جب وہ فارغ ہو گئیں تو آنحضرت کو مطلع کیا تو آپ نے اپنا ہتھ بند عنایت فرمایا اور فرمایا اس کو کفن کے اندر پہنا دو۔

حضرت زینبؓ کے انتقال کے تھوڑے دن بعد حضرت ابوالعاص کا بھی انتقال ہو گیا۔
(اسد الغابہ والصحایا ت سیرت النبی ج ۲ ص ۴۲۲)

حضرت سیدہ رقیہؓ

حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ بطن حضرت خدیجہ الکبریٰ سے
سے تھیں آپ کی ولادت ۳۳ قبل نبوت ہوئی۔ عقبہ بن ابولہب سے
عقد ہوا مگر اس سے قطع تعلق ہو گیا تو حضور صلعم نے جناب عثمان غنیؓ
سے نکاح کر دیا۔ آپ افضل ترین خاتون تھیں آپ کے حالات حضرت
ام کلثوم کے ساتھ ہی بیان کئے گئے ہیں ۲ ص ۴۲۳ میں آپ نے انتقال کیا۔
(الصحایا ت و سیرت النبی ج ۲ ص ۴۲۳)

حضرت سیدہ

ام کلثوم بنت رسول اللہ صلعم

نام :- ام کلثوم نام ہے۔ آپ حضرت رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہؓ
بنت خویلد بن اسد بن عبدالمعزی بن قصی تھیں۔

زیر کتبے ہیں۔ حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہؓ سے
بڑی تھیں۔ دیگر ارباب سیر نے زیر کے اس قول کی مخالفت کی ہے لیکن
صحیح اور قابل وثوق یہی ہے کہ حضرت رقیہؓ سے چھوٹی تھیں اور جب حضرت
رقیہؓ کا انتقال ہو گیا تو حضرت رسول اللہ صلعم نے حضرت ام کلثومؓ کو
حضرت عثمانؓ سے بیاہ دیا۔

اگر حضرت ام کلثومؓ حضرت رقیہؓ سے بڑی ہوتیں تو بالضرور پہلے

حضرت ام کلثومؓ کا عقد حضرت عثمانؓ سے ہوتا ہے کہ حضرت رقیہؓ کا اور یہی
اقتضائے فطرت و تمدن ہے کہ پہلے بڑی بڑکی کی فکر عقد سے فراغت
حاصل کی جائے غالباً ارباب سیر نے زبیر کے قول کی تردید اسی قول سے
کی ہوگی۔

ولادت :- آپ کا سال ولادت کتب تواریخ و سیر میں مذکور
نہیں لیکن اقتضائے قیاس یہ ہے کہ چھ سال قبل بعثت ولادت ہوئی ہوگی
اس لئے کہ حضرت رقیہؓ کی ولادت سات سال قبل ہوئی اور حضرت
فاطمہؓ کی ولادت پانچ سال قبل ہے اور جب یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ حضرت
رقیہؓ سے حضرت کلثومؓ چھوٹی اور حضرت فاطمہؓ سے بڑی تھیں تو لامحالہ
ان دونوں کی ولادت کے درمیان کا زمانہ ان کی ولادت کے لئے تسلیم
کرنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے وہ چھ سال قبل نبوت پیدا ہوئیں۔

نکاح :- آپ کے حالات طفولیت بھی غیر معلوم ہیں کیونکہ
وہ ایسا پُر آشوب زمانہ تھا کیونکہ اس وقت کسی کے سوانح کا ضبط کرنا
بہت دشوار تھا اس لئے زمانہ شادی سے آپ کا حال لکھا جاتا ہے۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہؓ کا عقد ابو لہب
کے ایک بیٹے عتہ سے اور حضرت ام کلثومؓ کا عقد ابو لہب کے دوسرے
بیٹے عتیبہ سے قبل بعثت کر دیا تھا۔ لیکن جب آنحضرت صلعم رقبہ رسالت
پر فائز ہوئے اور سورہ بنت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے
ہر ایک بیٹے کو مخاطب کر کے کہا۔

”یعنی میری زندگی اور میرا اثنا بیٹھنا تم لوگوں میں حرام ہے اگر تم
نے اس کی رسول اللہ کی بڑکی کو طلاق نہ دے دی“

(جیسا کہ حضرت رقیہ کے حال میں لکھ چکے ہیں کہ عتبہ نے حضرت رقیہ سے قطع تعلق کر لیا) (اسی طرح) عتبہ نے بھی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل میں حضرت ام کلثومؓ کو طلاق دے دی۔ اس لحاظ سے دونوں کی طلاق کا زمانہ اور سبب ایک ہی ہے۔ اس طلاق میں ابو لہب کی بیوی ام حبیل (حالیۃ الخطب) نے بھی اپنے شوہر کے قول کی تائید کی تھی۔ لیکن دونوں بہنوں کی رخصتی ابھی تک نہ ہوئی تھی کہ یہ طلاق وقوع میں آئی۔

جب ۲ھ میں حضرت رقیہؓ کا انتقال ہو گیا اور حضرت عثمانؓ نے اس وفات کے بعد بہت زیادہ گمخوم و محزون رہنے لگے تو آنحضرت صلعم نے حضرت عثمانؓ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ اے عثمانؓ میں تم کو غم و الم میں مبتلا پاتا ہوں اس کا کیا سبب ہے حضرت عثمانؓ نے عرض کیا یا حضرت عثمانؓ پریشان نہ ہوں تو کیا کروں مجھ پر وہ مصیبت پڑی جو کبھی کسی پر نہ پڑی ہوگی۔ حضورؐ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات سے میری مکر ٹوٹ گئی حضورؐ سے جو رشتہ قرابت و بستہ تھا منقطع ہو گیا اب کیا چارہ ہے۔ ابھی ان کی گفتگو ختم نہ ہوئے پائی تھی کہ رسول اللہ صلعم نے فرمایا مجھے جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ حکم پہنچایا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثومؓ کو اسی بہر پر جو رقیہ کا تھا تمہارے عقد میں دے دوں۔ چنانچہ آنحضرت صلعم نے ربیع الاول ۳ھ میں حضرت ام کلثومؓ کا عقد حضرت عثمانؓ سے کر دیا۔

رخصتی :- نکاح کے دو مہینے بعد جمادی الآخر ۳ھ میں رخصتی عمل میں آئی۔

اولاد :- آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

حضرت ام کلثوم اپنی والدہ حضرت خدیجہ کے
ساتھ اسلام لائیں اور بہنوں کے ساتھ اس
دقت بیعت کی جب اور عورتیں آنحضرت صلعم کے شرف بیعت سے بہرہ
اندوز ہوئیں۔

اسلام

جب آنحضرت صلعم مدینہ کی طرف ہجرت فرما
تشریف لے گئے تو اہل و عیال کو مکہ میں چھوڑ
گئے تھے۔ جب مکہ کی حالت زیادہ نازک ہو گئی اور حضرت سوہہ رضی
حضرت فاطمہؓ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگیں تو حضرت ام کلثوم
بھی ان کے ہمراہ ہجرت کر کے چلی گئیں

ہجرت

انس بن مالک سے مروی ہے کہ آنحضرت
صلعم کو حضرت ام کلثومؓ کی وفات سے
سخت صدمہ پہنچا تھا آپ قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے
آنسو بہ رہے تھے۔

عام حالات

ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت رقیہؓ کا انتقال
ہو گیا تو حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت عثمانؓ سے کہا تم میری بیٹی حفصہ
سے عقد کرو لیکن حضرت عثمانؓ نے تامل کیا اور کوئی جواب نہیں دیا اور
لئے کہ وہ سن چکے تھے کہ آنحضرت صلعم کا حضرت حفصہؓ سے عقد کرنے کا
خیال ہے جب رسول اللہ صلعم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عمر رضی
فرمایا کیا میں حفصہؓ کے لئے عثمانؓ سے بہتر شوہر اور عثمانؓ کے لئے حفصہؓ
سے بہتر زوجہ تلاش کر دوں پھر آپ نے حضرت حفصہؓ کو اپنے نکاح میں
لیا اور حضرت عثمانؓ کا عقد حضرت ام کلثومؓ سے کر دیا۔

حضرت ام کلثومؓ کے انتقال کے بعد آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ اگر میری
دس لڑکیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے حضرت عثمانؓ ہی کے رشتہ تزویج میں
منسلک کرتا۔

دوسری روایت میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا اگر میری سو
لڑکیاں ہوتیں تو میں سب لڑکیاں یکے بعد دیگرے (ہر ایک لڑکی کے
انتقال کے بعد) حضرت عثمانؓ کے عقد میں دیتا۔

وفات :- آخر وقت تک مدینہ منورہ میں آپ کا قیام
رہا اور شادی کے پانچ سال گزرنے کے بعد شعبان ۹ھ میں آپ نے
انتقال فرمایا۔

انصار کی عورتوں نے آپ کو غسل دیا اس میں ام عطیہؓ بھی تھیں۔ ان
حضرت صلعم نے جنازہ کی نماز پڑھائی حضرت ابو طلحہؓ۔ حضرت علی بن طالبؓ
حضرت فضل بن عباسؓ و اسامہ بن زید نے قبر میں اتارا۔

(الصعابیات و سیرت النبی ص ۲۷)

جگر گوشہ رسولؐ

حضرت فاطمہؓ رضی اللہ عنہا

حضرت فاطمہؓ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی اور
سید الشہداء حضرت امام حسینؓ کی والدہ ہیں۔ ان سے بڑی بہنیں اور تھیں۔
زینبؓ، رقیہؓ، ام کلثومؓ۔ جس وقت یہ پیدا ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال سے کچھ زیادہ تھی اور وہ زمانہ تھا کہ قریش کے
لوگ خانہ کعبہ از سر نو بنا رہے تھے اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
(صفحہ ۱۳۰ پر دیکھئے)

نبوت ملتے میں پانچ سال باقی تھے۔ رسول اللہ صلعم جیسے باپ کے سایہ میں اور خدیجہؓ جیسی مہربان اور دانشمند والدہ کی گود میں بہنوں کے ساتھ پرورش پاتی رہیں ان کو پانچواں سال شروع ہوا تھا کہ آنحضرتؐ کی نبوت کا وہ نور خدا نے چمکا دیا جس سے تمام جہاں روشن ہو گیا۔ آپ اپنے کام میں مشغول تھے اور خدائے وحدہ لا شریک نے نام کی منادی کرتے تھے۔ حضرت فاطمہؓ حضرت خدیجہؓ کے پاس رہتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہؓ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر چودہ برس کے قریب تھی اس کے تین برس بعد خدا کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلعم نے اپنے وطن (مکہ شریک) کو چھوڑ دیا جس میں آپ نے عمر شریف کے تقریباً تریسٹین برس گزارے تھے۔

مدینہ منورہ تشریف لا کر اطمینان سے ٹہرنے کے بعد آپ نے اسامہ بن زید اور ابورافع کو بیچ کر سب اہل و عیال کو مکہ سے مدینہ بلا لیا جن میں حضرت فاطمہؓ بھی تھیں۔

۱۔ کعبہ کو حضرت آدمؑ سے پہلے فرشتوں نے بنایا پھر اس کا نشان مٹ گیا تو خدا تعالیٰ کے بتلانے سے آدم علیہ السلام نے بنایا پھر ان کی اولاد مرمت کرتی رہی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان میں غرق ہو گیا اور نشان نہ رہا۔ ابراہیمؑ کے زمانہ میں ان کو خدا نے حکم دیا انہوں نے اپنے بیٹے اسمعیلؑ کو ساتھ لے کر بنایا پھر ہمیشہ لوگ مرمت کرتے رہے آنحضرت صلعم کی نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر پینتیس سال تھی لوگ خوشبو جلا رہے تھے کہ پردوں میں آگ لگ گئی اور کعبہ جل گیا لوگوں نے مال حلال کا چنڈہ جمع کیا اصفانہ کعبہ کو بنایا آنحضرت صلعم بھی اس میں شریک تھے اسی زمانہ میں حضرت فاطمہؓ پیدا ہوئیں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنایا۔ جعفر بن یوسف نے ان کو شہید کر دیا تو خانہ کعبہ کو بھی توڑ کر بنایا جو اب تک موجود ہے۔

شادی

اب حضرت فاطمہؓ کی عمر شادی کے قابل ہو گئی تھی اس لئے آں حضرت صلعم کو خیال تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے ایک مرتبہ اپنی شادی کے لئے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا مگر آپ نے فرما دیا تھا کہ فاطمہؓ ابھی کم عمر ہے بڑی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی اپنے لئے عرض کیا تھا تو ان کو بھی ٹال دیا تھا۔ حضرت علیؓ جو ہمیشہ سے آپ کے ہاں بچوں کی طرح رہتے تھے اور حضرت خدیجہؓ کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کر چکے تھے۔ آپ کے تشریف لانے کے تین روز بعد مدینہ میں آگے تھے۔ ان کی شادی ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ حضرت عمرؓ ہی نے حضرت علیؓ کو مشورہ دیا کہ تم اپنے نکاح کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو۔ میرے اور ابو بکرؓ کے لئے تو آں حضرت صلعم کی رائے نہیں معلوم ہوتی۔ ام ایمنؓ نے بھی یہی کہا کہ تم فاطمہؓ کے لئے ضرور عرض کرو انہوں نے جواب دیا کہ جب آپ نے ابو بکرؓ اور عمرؓ کے رشتہ کو قبول نہیں کیا تو مجھے کیسے قبول کریں گے۔ ام ایمنؓ نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو چچا زاد بھائی ہو اور ابو طالب کے بیٹے ہو تمہارا ضرور خیال کریں گے۔

ان لوگوں کے سمجھانے سے حضرت علیؓ کو بھی مناسب معلوم ہوا کہ اسی ارادہ سے آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے لیکن باوجود نہایت شفیق اور خلیق ہونے کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رعب ایسا تھا کہ آپ خاموش ہوتے تھے تو کوئی بول نہ سکتا تھا۔ حضرت علیؓ نے اپنے مطلب کو دل میں لٹے بیٹھے تھے۔ بار بار ارادہ کرتے تھے کہ عرض کریں مگر ہمت نہ پڑتی تھی تھوڑی دیر کے بعد آنحضرت صلعم نے خود ہی فرمایا کہ اے

علیؑ کیسے بیٹھے ہو کیا کوئی کام ہے؟ یہ اور شرمندہ ہوئے اور خاموش ہو گئے تب تو آپ کی حالت اور قرینے سے ان کا مطلب پہچان گئے اور بہت شفقت سے فرمایا کہ "کیا فاطمہؑ کی نسبت کے خیال سے آئے ہو" انہوں نے عرض کیا کہ بے شک اس لئے حاضر ہوا ہوں تب آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے لیکن یہ بتلاؤ کہ کچھ ہر میں دینے کو بھی ہے یا نہیں انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہیں میرے پاس صرف ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے کی تو تم کو ضرورت زیادہ رہتی ہے البتہ زرہ بیچ ڈالو۔ حضرت علیؑ زرہ کو بیچ کر لے گئے اس رقم میں سے کچھ تھوڑی سی خوشبو حضرت فاطمہؑ کے لئے منگائی گئی۔

آپؑ نے انسؑ سے فرمایا کہ جاؤ ابوبکرؓ، عمرؓ اور طلحہؓ و زبیرؓ اور انصار لوگوں کو بلاؤ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے بہت اچھا خطبہ

انسؑ آنحضرت صلعم کے صحابی اور خادم خاص ہیں نورس کی عمر تھی جیسا کہ خدمت کے لئے ان کی والدہ نے ان کو مقرر کر دیا دس برس خدمت کی آپ کی وفات کے بعد بصرہ میں جا رہے تھے سو برس کے قریب عمر پا کر ۹۹ھ میں وفات پائی حدیث میں ان کے ہزاروں شاگرد ہیں آل حضرت صلعم کی دعا کی برکت سے ان کے ایک سو بیس کے قریب اولاد تھی۔

طلحہؓ اور زبیرؓ وہ مشہور صحابی ہیں جن دس آدمیوں کو آنحضرت صلعم نے جنت میں جانے کی خوشخبری زندگی میں دے دی تھی ان میں دو یہ بھی ہیں دونوں کی عمر ۶۴ سال ہوئی اور ۳۶ھ میں دونوں کی وفات ہوئی تمام جہادوں میں آنحضرت صلعم کے ساتھ رہے۔ اُحد کی لڑائی میں طلحہؓ نے اپنے دونوں ہاتھ چہرہ مبارک کے سلسلے کر کے تیروں گوروں کا جس سے ان کے ہاتھ پھسلنے ہو گئے زبیرؓ آں حضرت صلعم کے چھوٹے زاد بھائی بھی تھے۔

پڑھا جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف اور نکاح کا ذکر تھا خطبہ ختم کر کے آپ نے
 حضرت فاطمہؓ کا نکاح حضرت علیؓ سے کر دیا اور چار سو شتال چاندی ہر مقرر
 فرمایا اور ایک چھو اردوں سے بھرا ہوا طباق لوگوں میں لٹا دیا۔ مدینہ میں آنے
 کے دوسرے سال رمضان المبارک میں یہ مبارک نکاح ہوا۔
 جس گھر میں صبر و شکر ہی کا سہارا ہوا اور ہمینوں چولہے میں آگ نہ جلتی ہو
 وہاں شادی کے لئے کیا سامان ہوتا اور خدا کے جس برگزیدہ نبی نے دنیا کی سیرت
 رُخ ہی نہ کیا ہو اور فقر و فاقہ ہی کو اپنے لئے دولت و عزت سمجھا ہو اس کے
 یہاں بیٹی کے چہرے میں دینے کو کیا ہو سکتا تھا جس نے دین و دنیا کا سردار
 ہو کر بھی اپنی عمر ایک چٹائی پر لیٹ کر گزار دی ہو جس سے اس کے نرم و نازک
 جسم پر نشان پڑ جاتے ہوں جس کی تعلیم یہ ہو کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایک مسافر
 سمجھو۔ وہاں ایسی پیاری بیٹی کے لئے شادی میں کیا زیب و زینت کی جاتی۔
 چہرے کیا تھا ایک چادر ایک تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ دو مشکیزے
 اور چکی۔ حضرت فاطمہؓ کو نبی زادی تھیں لیکن آخر نو عمر تھیں جب انہوں نے
 سنا کہ میرا نکاح اس طرح ہو گیا کہ اور سامان تو کیا ہوتا مہر دینے کے لئے بھی
 خاندان کو زورہ بچھنی پڑی تو رونے لگیں۔ آں حضرت صلعم نے فرمایا بیٹی روتی
 کیوں ہو یہ کسی بڑی بات ہے کہ میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص
 سے کر دی ہے جو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی دنیا میں بے
 سامان رہ کر گزار دو پھر آخرت میں تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو گی۔
 مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن اصلی تو تھا ہی نہیں آپ اور

لے موجودہ سکے کے مطابق ایک سو پچاس روپے ہوتے ہیں۔

آپ کے ساتھ مکہ سے آنے والے لوگ سب مسافر تھے۔ انصار نے جو کچھ مکان دیدیئے تھے یا کسی نے خرید لیا تھا انہی میں رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ابو ایوب انصاری کے مکان میں بٹھرے ہوئے تھے۔ جب حضرت فاطمہؓ نے نکاح ہو گیا تو حضرت علیؓ نے کرایہ پر ایک مکان لے لیا اس میں رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ حارثہ بن نعمان سے فرمادیں تو بہتر ہو ان کے مکان میں ہم کو آرام ملے گا آپ نے فرمایا مجھے ان سے کہتے ہوئے جیا آتی ہے۔ کہیں یہ خبر حارثہ کو بھی پہنچ گئی انہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت جن کے لئے مکان کی ضرورت ہے یعنی فاطمہؓ اور علیؓ وہ مجھ کو اپنی جان سے بھی عزیز ہیں مکان حاضر ہے۔ آپ نے ان کی اس مروت اور ہمت پر وہ فرمائی۔ حارثہ نے اپنا ایک مکان حضرت علیؓ کے لئے خالی کر دیا وہ حضرت فاطمہؓ کو ساتھ لے کر اس میں رہنے لگے۔

آنا مقدور تو اس زمانہ میں اس مبارک اور پاک خاندان کو کہاں تھا کہ گھر کے کام کاج کے لئے کوئی ملازم رکھتے یا لونڈی غلام ہوتے حضرت علیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ پر اپنی والدہ سے (جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھا) کہہ دیا تھا کہ کھانا وغیرہ پکانا اور گھر کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

ابو ایوب انصاریؓ مشہور صحابی ہیں۔ پہلے زمانہ کے عالموں کی اولاد میں سے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آکر ادل انہیں کے مکان میں سات مہینے تک بٹھرے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد یہ حضرت علیؓ کے ہر جگہ ساتھ رہے ایک مرتبہ جہاد میں مسلمان ہو گئے اور وہیں انتقال ہو گیا وہاں ان کی قبر بہت مشہور ہے لہذا مدینہ کے رہنے والے صحابی تھے۔

بیٹی ہی کرتی رہیں گی۔ پانی وغیرہ لانا اور گھر سے باہر کے کام تم کر دینا۔
سننے والوں کو تعجب ہو گا کہ رسول اللہ صلعم کی بیٹی اپنے ہاتھ سے چکی پیستی
تھیں۔ بے شک ان خدا کے خاص بندوں نے اپنی عمر اسی طرح تمام کر دی۔
دنیا کی تکلیفوں کو وہ لوگ چند روزہ خیال کرتے تھے اور یہاں کے عیش و
عشرت کو کبھی خاطر میں نہ لاتے تھے ان کے ایمان میں قوت تھی جن نعمتوں
کا خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا وہ گویا ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے
تھے اور یہ تھوڑے دنوں کی تکلیف انہوں نے ایسی گزار دی جیسے رات
کے انتظار اور افطار کی حوشی میں روزہ دار صبر کے ساتھ روزہ پورا کرتا ہے۔
چکی پیستے پیستے حضرت فاطمہؓ کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور چولہے کی
آغ سے چہرے کی رونق جاتی رہی مگر انہوں نے کبھی اس کا خیال بھی نہ
کیا البتہ حضرت علیؓ کو اس کا بڑا ملال تھا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ لونڈی غلام آئے
اور آنحضرت صلعم اپنے صحابہ کو دیتے تھے۔ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ سے
کہا کہ تم جا کر کہو کہ کوئی لونڈی غلام ہم کو بھی دیجئے کہ کام کاج کی محنت سے
چھوٹ جائیں۔ حضرت فاطمہؓ اسی ارادہ سے آپ کے پاس گئیں مگر آپ اس
وقت مکان پر نہیں تھے۔ حضرت عائشہؓ سے کہہ کر چلی آئیں آپ گھر تشریف
لائے تو حضرت عائشہؓ نے ذکر کیا کہ حضرت فاطمہؓ آئی تھیں انہیں لونڈی
غلام کی ضرورت ہے۔ آپ حضرت صلعم عشاء کی نماز کے بعد فرصت پا کر
حضرت فاطمہؓ کے مکان پر تشریف لے گئے اور بیٹھ کر فرمایا کہ فاطمہؓ تم میرے
پاس خدمتگار کے لئے گئی تھیں۔ لونڈی غلام اور خدمتگار تو دنیا میں آرام
دیتا ہے تم کو ایسی اچھی بات بتلائے دیتا ہوں جو آخرت میں نفع دینے والی

ہو۔ جب تم سونے لگو تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تمام دن بھر کی کام کاج کی تکان دور ہو جائے گی سعادت مند بیٹی اور نیک بخت داماد نے مشفق باب کا ہتھوڑا سے قبول کیا اور سخت سے سخت اندیشہ اور فکر کی رات میں بھی اس وظیفہ کو مانعہ نہ کیا اور خدمت گار کے نہ ملنے کا کبھی دل میں خیال بھی نہ لائیں یہ تھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ ہر جگہ آخرت کو دنیا پر مقدم رکھنا سکھایا جاتا تھا اور اپنے عزیزوں کے لئے بھی وہی بات پسند کی جاتی تھی جس کی دوسروں کو نصیحت ہوتی تھی یہ نہیں کہ خود چین سے رہیں اور دوسروں کو دنیا چھوڑنے کی ہدایت ہو۔ بیٹی سے نہایت محبت تھی اور ان کی تکلیف سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی اور لونڈی غلام دے کر ان کو محنت سے بچا دینے کی طاقت بھی تھی مگر اس دنیا کے دکھ درد کو چھیلنا ہی ان کے امن عالم کا عیش اور بھلائی کا سبب خیال فرمایا۔ ہزاروں درود و سلام ہوں ایسے سچے نبی اہل ان کی آل و اصحاب پر۔

حضرت علیؑ اور فاطمہؑ میں نہایت محبت اور اتفاق تھا چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اس لئے حضرت علیؑ ان کا ایک قسم کا ادب بھی کرتے تھے اور وہ اپنے واجب التعظیم شوہر کی پوری طرح فرمانبرداری کرتی تھیں۔

ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؑ کے گھر تشریف لے گئے حضرت علیؑ کو گھر میں نہ دیکھا تو آپ نے دریافت کیا۔ حضرت فاطمہؑ نے کہا کچھ خفا ہو کر باہر چلے گئے ہیں۔ آپ نے آکر تلاش کیا تو مسجد میں بیٹے ہوئے تھے اور چادر گر گر مٹی میں بھر گئی تھی۔ آپ نے پاس جا کر نہایت ہربانی سے

فرمایا کہ اے ابوتراب اٹھو، اے ابوتراب اٹھو، ان کو اٹھا کر مکان پر لے گئے اور بخش دور کرا دی۔ جب ہی سے ان کو ابوتراب (مٹی کے باپ) کہنے لگے۔
خدا تعالیٰ کی اس میں کوئی بڑی حکمت تھی کہ

حضرت فاطمہؑ کی اولاد رسول اللہ صلعم کی زینبہ اولاد زندہ نہ رہی صرف دخترِی اولاد سے آپ کی نسل دنیا میں پھیلی لیکن بیٹیوں میں بھی صرف حضرت فاطمہؑ کی اولاد باقی رہی ان کی بہن ام کلثومؑ کے تو اولاد ہی نہیں ہوئی سب سے بڑی بہن زینبہؑ کے ایک لڑکا ہو کر تھوڑی عمر میں مر گیا تھا ایک لڑکی امام زندہ رہی تھی جس سے حضرت علیؑ نے حضرت فاطمہؑ کے بعد نکاح کیا تھا مگر آخر کو یہ بھی بلا اولاد دنیا سے چلی گئیں۔ تیسری بہن رقیہؑ کے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہؑ کے تین بیٹے تھے حسنؑ، حسینؑ، محسنؑ اور تین بیٹیاں زینبہؑ، ام کلثومؑ اور رقیہؑ۔ امام حسنؑ اور حسینؑ تو وہ مشہور شہداء ہیں کہ جن کی یاد قیامت تک مسلمانوں کو خون کے آنسو رلاتی رہے گی اور جن کے لئے رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔

ام کلثومؑ وہ ہیں جن کی شادی حضرت علیؑ نے حضرت عمرؓ سے کی تھی۔ زینبہؑ کی شادی حضرت علیؑ نے اپنے بھائی جعفرؑ کے بیٹے عبداللہ سے کی تھی جو سخاوت میں نہایت مشہور تھے۔ محسنؑ اور رقیہؑ کا انتقال نہایت چھوٹی عمر میں ہو گیا تھا۔ آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت فاطمہؑ کے انہیں دو بیٹیوں حسنہؑ و حسینہؑ رضی اللہ عنہما سے جاری ہے۔

رسول اللہ صلعم کو اپنی صاحبزادی سے بہت ہی پیار تھا اور غایت درجہ الفت تھی سب بیٹیوں سے زیادہ ان پر پیار تھا جب کہیں سفر کو جاتے تو سب سے پیچھے ان سے مل کر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے ان سے

آکر ملتے۔ اگر یہ کبھی آپ کے پاس ملنے آتیں تو آپ نہایت پیار سے ان کو اپنے پاس برابر بٹھاتے ان کا تھوڑا سا رنج بھی آپ سے دیکھا نہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علیؑ نے ابو جہلؓ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی والوں کو اندیشہ ہوا شاید آنحضرت صلعم کو ناگوار ہو اس لئے آپ سے اجازت لینے آئے۔ ادھر حضرت فاطمہؑ نے بھی عرض کیا کہ دیکھئے سب لوگ اپنی لڑکیوں کی حمایت کرتے ہیں مگر آپ کچھ خیال نہیں کرتے۔ اب علیؑ ابو جہلؓ کی بیٹی سے شادی کر کے پوسو کن لا بٹھا دیں گے۔ یہ حال سن کر اور حضرت فاطمہؑ کو غمگین دیکھ کر آنحضرت صلعم کے دل پر چوٹ لگی اور مسجد میں جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں سے فرمایا کہ ہشام ابن المغیرہ کے خاندان کے لوگ مجھ سے اجازت لینے آئے۔ کہ علیؑ سے اپنی لڑکی کا نکاح کر دیں میں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ یہ نہیں سکتا کہ رسول اللہ (صلعم) اور خدا کے دشمن (ابو جہل) کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہوں اگر علیؑ کو یہی منظور ہے تو ہماری لڑکی کو طلاق دے دیں اور دوسرے نکاح کر لیں یا در کھو کہ فاطمہؑ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کے رنج سے بے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے تکلیف۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھ کر حضرت علیؑ نے جب تک حضرت فاطمہؑ زندہ رہیں دوسرے نکاح کا نام نہ لیا۔

حضرت عائشہؑ کہتی ہیں کہ آنحضرت صلعم کی وفات سے چند روز پہلے ایک مرتبہ ہم سب مکان میں تھے کہ حضرت فاطمہؑ آئیں اور آپ نے اپنی لڑکی کے مطابق بہت پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور فاطمہؑ کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگیں پھر آپ نے کچھ فرمایا تو ہنستا ہنستا

ابو جہل مشرک و اہل نہایت سنت کافر تھا مگر بیٹی مسلمان تھی ابو جہل کے باپ کا نام ہشام بن المغیرہ تھا۔

لگیں۔ مجھے تعجب ہوا اور وہاں سے اٹھنے کے بعد فاطمہؑ سے پوچھا کہ بتاؤ توہی
 کہ آج کے رونے اور جلدی سے منہ سے کیا راز ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے کہا
 جس بات کو آپ نے چھا کر کہا ہے میں اسے ظاہر نہ کروں گی۔
 آنحضرت صلعم کی وفات کے بعد میں نے کہا کہ لو فاطمہؑ اب تو وقت گذر
 گیا اب تو بتا دو حضرت فاطمہؑ نے کہا کہ ہاں اب کچھ مضائقہ نہیں بتلائے دیتی
 ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جبریل مجھ سے ہمیشہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن مجید
 کا دور کیا کرتے تھے۔ اس سال دو مرتبہ کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میری
 وفات کا وقت قریب ہے اس کو سکر میں بے اختیار رو پڑی تو آپ نے
 فرمایا کہ دیکھو سب رشتہ داروں سے پہلے تم مجھ سے جنت میں جا کر ملو گی
 اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو گی اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور منہ
 لگی۔

آنحضرت صلعم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی اسی طرح داماد اور نواسوں
 پر بھی نہایت شفقت اور پیار تھا۔ فرماتے تھے کہ جو میرا دوست ہے علیؑ کا بھی
 دوست ہے۔ کبھی فرماتے تھے کہ اے علیؑ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی
 ہو۔ نواسوں کی محبت کا تو پوچھنا کیا ہے۔ فرط محبت سے آپ دونوں کو اپنے
 کاندھے پر بٹھاتے کبھی دونوں کو گود میں بٹھاتے اور دیکھ کر خوش ہوتے۔
 ایک روز آپ حضرت فاطمہؑ کے یہاں تشریف لائے حضرت فاطمہؑ
 بیٹی تھیں حسینؑ نے پانی مانگا آپ اٹھ کر پانی دینے لگے حسنؑ پینے کو آگے
 آپ نے ان کو ہٹا کر حضرت حسینؑ کو پلا دیا حضرت فاطمہؑ نے پوچھا کہ یا حضرت
 آپ کو حسینؑ سے زیادہ الفت ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں دونوں برابر ہیں اور
 میرے دل کی راحت ہیں لیکن حسینؑ نے پہلے مانگا تھا اس لئے ان کو پلا دیا۔

لے فاطمہؓ تم اور تمہارے خاوند اور یہ بچے میرے ساتھ جنت میں سب
ایک جگہ ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہر مسلمان کا فرض اولین ہے اور
جس کے دل میں آپ کی محبت نہ ہو وہ مسلمان کیسے شمار کیا جاسکتا ہے لیکن
حضرت فاطمہؓ کو سرکارِ دو عالم اور اپنے مشفق باپ سے ایسی والہانہ محبت تھی
کہ دنیا میں کسی کو کم ہوگی جب آپ جنگ اُحد سے واپس آئے اور حضرت فاطمہؓ
نے سنا کہ آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا ہے تو بے قرار ہو کر دوڑی آئیں حضرت
علیؓ ڈھال میں بھر کر پانی لاتے تھے اور یہ اپنے ہاتھ سے دھوتی جاتی تھیں
جب خون بند ہو گیا تو چٹائی جلا کر اس کی راکھ بھر کر باندھ دیا۔ جب تک آپ کو
دیکھ نہ لیتی تھیں صبر نہ آتا تھا اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت
فاطمہؓ کو زندہ رہنا محال ہو گیا اور اسی صدمہ میں جان دے کر آپ کو جا دیکھا۔
وفات :- حضرت فاطمہؓ کی عمر اٹھائیس سال کی تھی کہ

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت کا وقت آپہنچا اور تمام
رشتہ داروں، عزیزوں کو اپنی جدائی کے غم میں روتا چھوڑ کر اور حضرت
فاطمہؓ کو یتیمی کا داغ دے کر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کون کم نصیب
ہو گا کہ جو اس غم سے بے تاب نہ ہوا ہو۔ لیکن ایسے مشفق باپ کا سایہ اٹھ
جانے سے جو رسول خدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی اولاد سے غایت درجہ محبت
کرنے والا بھی ہو۔ حضرت فاطمہؓ کی حالت ہی بدل گئی۔ دنیا کی طرف سے
دل سرد ہو گیا۔ زندگی وبال نظر آنے لگی۔ کبھی حضرت انسؓ سے پوچھتی تھیں
کہ اے انسؓ تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر مٹی ڈالو۔ حضرت انسؓ آنسو بہا کر جواب دیتے کہ خدا کے حکم میں دم مارا

کی طاقت نہیں۔

دنیا میں ادنیٰ سے ادنیٰ باپ کا بھی ہر کسی کو غم ہوتا ہے پھر ایسے باپ کا تو جو کچھ رنج ہو توڑا ہے۔ حضرت فاطمہؑ پر یہ صدمہ ایسا پڑا کہ آخر اسی میں جان دے دی۔ غم کا روگ لگ گیا اور آپ کے وصال کے بعد بیمار ہو گئیں۔ چھ مہینے زندہ رہیں مگر کسی نے ایک دن ہنستے بولتے نہ دیکھا۔

کس بچے جو ناتا جان کا صدمہ دیکھ چکے تھے ماں کی بیماری کو دیکھ کر دیکھ کر سہمے جاتے تھے۔ حضرت علیؑ الگ پریشان تھے۔ دین و دنیا کے مددگار اور پشت و پناہ کی جدائی کا پہاڑ سر پر ٹوٹ چکا تھا۔ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ بھی ہمدرد ساتھ نہ چھوڑے۔

غمگسار اور شریک درد بی بی ہونے کے علاوہ حضرت علیؑ اب حضرت فاطمہؑ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی بھی سمجھتے تھے۔

شرم و حیا عصمت و عفت کے جوہر اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نہ ملتے تو اور کس کو ملتے۔ حضرت فاطمہؑ کی شرم و حیا اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ اک ذرا سی بات میں پانی پانی ہو جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی قدر زمین اور درخت تھے جن کی آمدنی میں سے بیویوں کا خرچ دے کر باقی آپ دین کے کاموں میں صرف کر دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہؑ نے یہ سمجھا کہ یہ زمین وغیرہ مجھ کو مل جانا چاہیے اس لئے حضرت ابو بکرؓ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ہوئے تھے جا کر کہا انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ انبیاء کے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا اور جو کچھ وہ چھوڑ جاتے ہیں خدا کی راہ میں صرف ہوتا ہے۔

اگرچہ اس میں حضرت فاطمہؑ کا تصور نہ تھا اور ان کو آپ کے اس حکم کی خبر نہ تھی مگر پھر بھی یہ خیال کر کے کہ لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جائد اومانگے گئی تھی اس قدر شرم آئی کہ فوراً واپس آگئیں اور کبھی اس کا مطالبہ نہ کیا۔

اس زمانہ میں مردوں اور عورتوں کے جنازہ میں کوئی خاص امتیاز نہ ہوتا تھا اور عورتوں کا جنازہ بھی مردوں کی طرح لے جاتے تھے حضرت فاطمہؑ کو اس کی بڑی فکر تھی کہ میرا جنازہ باہر چلے گا اور لوگ دیکھیں گے۔ انتقال سے کئی روز پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بی بی اسماء سے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ عورت کے جنازہ پر درخت کی نرم شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت پر وہ ڈولنے کے لئے بناتے ہیں جس سے جنازہ نظر نہیں آتا جیسا کہ آج کل رواج ہے اور جس کو گہوارہ کہتے ہیں بنا کر دکھایا۔ اسے دیکھ کر حضرت فاطمہؑ بہت خوش ہو کر منہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندگی بھر میں صرف ایک دفعہ اسی بات پر منہیں اور اسماء سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد تم ہی مجھ کو غسل و کفن دینا اور جیسا کہ تم نے دکھلایا ہے میرے جنازہ پر ضرور اسی قسم کا پرہہ

۱۵ اسماء بنت عمیس پہلے حضرت علیؑ کے بھائی جعفر کے نکاح میں تھیں اور جب کافروں کی ایذا رسانی سے تنگ آکر بعض مسلمان مکہ سے حبشہ چلے گئے تو جعفر کے ساتھ یہ بھی گئی تھیں وہاں تین بچے پیدا ہوئے وہاں سے مدینہ واپس آنے کے بعد حبشہ میں جب جعفر شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر نے ان سے نکاح کر لیا ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے حضرت ابو بکر نے اور حضرت فاطمہؑ کے انتقال کے بعد حضرت علیؑ نے ان سے نکاح کیا اور ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔

حضرت فاطمہؑ غمگین اور مریض تو رہتی ہی تھیں اب مرض نے شدت اختیار کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چھ مہینے بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ تین رمضان المبارک کو بروز منگل بوقت شب اس علم فانی سے رخصت ہو کر دوسرے تمام رشتہ داروں سے پہلے اپنے پیارے باپ سے جنت میں جا ملیں اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر اٹھائیس سال اور چند ماہ تھی اور ہجرت کا گیارہواں سال تھا۔

حضرت علیؑ کو ان کے انتقال سے بہت پریشانی اور رنج ہوا اور حسنؑ و حسینؑ اور دیگر بچوں کے صدمہ کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ حضرت فاطمہؑ کی وصیت کے مطابق حضرت علیؑ نے غسل و کفن کا انتظام کیا۔ اور اسماء نے غسل و کفن دے کر گہوارہ بنا کر حضرت فاطمہؑ کو دکھلا دیا تھا جنازہ پر اسی طرح پردے کا پورا سامان کر دیا۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت فاطمہؑ پر اس قسم کا گہوارہ باندھا گیا اور پھر حضرت زینبؑ پر بنایا گیا اس کے بعد عام مسلمانوں میں رواج ہو گیا۔

جس وقت غسل و کفن کا سامان کیا جاتا تھا حضرت عائشہؓ شریف لائیں مگر اسماء نے یہ کہہ کر روک دیا کہ فاطمہؑ نے اور سب کے آنے کی نعت کر دی۔ حضرت عائشہؓ کو اس سے رنج ہوا اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر شکایت کی کہ آپ کی بی بی نے مجھے فاطمہؑ کے پاس جانے نہ دیا اور دہنوں کی طرح کوئی چیز ان کے جنازہ پر باندھ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسی وقت یہاں آئے اور دروازہ پر پکار کر کہا کہ یہ کیا غضب کرتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیبیوں کو بھی ان

کی بیٹی کے پاس آنے نہیں دیتیں اور جنازہ پر کوئی نئی چیز بنا رہی ہو۔

اسماءؓ نے ان سے یہی عذر کیا کہ فاطمہ نے وصیت کر دی تھی کہ تم ہی غسل دینا اور کسی کو نہ آنے دینا اور یہ لکڑیاں پردے کے لئے جنازہ پر لگا دی ہیں جن کو بنا کر میں نے حضرت فاطمہؓ کو زندگی ہی میں دکھلا دیا تھا اور انہوں نے اس کے بنانے کی تاکید کر دی تھی۔

ابو بکر صدیقؓ یہ کہہ کر چلے آئے کہ اچھا جس طرح تم سے کہہ گئی ہیں کرو۔ چونکہ حضرت فاطمہؓ کو چیا و شرم کے لحاظ سے پردہ کا بہت ہی خیال تھا اور ان کی آرزو تھی کہ مات کو ہی دفن ہوں اس لئے رات کو اہل مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں لے گئے حضرت علیؓ نے جنازہ کی نماز پڑھائی اور بیش قیمت امانت جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک کر دیا اتنی جلدی ہی کو دفن ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی اور ان فوس رہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جنازہ میں شریک نہ ہو سکے۔

ان کی وفات سے تمام مسلمانوں کو نہایت سخت رنج ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ان کو آپ کی نشانی سمجھتے تھے اور اپنے درمیان ان کو اپنے لئے وسیلہ نجات اور دنیا کے لئے باعث برکت سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہؓ کہتی ہیں کہ چال ڈھال اور گفتگو میں حضرت فاطمہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی مشابہت رکھتی تھیں۔

سب سے بڑی بات ان کو یہ حاصل تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فاطمہؓ جگر گوشہ ہے اس کو رنج دینا مجھے رنجیدہ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہؓ بیمار تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حال دریافت

شوہر کے مال میں زوجہ اور باپ کے ترکہ میں بیٹیوں کا کوئی حق نہ تھا اور انہیں کوئی میراث نہ دی جاتی تھی۔ اسی مفہوم پر یہ آیت شریفہ مبنی ہے۔
 "تاکلون التّٰثٰثٰتِ اکلًا لّٰمًا" اور اسی وقت قرآن مجید کی یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ "للنّٰسِءِ نصیبٌ" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عم زادوں کو ام کچہ کے مال میں دست اندازی کرنے سے منع فرمایا بعد ازاں یہ آیت کریمہ "یوصیکم اللّٰہ" وارثوں کو حصہ دینے کے لئے نازل ہوئی اس آیت کی بنیاد پر ام کچہ کو آٹھواں حصہ اور اس کی لڑکیوں کو تیسرا حصہ دیا گیا اور باقی مال اس کے عم زادوں کے حوالہ کر دیا گیا۔

حضرت امامہ بنت ابی العاص

نام :- آپ کا نام امامہ ہے آپ کے والد بزرگوار کا نام ابو العاص بن ربیع بن عبد العزی تھا اور والدہ کا نام حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ولادت :- آپ اپنے نانا آنحضرت صلعم کے عہد سعادت میں پیدا ہوئیں
 نکاح :- جب آپ سن شہور کو پہنچیں تو آپ کی شادی کی فکر ہوئی چونکہ حضرت فاطمہؓ کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت فاطمہؓ کی وصیت بھی آئی تھی کہ میرے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت امام سے عقد کر لیں اور لے لے حضرت امامہ کا نکاح حضرت علیؓ سے کر دیا گیا۔

حضرت امامہ کی شادی کا انتظام حضرت زبیر بن العوامؓ نے کیا کیونکہ حضرت ابو العاصؓ نے انہی کو حضرت امامہؓ کے نکاح کرنے کی

وصیت کی تھی۔

جب حضرت علی علیہ السلام [ؑ] میں شہید ہوئے تو اس خیال سے کہ معاویہ حضرت امامہ سے عقد نہ کریں آپ نے مغیرہ بن نوفل کو وصیت کی تھی کہ تم میرے بعد حضرت امامہ سے نکاح کرنا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتقال اور عدت گزرنے کے بعد مغیرہ بن نوفل کے عقد میں آئیں۔

جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال مبارک تھا وہی پیش آیا یعنی امیر معاویہ نے مروان کو خط لکھا کہ امامہؓ کو پیغام دو اور ایک ہزار دینار اسی تقریب میں صرف کرو لیکن جب حضرت امامہؓ کو خبر ہوئی تو مغیرہ بن نوفل کو اطلاع دی۔ مغیرہ بن نوفل نے فوراً امام حسن رضی اللہ عنہ کی اجازت سے نکاح پڑھوایا۔

آنحضرت صلعم کی محبت حضرت امامہؓ آنحضرت صلعم کو بہت زیادہ محبوبا تھیں حتیٰ کہ آپ کو اوقات نماز میں بھی جہانہ فرماتے تھے نماز پڑھتے وقت شانہ مبارک پر بٹھالیتے جب رکوع میں جاتے تو شانہ مبارک سے اٹار دیتے تھے اور جب سجدہ کر کے سر مبارک اٹھاتے تو پھر کاندھے پر بٹھالیتے تھے اسی طرح پوری نماز ادا کرتے تھے یہ انتہائے محبت کا تقاضا تھا۔

ایک دفعہ کہیں سے تحفہ میں ایک قیمتی ہار آیا آنحضرت صلعم گھر میں نشر لائے اور فرمایا یہ ہار میں اس کو دوں گا جو میرے اہل بیت میں مجھے زیادہ محبوب ہوگا۔ ازواج مطہرات کو خیال ہوا کہ شاید یہ حضرت عائشہؓ کے حصہ میں آئے لیکن آنحضرت صلعم نے حضرت امامہؓ کو بلایا اور ان کے گلے میں وہ ہار پہنا دیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تحفہ میں ہار نہیں آیا تھا بلکہ ایک

انگوٹھی سونے کی تھی جو نجاشی نے بارگاہ نبوت میں ہدیتاً بھیجی تھی۔ آپ نے وہی حضرت امامہؓ کو دے دی۔

اولاد :- میسرہ بن نوفل کے صلب سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا اور اسی نام سے انہوں نے اپنی کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی۔

وفات :- حضرت امامہؓ کی آخری زندگی میسرہ بن نوفل کے ساتھ بسر ہوئی حتیٰ کہ آپ کا انتقال بھی میسرہ کے گھر میں ہوا۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیقہؓ

نام :- اسماء نام ہے۔ حضرت ابوبکر الصدیق کی صاحبزادی

ہیں۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ تھا جو قریش کے ایک مشہور و معزز سردار عبدالمعزیٰ کی بیٹی تھیں (عبداللہ بن ابی بکرؓ ان کے حقیقی بھائی تھے اور حضرت عائشہؓ ان کی سویلی بہن تھیں جو ان سے عمر میں چھوٹی تھیں۔

لقب :- ذات النطاقین ان کا لقب تھا۔ جس کے متعلق یہ

روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب آنحضرت صلعم کو کفار مکہ نے پریشان کیا اور

قسم کی اینٹیں دینے لگے یہاں تک کہ قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تو آپ نے

مکہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ حضرت ابوبکرؓ بھی آپ کے

ہم خیال تھے چنانچہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کے

جا کر تھوڑے فاصلہ پر جبل ثور کے ایک غار میں مقیم ہو گئے (حضرت ابوبکر الصدیقؓ

کو اسی وجہ سے یار غار کہتے ہیں۔ کفار مکہ نے ہر چند بیت حجاب کی اور اسی تلاش

کے سلسلہ میں بارہا اس غار کے منہ تک بھی پہنچ گئے لیکن خدا کو مشکوٰۃ نبوی کے نور سے دنیا کو روشن کرنا مقصود تھا اس لئے دشمنوں کا گزرا آپ تک نہ ہو سکا ان رفقاء میں سے جو اس وقت آنحضرت صلعم کی پوشیدہ امداد کرتے تھے۔ ان میں حضرت اسماءؓ بھی تھیں چنانچہ یہ روزانہ رات کو آنحضرت صلعم کے پاس کھانا لے جاتیں اور کھانا کھلا کر واپس آ جاتیں۔

حضرت اسماءؓ کے بھائی عبدالشکر (جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) دن بھر کافروں کے ارادوں اور مشوروں کا پتہ لگایا کرتے تھے اور رات کو غار میں پہنچ کر تمام خبریں رسول اللہ کو دیا کرتے تھے عامر (جو حضرت ابو بکر الصدیقؓ کا چرواہا تھا) رات کو بکریاں غار کے منہ پر لے جاتا تھا اور بقدر ضرورت دودھ دے کر چلا آتا تھا۔ اس طرح حضرت اسماء اور ان کے بھائی عبدالشکر کے نقش قدم بھی بکریوں کے گھروں سے مٹ جاتے تھے اور کفار کو غار کا سراغ نہ لگ سکتا تھا۔

جب کفار کو اپنی سعی و جستجو میں کامیابی نہ ہوئی تو انہوں نے سوا اونٹ کا انعام اس شخص کے لئے مقرر کیا جو آنحضرت صلعم کا سراغ لگا دے اس کے تیسرے دن رات کو جب حضرت اسماءؓ کھانا لے کر گئیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم علیؓ سے جا کر کہدینا کہ کل رات کو تین اونٹ اور ایک شخص واقف راہ تلاش کر کے اسی غار پر پہنچیں۔ چنانچہ حضرت علیؓ بتعمیل ایشاؓ تین اونٹ اور ایک راہبر لے کر گئے اور حضرت اسماءؓ بھی دو تین روز کا ناشتہ تیار کر کے لے گئیں۔ ناشتہ اور پانی کا مشکیزہ باندھنے کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت جلدی میں کوئی رسی کا ٹکڑا نہ ملا۔ تو انہوں نے اپنا نطق

لے نطق عرب میں اس رومال کو کہتے ہیں۔ جسے عورتیں قمیض کے اوپر لپیٹ لیتی ہیں۔

مکر سے کھول کر دو ٹکڑے کئے ایک سے ناشتہ اور دوسرے سے مشکیزے
 کا منہ باندھا۔ اس پر دربار نبوت سے آپ کو ذات النطاقین کا لقب ملا۔
 جو آج بھی باوجود عرصہ دراز گزر جانے کے زندہ ہے اور حضرت
 اسماء رضی اللہ عنہا آج تک صفحات تاریخ میں اسی نام سے یاد کی جاتی ہیں۔

ہجرت سے ستائیس سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں
 اس وقت ان کے والد بزرگوار ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی

ولادت

عمر بیس سال سے کچھ زائد تھی۔

حضرت زبیر بن العوام سے شادی ہوئی جو آنحضرت

نکاح

صلعم کے چھوٹی زاد بھائی تھے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بڑی جلیل القدر صحابیہ تھیں مکہ میں

اسلام

اسلام لائیں اور آنحضرت صلعم سے شرف بیعت حاصل

کیا۔ قبول اسلام میں ان کا شمار سابقوں الاولون میں سے ہے کیوں کہ
 یہ سترہ آدمیوں کے بعد شرف اسلام ہوئیں۔

آنحضرت صلعم، اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ جب مدینہ

ہجرت

منورہ پہنچ گئے اور اہلینان حاصل ہوا تو مستورات

کے بلانے کی تجویز پیش ہوئی چنانچہ آنحضرت صلعم نے زید بن حارثہ اور اپنے

غلام ابورافع کو مکہ بھیجا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ایک آدمی بھیج دیا حضرت

ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ اپنی ماں اور دونوں بہنوں (حضرت عائشہ

و حضرت اسماء رضی اللہ عنہما) کو لے کر مکہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جب مقام قبا

میں پہنچیں تو عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اپنے نعت

بگڑ کر آنحضرت صلعم کی خدمت میں لائیں آپ نے گود میں لے کر گھٹی پلائی اور

دعا سے سرفراز فرمایا۔ یہ پہلی ولادت باسعادت ہے جو ہجرت کے بعد اسلام میں ہوئی۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے لیکن مبارک سے حضرت زبیر

بن العوام کے پانچ صاحبزادے عبداللہ، عروہ،

منذر، عام، اور ہاجر اور تین صاحبزادیاں خدیجہ الکبریٰ، ام الحسن، عائشہ
پیدا ہوئیں۔ یہ سب انہی کی یادگاریں ہیں۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نہایت متواضع اور منکسر المزاج

تھیں۔ محنت و مشقت میں آپ کو کوئی عار نہ

عام حالات

تھا۔ چنانچہ حضرت اسلدا اپنے شوہر حضرت زبیر کی بے بضاعتی، تنگ دستی،

اپنے اہم فرائض خانہ داری کی انجام دہی اور ذمہ داریوں کی داستان اس

طرح بیان کرتی ہیں۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت حضرت زبیر کے

پاس نہ مال تھا نہ کوئی غلام، بے حد تنگ دست فقیر و مفلس تھے ایک ٹھوڑا

اور ایک اونٹ تھا اور میں ہی ان کی خبر رکھتی تھی آنحضرت صلعم نے ایک قطعہ

نخلستان کا حضرت زبیر کو عطا فرمایا تھا جو مدینہ سے تین فرسخ کے فاصلہ

پر تھا وہاں سے روزانہ کھجور کی گٹھلیاں جمع کر کے اپنے سر پر اٹھا کر گھر

تک لاتی تھی اور پھر خود ہی دلتی اور گھوڑے کو کھلاتی۔ پانی بھرتی، ڈول

کھینچتی اور گھر کا جو کچھ کام ہوتا وہ بھی میں ہی انجام دیتی۔ چونکہ مجھے ردی

رکانا اچھی نہیں آتی تھی اس لئے میں صرف آٹا گوندو کر رکھ دیتی تھی میرے

گھر کے قریب انصار کی بیویاں رہتی تھیں (جو نہایت خلوص و محبت رکھنے

والی اور دوسروں کا کام کر کے خوش ہونے والی عورتیں تھیں) وہ میری

روٹیاں پکا دیا کرتی تھیں روز مجھے اپنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایک

روز میں حرب معمول نخلستان سے کچھور کی گٹھلیاں اپنے سر پر لار ہی تھی کہ راستہ میں آنحضرت صلعم سے ملاقات ہوئی آپ کی ہمراہی میں اور صحابہ کرام تھے آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا تاکہ میں سوار ہو جاؤں لیکن میری شرم و حیائے اجازت نہیں دی جب آپ کو خیال ہوا کہ شرم کی وجہ سے نہیں بیٹھتے تو آپ تشریف لے گئے۔ میں اپنے گھر آئی اور یہ قصہ اپنے شوہر زبیر رضی سے بیان کیا تو انہوں نے کہا خدا جانتا ہے تمہارا سر پر گٹھلیاں لادنا میرے لئے ان کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر کچھ عرصت کے بعد میرے باپ ابو بکر رضی نے میرے پاس ایک غلام بھیج دیا جس کی بدولت گھوڑے کی خدمت سے مجھ کو نجات مل گئی اور مصیبتوں سے ایک حد تک چھٹکارا نصیب ہو گیا۔

جب حضرت ابو بکر الصدیق رضی السلام لائے اس وقت ان کے پاس تقریباً ایک لاکھ درہم تھے لیکن چونکہ وہ تمام دولت مذہب و ملت کی خاطر آنحضرت صلعم کی امداد میں صرف کر چکے تھے اس لئے ہجرت کے وقت ان کے پاس صرف ڈیڑھ ہزار درہم رہ گئے تھے اور یہی رقم لے کر آپ مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے اور بال بچوں کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا حضرت اسماءؓ جب اپنے والد کو رخصت کر کے گھر آئیں تو صبح کو ابو قحافہ (حضرت ابو بکرؓ کے والد جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بہت ضعیف ہو گئے تھے آنکھ کی بصارت بھی رخصت ہو گئی تھی) ان کے گھر آئے اور بڑے رنج کے ساتھ کہنے لگے نہایت افسوس ہے کہ ابو بکر خود بھی چلے گئے اور تمام مال بھی اپنے ساتھ لے گئے حضرت اسماءؓ نے فوراً ان کے قلب کو تسکین دینے کے لئے ایک تھیلی میں کچھ کنکر تھپھر بھر کر اسی طاق میں رکھ دیا

جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درہم رکھے رہتے تھے اور ان سے کہا وادامیاً
آپ نے تو ہم لوگوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے اور ان کا ہاتھ اس طاق
میں لے جا کر رکھ دیا۔ ابو قحافہ نے ٹٹولا تو مجھے حقیقت میں مال موجود
ہے اور ان کے دل کو اطمینان ہو گیا۔

حضرت اسماءؓ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف ان کی تسلی کے لئے
ایسا کیا تھا ورنہ حقیقتاً گھر میں ایک جہ بھی نہ تھا۔

جب کبھی حضرت اسماءؓ کو درد سر کا دورہ ہوتا تو اپنے سر کو ہاتھ سے پکڑ
کر کہتیں خدایا اگرچہ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن تیری شان غفاری بہت
بڑی ہے۔

ایک دفعہ ان کی گردن ورم کر آئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک
سے سہلا دیا اور فرمایا خدا تمہاری اس تکلیف کو دور کرے۔

حضرت اسماءؓ کم مائیگی اور تنگ دستی کی وجہ سے امور خانہ داری میں
بہت احتیاط سے کام لیتی تھیں اور ہر چیز کو بقدر ضرورت ناپ تول کر
خرچ کرتی تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ ناپ تول کرنے خرچ
کیا کرو ورنہ خدا تعالیٰ بھی اتنا ہی دے گا انہوں نے یہ عادت چھوڑ دی۔
چونکہ حضرت اسماءؓ ایک راسخ الاعتقاد مسلمان خاتون تھیں اس لئے
مشرکین کی سخت دشمن تھیں ایک مرتبہ ان کی والدہ کچھ تحفے تحائف لے کر
دیکھنے کو آئیں چونکہ وہ اس وقت مشرک تھیں اس لئے انہوں نے ان کے
تحفے قبول نہیں کئے اور نہ اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ حضرت عائشہؓ کے پاس کہلا
بھیجا کہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیجئے کہ میں اس موقع پر کیا کروں
اور آپ کا اس بارے میں کیا حکم ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے

قبول کرو اور ان کو گھر میں مہمان رکھو خدا تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے جیسا کہ کلام اللہ کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔

”جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے۔ اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ ان کے ساتھ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے خدا تعالیٰ تم کو نہیں روکتا ہے۔ (کیونکہ) اللہ تعالیٰ منصفانہ برتاؤ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تم کو ان ہی لوگوں سے دوستی کرنے کو منع کرتا ہے جو تم سے دین کے بارے میں لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں میں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں تمہارے مخالفوں کی مدد کی اور جو شخص ایسے لوگوں سے دوستی رکھے گا تو (بمھا جائے گا) کہ یہی لوگ (مسلمانوں پر) ظلم کرتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے تحفے قبول کئے اور والدہ کو اپنے مکان میں قیام کرنے کی اجازت دی۔

باوجودیکہ حضرت اسماعیلؑ بعد کو جاہ و ثروت اور دولت سے مالا مال ہو گئی تھیں لیکن انہوں نے اسلام کی سادگی کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا و ہمیشہ موٹا کپڑا پہنتیں۔ خشک روٹی سے شکم پُری کرتیں اور فقیرانہ زندگی بسر کرتیں تھیں ان کی سادگی کے ثبوت میں ذیل کا واقعہ پیش کیا جاسکتا ہے ان کے بیٹے منذر جب عراق کی لڑائی فتح کر کے واپس آئے تو زین کپڑے خوبصورت باریک منقش بھی ساتھ لیتے آئے۔ جب اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ کپڑے پیش کئے (ان کی والدہ کی بصارت پیرانہ سادگی کی وجہ سے رخصت ہو چکی تھی) اس لئے انہوں نے ہاتھ سے ٹول کر اس

خوبیاں معلوم کیں بہت خفا ہوئیں۔ اور لینے سے انکار کیا۔ مندر پھر موٹے کپڑے لائے تو اس کو قبول کیا خوش ہوئیں اور کہا بیٹے مجھے ایسے ہی کپڑے پہنایا کرو۔

فیاضی اور سخاوت جو عرب کا اصلی جوہر ہے وہ ان کے مزاج میں بہت زیادہ تھی۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ

سخاوت

و عنظ و نسیحت کیا کرتی تھیں کہ اپنا مال دوسروں کے کام نکالنے اور ان کی مدد کرنے کے لئے آتا ہے نہ کہ جمع کرنے کے لئے اگر تم اپنا مال خدا کی مخلوق پر نہ خرچ کرو گے اور بخل کرو گے تو خدا بھی تم کو فضل و کرم سے محروم رکھے گا تم جو کچھ صدقہ کرو گے یا خرچ کرو گے دراصل وہی تمہارے لئے ایک اچھا ذخیرہ ہو گا اور وہ ایسا ذخیرہ ہے جو نہ کبھی کم ہونے والا ہے اور نہ جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

حضرت اسماءؓ جب کبھی علیل ہو جاتیں تو تمام غلاموں کو آزاد کر دیتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے اپنی وفات کے وقت ایک قطعہ زمین کا ترکہ میں چھوڑا تھا وہ حضرت اسماءؓ کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اس کو ایک لاکھ درہم میں فروخت کر کے وہ رقم اعزہ و اقارب پر تقسیم کر دی۔

چونکہ حضرت زبیرؓ کے مزاج میں تشدد زیادہ تھا اس لئے حضرت اسماءؓ نے آنحضرت صلعم سے دریافت کیا کہ میں اپنے شوہر کے بلا اجازت ان کے مال سے کچھ فقراء و مساکین کو دے سکتی ہوں۔ آنحضرت نے فرمایا ہاں دے سکتی ہو۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ مدنیہ منورہ آئیں اور ان سے کچھ روپے مانگے انہوں نے حسب عادت پھر آنحضرت صلعم سے دریافت کیا کہ میری والدہ مشرک ہیں۔ اور وہ مجھ سے روپے مانگتی ہیں۔ کیا میں ایسی حالت

میں ان کی امداد کر سکتی ہوں اور ان کے سوال کو پورا کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہاری والدہ ہیں۔ یعنی ان کی امداد کر سکتی ہو۔

ہمت اور اخلاق
حضرت اسماءؓ مجسم پیکر اخلاق تھیں ان میں
اخلاص و نیک نیتی کا مادہ فطرتاً و ولایت

ہوا تھا نبی نوع انسان کی ہمدردی کی طرف بہت مائل تھیں۔ ایک دفعہ آنحضرت صلعم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے نماز کو بہت طول دیا۔ حضرت اسماءؓ گھبرا گئیں اور تھک کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ تو ان کے پاس دو عورتیں اور بھی کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک موٹی دوسری دہلی اور کمزور تھی ان دونوں کا کھڑا رہنا باعث تسلی ہوا۔ اپنے خیال کو بدلا اور کہا مجھے ان سے زیادہ دیر تک کھڑا رہنا چاہئے چنانچہ وہ نماز ختم ہونے تک برابر کھڑی رہیں۔ کیونکہ نماز کئی گھنٹے تک ہوئی تھی۔ بہت استقلال سے کام لیا لیکن ضبط نہ کر سکیں غش آگیا اور سر پر پانی چھڑکنے کی نوبت آئی۔

لوگ حضرت اسماءؓ کے بہت معتقد تھے
اور بڑی عقیدتمندی سے ملتے تھے۔ ان
فضل و کمال
کے تقدس و عظمت کا عام شہرہ تھا۔ ہر شخص دعائے خیر کا طالب رہتا تھا۔
لوگ مصیبت کے وقت خصوصیت سے دعا کرتے تھے۔ کبھی کوئی عورت
بخار میں مبتلا ہوتی وہ دعا کرانے کے لئے آتی تو آپ اس کے سینے پر پانی
چھڑک دیتیں اور کہتیں۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ بخار آتش جہنم کی گرمی
ہے اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔

جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا۔ تو آپ آنحضرت صلعم کے جیب کو
رجس کو حضرت عائشہؓ نے وفات کے وقت حضرت اسماءؓ کے سپرد کیا

کیا تھا) دھوکرا اس کا پانی پلا دیتی تھیں۔

حضرت اسماءؓ نے کئی حج کئے پہلا حج آنحضرت صلعم کے ساتھ ہی کیا تھا۔
آنحضرت صلعم سے تقریباً چھپن حدیثیں بھی روایت کی ہیں صحیحین میں
موجود ہیں۔ جن لوگوں نے ان سے روایت کی ہے ان میں سے بعض کے
نام یہ ہیں۔

عبداللہؓ، عروہ، فاطمہ بنت المنذر بن زبیر، ابن عباسؓ۔ ابن ابی طلحہ
وہب بن کیسان۔ مسلم معری وغیرہ۔

آپ بڑی ذی فہم، راسخ الاعتقاد۔ قلب کی مضبوط، نہایت بردبار
اور بہت صابر تھیں۔

جس طرح سرزمین عرب کا بچہ بچہ فیاض اور سخی ہوتا ہے اسی طرح جرات
اور دلیری بھی ان کی سرشت میں داخل ہے۔ حضرت اسماءؓ جس طرح سخاوت
میں مشہور تھیں اسی طرح دلیری شجاعت کے لئے بھی مشہور تھیں۔ سعید بن
عاص کے زمانہ حکومت میں جب مدینہ کے اندر فتنہ و فساد برپا ہوا شہر
میں بد امنی پھیل گئی اور چوریاں ہونے لگیں تو حضرت اسماءؓ ایک خنجر سر ہانے
رکھ کر سو یا کرتی تھیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتی ہیں کہا کہ جب
کوئی چور آئے گا اور مجھ پر حملہ کرے گا تو میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔
غرض کہ اسماءؓ نے عبداللہؓ بن زبیر کی شہادت کے بعد انتقال کیا ابن سعد خزیمہ ص ۱۶

حضرت زائدہ

یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروقؓ کی کنیز تھیں آنحضرت صلعم کی خدمت میں

حاضر ہوئیں حضور نے ان کے لئے ارشاد فرمایا

خدا نے تمہاری ازامت من بدرجہ مریم رسانید (صحیفۃ الاولیاء، ۲۰)

اروی بنت عبدالمطلب

حضرت عبدالمطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی لڑکی یعنی آنحضرتؐ کی چھوٹی بھینس۔ اعلیٰ درجہ کی تعلیم یافتہ شہار کی جاتی تھیں۔ اپنے پدر بزرگوار کے مرثیہ لکھے تھے۔ سیرۃ ابن ہشام اور صامرات محی الدین میں لکھا ہے کہ اروی نے اپنے باپ کا مرثیہ ان کی ہدایت کے مطابق ان کی وفات سے قبل لکھا تھا۔ جناب عبدالمطلب نے اپنی بیٹیوں اروی و دام حکیم البیضاء و ایتمہ و برہ و صفیہ اور عاتکہ کو اپنے مرض موت کی حالت میں بلایا اور کہا کہ جو مرثیے تم میرے مرنے کے بعد کہتیں وہ میرے مرنے سے قبل کہو خدائے ان سب کو وہ ذہن عطا کیا تھا جس کے باعث یہ عورتیں بہت مشہور و معروف ہو گئیں۔ حضرت عبدالمطلب کی لڑکیوں نے اپنے باپ کا حکم اسی وقت پورا کیا اور تمام لڑکیوں نے ایک ایک مرثیہ کہا۔

ام حکیم البیضاء

حضرت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھیں۔ آپ کا بدن نہایت چمکیلا اور سڈول تھا۔ عرب کے لوگ آپ کے جسم کو بیضاء اور قبینۃ الدیہاج کہا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت نہایت ناظم واقع ہوئی تھی اور نہایت قادر الکلام تھیں۔ اپنے والد کا مرثیہ ان کی زندگی میں ان کے حکم سے لکھا تھا۔

ام الدرداء

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خاتون نے بہت سی حدیثیں سنی تھیں اور نیز اپنے شوہر عمیر سے بھی (یہ شخص بہت بڑا حکیم تھا) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمیر ہماری امت کا حکیم ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ام الدرداء بڑی فاضلہ و قابلہ عورت تھی۔

اروی بنت الحارث

یہ حارث بن عبدالمطلب کی لڑکی تھیں ان کے لڑکے کا نام مطلب بن ابی وراعتہ السہمی تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حقیقی چچا زاد بہن تھیں ان کا شمار صحابہ میں ہوتا ہے۔ ماں کا نام نزیہ دختر قیس بن طریف از نثر ادحارث بن ہر مسالک تھا جو اگر ملتقطہ کے مصنف لبیب آفندی نے ایک مقام پر اردوی کی ایک نقل لکھی ہے کہ امیر معاویہ کا سہانہ دربار گرم تھا۔ اتفاق سے اردوی کو چھ ہزار دینار کی ضرورت پیش آئی۔ اردوی امیر کے دربار میں گئی اور چھ ہزار کی درخواست کی۔ امیر معاویہ نے فوراً چھ ہزار دینار منگو کر دیئے۔ اس کے بعد امیر نے اردوی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تیرے چچا کے لڑکے حضرت علیؑ میری جگہ ہوتے تو یہ عطیہ تجھ کو کبھی نہ دیتے اردوی ان کلمات کو سن کر آبدیدہ ہوئی اور

ابوالاسود دوی کے مرثیہ کے وہ اشعار جو انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالبؓ کی شان میں لکھے تھے پڑھے۔

امیر معاویہ نے یہ اشعار سن کر اپنی گردن جھکالی اور کہا اے اروی میں قسم کھاتا ہوں کہ تو نے جو اس وقت پڑھا اس سے حضرت علیؓ افضل تر ہیں۔

ایٹہ عقیل

حضرت علیؓ کے بڑے بھائی جن کا نام عقیل ابن ابی طالب تھا یہ ان کی بیٹی تھیں۔ قاتونان بنی ہاشم میں ان کی فصاحت کا ڈنکا بجاتا تھا۔ حضرت سید الشہداء کے خاندان کے لوگ جس وقت شام کے سفر سے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت یہ ایک جماعت کے ساتھ آپ کے استقبال کے لئے آئیں اور کچھ نوحہ و زاری کر کے کچھ اشعار پڑھے جن سے ان کی فصاحت و بلاغت کا پورا پورا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت سکینہؓ

حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امام حسینؓ کی صاحبزادی کے فضائل پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ احوص ادب کا امام اور فخر عراق جب مدینے آیا اور وہاں کے تمام کاملین سے ملاقات کی تو بڑے بڑے لوگ احوص کی نکتہ چینی سے عہدہ برآ نہ ہو سکے اور کوئی ایسا نہ تھا کہ جو مدینے کے مرکز قابلیت کی ناموس کو محفوظ رکھ سکتا۔ جب وہ حضرت سکینہؓ کی

خدمت میں آستانہ بوسی کو حاضر ہوا تو آپ نے اس کے تمام مجموعہ علم و ادب میں سے چند مقامات پر ایسی مبصرانہ نکتہ چینی کی کہ اس کو دعویٰ انا اولاً غیر می ترک کرنا پڑا۔ ایسے ہی فرزوق جو ہر جریر عراق کے مشہور شعرا جن سے زیادہ اس زمانہ میں کوئی اور روشن افق شاعری پر موجود نہ تھا مدینے آئے اور حضرت سکینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہر ایک کے کلام میں جو تمام شعرا کی موزوں طبائع نے خوب جانچ رکھا تھا۔ چند مقامات پر اعتراض کیا اور وہ ان کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس سے حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کے حافظہ کی وسعت اور غایت علم کا پیمانہ معلوم ہوتا ہے۔

بنت سعید بن مسیب تابعی

ابن مسیب بڑے حلیل القدر تابعی اور ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جو اپنے علم و عمل کے اعتبار سے ساری دنیائے اسلام کے امام اور مقتدی مانے جاتے تھے۔ باپ اور دادا صحابی رسول اللہ صلعم سے عہد خلفائے راشدین میں کم سن تھے۔ ملوک بنی امیہ کا زمانہ پایا۔ آپ کی ایک دختر نیک اختر تھی جو نہایت حسین اور کتاب اللہ کی حافظ سنت رسول اللہ صلعم کی عالم تھیں۔ (ابن خلکان ج ۱ ص ۲۰۷)

خلیفہ عبدالملک بن مروان ان صاحبزادی کو اپنی بہنو بنانا چاہتا تھا۔ خلیفہ نے اپنے ولی عہد کا پیغام ابن مسیب کو دیا آپ نے انکار کر دیا۔ قریش کے ایک غریب آدمی ابو دواعہ جو آپ کی خدمت میں آئے جاتے تھے ایک دن وہ نہیں آئے۔ جب وہ حاضر ہوئے آپ نے ان سے

نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی
 بچہیز و تکفین میں لگا ہوا تھا آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا ارادہ دوسری شادی
 کا ہے۔ وہ بولے میں بہت غریب ہوں کون بیٹی دے گا۔ آپ نے فرمایا
 میں اپنی نحت جگر کا تم سے عقد کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے کیسے
 انکار ہو سکتا ہے چنانچہ اس وقت دو باتیں درہم کے ہر پر میرا نکاح اس
 عقیقہ کے ساتھ کر دیا اور خود گھر پر پہنچا گئے۔ یہ خاتون حقوق شوہر کا بید
 خیال رکھتی تھیں۔ (ماخوذ تا بعین صفحہ ۱۷۳)

مسلمان عورتوں کی بہادری و حق گوئی

زورِ اولیٰ کی تاریخ میں جس طرح مردوں کی آزادی و حق گوئی کی مثالیں
 جا بجا ملتی ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی ایسی مثالوں کی کچھ کمی نہیں ہے یہاں
 عقد الفرید سے چند حکایتیں ان عورتوں کی بیان کی جاتی ہیں جو جنگ صفین
 میں نبی ہاشم کی طرفدار تھیں اور عین جنگ کے موقع پر اہل شام کے برخلاف
 نہایت جوش و خروش کے ساتھ خطبے پڑھتی تھیں اور جنگ کے خاتمے کے
 بعد جب حضرت امیر معاویہؓ سے ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے نہایت
 آزادی کے ساتھ اپنے دلی خیالات ظاہر کئے اور جس بات کو وہ اپنے نزدیک
 حق جانتی تھیں اس کے ظاہر کرنے سے امیر شام کا رعب و داب ان کو مانع
 نہیں آیا۔

شعبی سے روایت ہے کہ نبی ہلال کی ایک عورت بکارہ نامی نے حضرت
 امیر معاویہؓ کے روبرو جب کہ وہ مدینہ میں تھے حاضر ہونے کی اجازت

چاہی۔ چنانچہ اس کو جازت دے دی گئی۔ بکارہ اس وقت مسمر ہو گئی تھی اس کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، قوی ضعیف ہو گئے تھے اور بدن میں رعشہ تھا۔ دو خادم اس کو پکڑ کر امیر کے سامنے لائے۔ بکارہ نے سلام کیا اور بیٹھ گئی امیر نے سلام کا جواب دیا اور مزاج پوچھا اور کہا افسوس ہے کہ زمانے نے تمہارا حال دگر گوں کر دیا۔ بکارہ نے کہا بے شک اس کی گردشیں ایسی ہی ہیں۔

مردان نے کہا اے امیر المؤمنین تم نے اس کا کلام بھی سنا ہے یہ کتنی ہر کیا ہم ابن ہند (معاویہؓ) کو خلافت کا مالک سمجھیں؟ یہ دور از قیاس ہے اور اگر وہ ایسا چاہے تو اس کے مرتبے سے بالاتر ہے (اے معاویہ) تیرے نفس نے گمراہی سے یہ آرزو تیرے دل میں ڈال دی ہے اور عمرو بن العاص اور سعید بن العاص نے تجھ کو بد بختی کے لئے ورغلا یا ہے۔“

جب مردان یہ اشعار پڑھ چکا تو سعید بن العاصؓ نے کہا کہ اس نے یہ اشعار بھی کہے ہیں:-

”میری آرزو تھی کہ میں مرجاؤں اور بنی امیہ میں سے کسی کو منبر پر خطبہ پڑھتا ہوا نہ دیکھوں مگر خدا نے میری رسی دراز کر دی یہاں تک کہ زمانے کے عجیب عجیب کرشمے میری نظر سے گزرے اور میں برابر ان خطیبوں سے علی الاعلان آل احمد کی برائیاں سنتی رہی۔“

مردان وغیرہ جب یہ چھیڑ کرنے کے بعد خاموش ہو رہے تو بکارہ بولی: اے معاویہ! بے شک یہ میرا کلام ہے جو انہوں نے اس

وقت پڑھا اور کلام جو ابھی تجھ پر ظاہر نہیں کیا گیا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ امیر کو یہ سن کر سنسی آگئی اور کہا: یہ امر تمہاری حاجت براری کرنے سے مجھ کو مانع نہیں آسکتا۔ تم اپنی حاجت بیان کرو، اس خیرت مند عورت نے کہا: بس اب اس بے لطفی کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔

شعبی نے نبی امیہ کی ایک جماعت سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ رات کو جب کہ امیر معاویہؓ کے پاس عمرو، سعید، عقبہ اور ولید موجود تھے عدی بن قیس ہمدانی کی بیٹی زرقا کا ذکر آیا جو اپنی قوم کے ساتھ جنگ صفین میں شریک تھی۔ امیر معاویہؓ نے کہا تم میں سے کسی کو اس کا کلام یاد ہے؟ ان میں سے بعض نے کہا ہاں لے امیر المومنینؓ اہم کو یاد ہے۔ امیر نے کہا: مجھ کو مشورہ دو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ بعضوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ امیر نے کہا: تم نے بہت بڑا مشورہ دیا۔ کیا مجھ کو زیبا ہے کہ میں اپنی نسبت لوگوں سے یہ کہلوں کہ ایک عورت کو جب کہ وہ قابو میں آگئی قتل کر ڈالا؟

اس کے بعد امیر نے کوفے کے عامل کو (جہاں زند قارہتی تھی) لکھا کہ زرقا کو اس کے چند معتد محرموں اور قبیلے کے سرداروں کے ہمراہ عم ساذ و سامان کے ساتھ اور معقول سفر خرچ دے کر ہمارے پاس روانہ کرو۔ عامل نے زرقا کو طلب کیا اور امیر کا خط پڑھا اور زرقا نے کہا: ”اگر امیر نے میرا وہاں جانا میری مرضی پر منحصر رکھا ہے تو میں جانا نہیں چاہتا اور اگر جتنی حکم ہے تو بہر حال جانا پڑے گا فرمانبرداری ضروری ہے۔“

عامل نے جیسا کہ اس کو حکم کو تھا بہت تزک و احتشام کے ساتھ اس کو روانہ کیا۔

جب وہ معاویہؓ کے پاس پہنچا تو امیر نے اس کو بہت خاطر داری اور اعزاز کے ساتھ لیا اور پوچھا کہ سفر کس طرح طے ہوا؟ جس طرح لڑکی ماں کی گود میں پرورش پاتی ہے یا بچہ گہوارے میں سوتا ہے۔ امیر نے کہا ”ہم نے اس طرح عامل کو ہدایت کی تھی“ پھر زرقاء سے پوچھا تم کو معلوم ہے کہ تم کیوں بلائی گئی ہو؟ اس نے کہا جو راز مجھ پر ظاہر نہیں کیا گیا اس کو میں کیونکر جان سکتی ہوں؟“

امیر نے کہا: اے زرقاء کیا تو سرخ اونٹ پر سوار جنگ مہین میں موجود تھی اور کیا تو اپنے خطبوں سے آتش حرب کو نہیں بھڑکا رہی تھی اور لوگوں کو مقلبے پر برا نگیختہ نہیں کر رہی تھی؟ آخر کار اس جوش کا کیا سبب تھا؟ زرقاء نے کہا: اے امیر المؤمنین! سر مرچکا اور دم کٹ چکی جو کچھ جانا تھا جا چکا زمانہ پلٹیاں کمانے والا ہے اور حوادث و واقعات کا سلسلہ برابر جا رہی ہے۔“

امیر نے کہا: اے زرقاء! تجھ کو اپنا اس دن کا خطبہ یاد ہے؟ اس نے کہا لا واللہ مجھ کو بالکل یاد نہیں رہا۔ امیر نے کہا: تجھ کو یاد نہیں تو مجھ کو یاد ہے تیری اس تقریر کا کیا کہنا ہے جو تو اسی وقت کہہ رہی تھی کہ اے لوگوں باز آ جاؤ اور پلٹ جاؤ۔ تم اس فتنے میں بڑھ گئے ہو جس نے تم پر ظلمت کے پردے ڈال دیئے ہیں اور تم کو راہ راست سے برگشتہ کر دیا ہے

۱۔ عربی میں یہ مثل ایسے موقع پر بولی جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں گزشتہ راصلوۃ

یہ کیسا اندھا پہرہ اور گونگا قندہ ہے کہ نہ ہانکنے والے کی آواز سنتا ہے نہ
کھینچنے والے کی مرضی پر چلتا ہے دیکھو! چراغ آفتاب کے سامنے روشن
نہیں ہوتا اور ستارے چاند کے سامنے مانند رہتے ہیں اور لوہے کو لوہا
کاٹ سکتا ہے دیکھو! جو ہم سے راہ پوچھے گا ہم اس کو راہ بتائیں گے
اور جو ہم سے سوال کرے گا ہم اس کو جواب دیں گے۔ لوگوں حق اپنی کھوئی
ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہا تھا سو وہ اس کو مل گئی۔ پس اے ہماجرین غم و غصہ
پر صبر کرو و تفرقہ کا رخنہ بند ہو گیا ہے اور کلمہ حق پر سب متفق ہو گئے ہیں اور
سچائی نے ظالموں کا سر توڑ دیا ہے۔ یاد رکھو عورتوں کی آرائش ہندی سے
ہے اور مردوں کی زیبائش خون سے "غرض کہ جس قدر امیر کو اس کے جملے
یاد تھے پڑھ کر کہا اے زرقا جو خون علیؑ نے بہائے ان میں تو بھی شریک
تھی؟ زرقا نے کہا "خدا تیرا بھلا کرے اور تجھے سلامت رکھے تو نے ایک
مزدہ سنا کر مجھ کو خوش کر دیا۔ امیر نے کہا "کیا اس بات سے کہ سفک و ما
میں تو علیؑ کے ساتھ شریک تھی تجھ کو خوشی ہوئی؟ کہا بے شک! اور اب
تجھ کو میرے خیالات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہو گا امیر یہ سن کر منہ لگے اور کہا
واللہ علیؑ کے ساتھ تمہاری وفاداری اس کی وفات کے بعد زیادہ عجیب
ہے بہ نسبت اس محبت اولاد کے جو اس کی زندگی میں تم اس کے ساتھ
رکتی تھیں۔ اے زرقا اب تو اپنی حاجت بیان کر میں اس کو پورا کروں
گا۔ زرقا نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جن کے برخلاف میں نے کوشش
کی ہے ان سے کبھی سوال نہ کروں گی ہاں اگر تو بغیر طلب اور خواہش کے
کچھ دے تو تجھ کو اختیار ہے امیر نے کہا بھیک ہے اور اس کو اور اس کے
ہمراہیوں کو انعام و اکرام اور خلعت دے کر رخصت کیا۔ (ماخوذ)

سید ابن خدیفہ سے منقول ہے کہ مروان نے جبکہ مدینہ کی ولایت
اس کی نامزد تھی ایک لڑکے کو کسی تصور پر قید کیا جب اس کے گھر خبر پہنچی
تو اس کی دادی ام سنان بنت حنیثہ مروان کے پاس گئی اور اپنے پوتے کے
باب میں کچھ گفتگو کی۔ مروان نے نہایت سخت جواب دیا۔ اس پر سیدی
امیر معاویہؓ کے پاس پہنچی اور اپنا حسب و نسب بیان کیا۔ امیر نے اس کو
پہچان لیا اور کہا اے بنت حنیثہ! بہت اچھا ہوا کہ تو آئی مگر یہاں قدم
رنجہ کرنے کا کیا باعث ہوا؟ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ تو ہم پر تبرا کرتی
تھی اور ہمارے دشمنوں کو ہمارے مقابلے میں برانگیختہ کرتی تھی۔ ام سنان
نے کہا۔ سن اے معاویہؓ۔ جد منات کی اولاد کو اخلاق پاکیزہ اور علم وسیع
دیا گیا ہے۔ وہ واقف ہو کر انجان نہیں بنتے اور حلم اختیار کر کے سفارت
اختیار نہیں کرتے اور عفو کے بعد انتقام نہیں لیتے اور اپنے اسلاف کے
قدم بہ قدم چلنا سب سے زیادہ تجھ کو سزاوار ہے۔ امیر نے کہا۔ ہاں
بیشک ہم ایسے ہی ہیں اس کے بعد امیر نے ام سنان کے چند اشعار
پڑھے جن میں علیؓ مرتضیٰ کی مدح و ثنا اور ان کے مخالفین پر تعریضیں کی
گئی تھی۔ ام سنان نے اقرار کیا کہ بے شک یہ اشعار میرے ہیں مگر میں
امید کرتا ہوں کہ تو ہمارے لئے (علی مرتضیٰ کے بعد) اچھا جائزین ہو گا۔
امیر کے ایک جلسے نے ام سنان کے کچھ اور اشعار پڑھے جن سے امیر
کی طبیعت پر اس کی نسبت بڑا اثر ہوا۔ ام سنان نے کہا اے امیر المؤمنین!
مسلمانوں کے دل میں تیری دشمنی پیدا ہونے کے یہی لوگ باعث ہیں ان
کی باتوں کو حقیر جان اور ان کو اپنا مقرب نہ بنا اگر تو ایسا کرے گا تو خدا کا
قرب اور مومنوں کی محبت تیرے ساتھ زیادہ ہوگی تو ہماری رائے اور

ہمارے ولی خیالات سے واقف ہے واللہ علیٰ کوہم تجھ سے زیادہ محبوب رکھتے تھے لیکن تجھ کو بھی اور لوگوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں۔ امیر نے پوچھا۔ کن کن سے؟ کہا مروان بن الحکم اور سعد بن العاص سے۔ امیر نے کہا میں اس محبت کا مستحق تیرے نزدیک کیوں کر ہوا۔ کہا اپنے وسعت علم اور عفو و درگزر کے سبب سے؟

امیر نے پوچھا یہاں کیوں کر آنا ہوا کہا مروان نے مدینے میں ایسے قدم جمائے ہیں کہ گویا کبھی وہاں سے نہ ملے گا نہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے اور نہ شریعت کے موافق فیصلہ کرتا ہے۔ مسلمانوں کی بغزشیں ڈھونڈھتارہتا ہے اور ان کے پردے فاش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ ابھی اس نے میرے پوتے کو قید کیا ہے میں اس کے پاس گئی تھی۔ اس نے کہا تو نے ایسا کیا تو نے ویسا کیا (یعنی بنی امیہ کے خلاف کارروائیاں کیں) میں نے بھی اس کو تپھر سے زیادہ کرحت اور حنظل سے زیادہ کڑوے جواب دیئے اور اپنے تئیں ملامت کی اور دل میں کہا کہ میں کیوں نہ اپنا معاملہ اس شخص کے پاس لے جاؤں جس سے یہ نسبت مروان کے زیادہ عفو و درگزر کی امید ہے پس میں تیرے پاس آئی ہوں تاکہ تو میرے معاملے میں غور کرے؟

امیر نے کہا۔ توقع کہتی ہے میں تجھ سے تیرے پوتے کی صفائی کے متعلق کچھ پوچھنا نہیں چاہتا اور کاتب کو اشارہ کیا کہ رہائی کا حکم لکھ کر اس عورت کو دے دو اور پانچ ہزار درہم زاد راہ کے لئے اور اونٹ سواری کے لئے اس کو دے کر رخصت کیا۔

ابو بکرؓ نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ اطرش بن رواحہ کی بیٹی اپنے
عصا کے سہارے سے امیر معاویہؓ کے دربار میں آئی اور یہ کہہ کر السلام علیکم
یا امیر المؤمنین! بیٹھ گئی۔ امیر نے کہا: لے عکرشہ کیا اب میں امیر المؤمنین
ہو گیا۔ عکرشہ نے کہا ہاں! کیونکہ اب علیؓ زندہ نہیں رہے۔ اس کے بعد
امیر نے کہا کیا تو تلوار حائل کے مصفین میں یہ خطبہ نہیں پڑھ رہی تھی؟ اور
چند فقرے جو اس خطبے میں زیادہ رہ گئے تھے پڑھے جن میں یہ الفاظ بھی
شامل تھے کہ اے ہاجرین و انصار! معاویہؓ تا سمجھ عربوں کو جو نہ ایمان
کو جانتے ہیں اور نہ شریعت کو سمجھتے ہیں ساتھ لے کر تم سے رٹنے کو آیا ہے
ان کو دنیا کا لالچ دیا ہے سو وہ لالچ میں آگئے اور ان کو باطل کی طرف
پکارا ہے سو وہ اس کی طرف دوڑ پڑے ہیں پھر امیر نے کہا میں اس وقت
تجھ کو دیکھ رہا تھا کہ تو گویا اسی عصا کے سہارے کھڑی تھی اور دونوں لشکر
بالاتفاق کہہ رہے تھے کہ یہ اطرش بن رواحہ کی بیٹی عکرشہ ہے اگر اس وقت
تیرے اختیار میں ہوتا تو اہل شام کا قلع قمع کر دالتی مگر جو خدا کو منظور ہوتا
ہے وہی ظہور میں آتا ہے آخر اس جوش کا کیا سبب تھا؟ عکرشہ نے کہا۔
"اے امیر المؤمنین صدقات میں ہمارا حق تھا جو کہ مقدور والوں سے لے جا
رہے تھے اور ہمارے بے مقدوروں پر تقسیم کئے جا رہے تھے سو یہ حق
ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تھا۔ ہمارے شکستہ حالوں کی خبر لی جاتی تھی نہ ہمارے
محتاجوں کی دستگیری کی جاتی تھی پس اگر یہ تیری رائے سے ہوا تھا تو تجھ کو
زیبا نہیں تھا کہ خائونوں سے مدد لے اور ظالموں کو کام سپرد کر دے۔ امیر
نے کہا اے عکرشہ ہم کو رعیت کے معاملات میں ایسے امور پیش آجاتے ہیں
جن کی روک تھام کرنا اور سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عکرشہ نے کہا خدا نے،

ہمارے لئے کوئی حق ایسا مقرر نہیں کیا جس میں دوسرے کا ضرر ہو۔ آخر
امیر نے اس کی خواہش کے مطابق حکم دے دیا۔

—

ابوسبیل تمیمی سے روایت ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیانؓ نے موسم حج
میں بنی کنانہ کی ایک عورت کا حال پوچھا جو جھونپہ میں آکر اترا کرتی تھی
اور جس کو دارمیہ جھونپہ کہتے تھے اور نہایت سیاہ قام اور فریب تھی لوگوں نے
کہا وہ موجود ہے۔ امیر نے اس کو کہلا بھیجا جب وہ آئی تو اس سے پوچھا
”اے دارمیہ تو جانتی ہے کہ تجھ کو کیوں بلایا گیا ہے؟“ اس نے کہا غیب کا
علم تو خدا ہی کو ہے۔ امیر نے کہا ”میں نے تجھ کو یہ پوچھنے کو بلایا ہے کہ
تو کس لئے علیؓ سے محبت اور مجھ سے بغض رکھتی تھی؟“ اس نے کہا ”تو مجھ کو
معاف کرے گا؟ امیر نے کہا ”نہیں“ اس نے کہا ”اگر تو نے معافی سے
انکار کیا ہے تو سن! میں علیؓ کو اس لئے دوست رکھتی تھی کہ وہ رعیت کے
ساتھ انصاف کرتا تھا سب کو استحقاق کے موافق حقوق دیتا تھا، مسکینوں
سے محبت رکھتا تھا اور دین داروں کی تعظیم کرتا تھا اور تجھ سے اس لئے
بغض رکھتی تھی کہ تو اپنے سے افضل کے ساتھ لڑا اور جس کا تو مستحق نہ تھا
اس حق کا طالب ہوا۔ تو نے خوتریزی کرائی، فیصلوں میں نا انصافی کی ہو
نفس کے موافق حکومت کی؟“ امیر نے کہا۔ تو نے اس کو کیسا پایا؟ کہا
”واللہ اس کو حکومت نے تیری طرح فتنے میں نہیں ڈالا اور دولت نے تیرے
طرح اس کو غافل نہیں کیا؟“ امیر نے پوچھا تو نے اس کا کلام بھی سنا ہے
کہا ”کیوں نہیں اس کا کلام تاریکی سے دلوں کو اس طرح جلا کرتا تھا
جیسے تیل برتن کا زنگ چھڑا دیتا ہے؟“ امیر نے کہا ”بے شک تو سچ کہتا ہے“

ہے اگر تجھ کو کوئی حاجت ہو تو بیان کر؟ اس نے کہا: کیا تو اسے پورا کرے گا؟
 امیر نے کہا ضرور۔ اس نے کہا مجھ کو سواونٹیاں سرخ رنگ کی دے جن کے
 ساتھ ان کا ساربان بھی ہو؟ امیر نے کہا: اگر میں یہ اونٹنیاں تجھ کو دوں
 تو بھی میری جگہ تیرے دل میں علیؑ کے برابر ہوگی یا نہیں؟ دارمیہ نے کہا
 سبحان اللہ کیا اس کے سوا دوسرے شخص کی جگہ؟ امیر نے اس کے جواب
 میں دو شوٹ پڑھے۔

• یعنی اگر میں تیرے ساتھ فراخ حوصلگی سے پیش نہ آؤں تو
 پھر میرے بعد کون ہے جس سے امید کی جائے؟ یہ اونٹنیاں
 تجھ کو مبارک ہوں اور یاد رکھ اس شخص کو جس نے تیرے ساتھ
 عداوت کی لڑائی کا معاوضہ صلح کے ساتھ کیا ہے؟ واللہ اگر علیؑ
 زندہ ہوتا تو ان میں سے ایک اونٹنی بھی تجھ کو دیتا۔
 وہ بولی: واللہ اونٹنی تو اونٹنی وہ ایک بلی کا بچہ بھی مسلمانوں
 کے مال میں سے دینے والا تھا؟

شعبی سے روایت ہے کہ معاویہؓ نے کوفے کے والی کو لکھا کہ ام الخنیسر
 بنت حارث بن سراقہ کو سوار کرا کر عزت و احترام کے ساتھ ہمارے پاس بھیج
 دے۔ والی نے فوراً حکم کی تعمیل کی ام الخیر بہت آرام کے ساتھ امیر معاویہؓ
 کے پاس پہنچی امیر معاویہؓ نے اس کو اپنے محل میں اتارا اور چوتھے روز جب کہ
 جلس و مصاحب جمع تھے اس کو بات چیت کے لئے بلایا۔ ام الخیر نے آتے
 ہی کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر نے سلام کا جواب
 دیا اور تعریفاً اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے امیر المؤمنین کے لفظ

سے یاد کیا۔ ام الخیر نے کہا: "اے امیر المومنین بیکل اجل کتاب یعنی ہر
 چیز کی مدت معین ہے امیر نے کہا: "سچ ہے" پھر ادھر ادھر کی باتیں کر کے
 پوچھا کہ عمار یا سر کے قتل کے وقت تو نے کیا خطبہ پڑھا تھا؟ میں نے اس
 کو پہلے سے بنایا تھا اور نہ اس موقع کے بعد کسی کو سنایا یہی چند جملے تھے جو
 صدمے کے سبب ٹپک پڑے تھے لیکن اگر اس کے سوا کوئی اور کلام تو سننا
 چاہے تو میں سناؤں! امیر یہ سن کر مصاحبوں کی طرف ملتفت ہوا اور پوچھا
 تم میں سے کسی کو اس کا وہ کلام یاد ہے ایک نے ان میں سے کہا۔ اے
 امیر المومنین! مجھ کو کچھ کچھ اس میں سے یاد ہے اور اس نے اس بلخ خطبے
 کے چند فقرے امیر کے سامنے پڑھے جن میں لوگوں کو علی مرتضیٰؑ کے فضائل
 و مناقب کا ذکر کر کے ان کا ساتھ دینے اور اہل شام سے لڑنے کی ترغیب
 نہایت پر زور الفاظ میں دی گئی امیر نے ان فقروں کو سن کر ام الخیر
 سے کہا ظاہر ہے کہ اس کلام سے تیرا مطلب میرے قتل کے سوا اور کچھ
 نہ تھا پس اگر میں تجھ کو قتل کر ادوں تو اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔
 ام الخیر نے کہا: "واللہ مجھ کو ہرگز شاق نہیں کہ میرا قتل اس شخص کے ہاتھ سے
 ظہور میں آئے جس کی شقاوت سے میری سعادت متصور ہے" امیر نے کہا
 اے فضول! حضرت عثمان بن عفانؓ کے باب میں تو کیا کہتی ہے۔ ام الخیر نے کہا
 لوگوں نے جب اس کو خلیفہ کیا تو اس سے راضی تھے اور جب اس کو قتل کیا
 تو اس سے ناراض تھے۔ امیر نے کہا: "اے ام الخیر! مدح ایسی ہی ہوتی
 ہے؟" وہ بولی: "خدا گواہ ہے اور اس کی گواہی کافی ہے۔ میرا مطلب اس
 سے حضرت عثمان کی تنقیص نہیں ہے بلکہ وہ سابقین اولین میں سے تھے اور بیشک
 آخرت میں ان کا درجہ بلند ہوگا" امیر نے کہا: "اچھا زبیرؓ کے باب میں

تو کیا کہتی ہے؟ کہا "بھلا میں رسول اللہ صلعم کی پھوپھی کے بیٹے اور ان کے حواری کے حق میں کیا کہہ سکتی ہوں جن کی نسبت خود رسول مقبول نے جنتی ہونے کی شہادت دی ہے؟ اس کے بعد ام الخیر نے کہا "اے معاویہؓ تو قریش میں احلم الناس مشہور ہے میں تجھ کو خدا کی قسم دیتی ہوں کہ مجھے ان سوالات سے معذور رکھا اور ان کے سوا جو تیراجی چاہے سو پوچھ" امیر نے سوالات موقوف کئے اور اس کو معقول زھتناہ دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔

مذکورہ بالا حکایتوں سے قطع نظر اس کے کہ قرون اولیٰ کی عورتوں کی راستبازی اور حق گوئی کما حقہ ثابت ہوتی ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ کے معرکوں میں شریک ہوتی تھیں۔

اپنے صحبوں کا ساتھ دیتی تھیں۔

فریق مخالف کے برخلاف لوگوں کو اکسانے کے لئے نہایت فصیح و بلیغ اور پر زور خطبے خود لکھ کر پڑھتی تھیں۔

خلیفہ کے دربار میں بے جہانہ حاضر ہوتی تھیں۔

بھرے مجمع میں آزادانہ اور بے باکانہ گفتگو کرتی تھیں۔

سب سے بڑھ کر ان حکایتوں سے امیر معاویہؓ کے تحمل و فراخ حوصلگی کا ثبوت ملتا ہے کہ باوجود ہر طرح کے اقتدار و اختیار کے رعیت کے ضعیف ترین فرقے کی ایسی تلخ اور ناگوار باتیں برداشت کی جاتی تھیں اور اعیان دربار کے سامنے ان کو اپنے اوپر اعتراض کرنے کا موقع دیا جاتا تھا امیر کا یہ قول ہے النساء یغلبن الکماہ ویغلبهن اللئام یعنی عورتیں شریفوں پر غالب اور کمینوں سے مغلوب ہوتی ہیں اور اس سے

یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ امیر کا اعراض اور تحمل شاید عورتوں کے ساتھ مخصوص
 ہو لیکن معلوم ہوتا ہے کہ امیر کا یہ برتاؤ عورتوں اور مردوں کے ساتھ
 برابر تھا۔ (تاریخ دمشق)

نبی خولہ بنت ازور

عابدہ زاہدہ اور بہادری میں مشہور آفاق تھیں آپ اپنے بھائی
 ضارکس آذور کے ہمراہ ہر قتل ادم کے لشکر کے مقابلہ پر تیغ آزما ہوئیں
 بھائی گرفتار ہوئے ان کو دشمنوں سے چھڑا لیا۔ آپ بہترین شہ سوار
 تھیں۔ (تاریخ واقدی)

بنت عبد الرحمن

یہ خاتون حضرت قاسم بن محمد کی پوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ
 صدیقہ کے آغوش تربیت پائی۔ محمد بن مسلم شہاب زہری آپ کی خدمت
 میں حاضر ہو کر دینی معلومات حاصل کیا کرتے شہاب زہری لکھتے ہیں کہ
 ”وہ علم کا بحر بیکراں تھیں۔“

(تذکرہ الحفاظ ذہبی)

بی بی عقیقۃ العابدہ

بصرہ کی عارفات سے تھیں۔ حضرت معاذ اور عدومیہ کی صحبت میں بیٹھتی تھیں۔ خوف خدا میں اس قدر روئیں آنکھیں جاتی رہیں۔ وفات آپ کی ۱۸۰ھ میں ہوئی۔

(تاریخ اولیاء ص ۱ ص ۲۶۷)

حضرت شعوانہ

عجمی نژاد تھیں۔ آپ کے وعظ میں عارفان و عابدان و زاہدان شریک ہوتے۔ خوش آواز تھیں۔ شیخ فضیل عیاض ان کے پاس آئے اور دعا کے طالب ہوئے

گفتندی فضیل جہاں تو دعوائے تعالیٰ چیزے ہست کہ
اگر دعا کنم مستجاب شود فضیل عیاض نعرہ بردند و بیہوش
افتادند۔

آپ کی وفات ۱۷۵ھ میں ہوئی۔

(سفینۃ الاولیاء ص ۲۰۷)

بی بی رابعہ بصری

بڑی عارفہ اور کاملہ بی بی تھیں۔ بڑے بڑے اولیاء خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری اکثر مسئلہ پوچھتے۔ ساری رات

نماز میں مشغول رہتیں۔ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کیے گئیں۔ کعبہ سامنے نظر آیا
 آپ نے کہا مجھے گھر کے مالک کی تلاش ہے۔ تمہاری زیارت مقصود
 نہیں۔ آپ کی وفات ۱۸۵ھ میں ہوئی۔ بصرہ میں مزار ہے۔

(تاریخ اولیاء ج ۲ ص ۲۶۸)

دفرہ

یہ محدث عورت طبقہ اول کے ثقہ تابعین میں سے تھی اکثر بصرہ
 میں رہا کرتی تھی۔ محمد بن سیرین نے انہیں سے حدیث روایت کی ہے
 اصحابہ میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ اصحاب کتب سے
 ہر شخص نے اپنی کتاب میں دفرہ سے ایک حدیث ثبت اور استخراج کی
 جس کو اس لائق محدث نے امام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت کیا تھا

ماجدۃ القریشیہ

حضرت امام جعفر صادق کی صاحبزادی تھیں۔ نہایت عابدہ زاہدہ
 عارفہ مشہور تھیں۔ ۱۲۵ھ میں آپ نے انتقال کیا مصر میں مزار ہے۔
 (طبقات الکبریٰ)

نبی اُمیہ کی ایک ملکہ

فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان

اسلام سے پہلے عرب جن تاریکیوں اور جہالتوں کا مرکز بنا ہوا تھا وہ ظاہر ہے معاشرتی، تمدنی، اخلاقی کمزوریاں اس قدر پیدا ہو گئی تھیں کہ وہاں برائے نام انسان رہ گئے تھے اس وجہ سے اس زمانہ کو زمانہ جہالت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تاہم چند وصف اس وقت بھی ان میں ایسے موجود تھے جو بہت ہی اعلیٰ درجہ پر ہر متنفس میں پائے جاتے تھے اور جن پر ان کو فخر کرنا یا اسکل بجا ہے۔ وہ شجاعت، سخاوت، فصاحت تھے مگر ان کا مصرف اکثر اوقات صحیح نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے اس جزیرہ نامی تمام تاریکیوں کو نورانیت سے بدل دیا اور اس کا چہ چہ اخلاق و شرافت سے حلیمکا اٹھا۔

اسلام نے نہ صرف ان کی ولی بیماریوں اور کمزوریوں کو دور کیا بلکہ ان کے اوصاف کو اور زیادہ چمکا یا اور بتایا کہ ان کا صحیح مصرف کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کے دور اول میں نہ صرف مردوں کا بلکہ عورتوں کا نام بھی اخلاق ایماندارہی، قناعت گزارہی، حق پسندی، فراخ تناسی کی بدولت آج تک زندہ ہے اور جن پر اسلام کی تاریخ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ یہ سب اسلام کی سچی اور سیدھی سادھی تعلیم تھی جس نے ان کے دلوں کو پاک جذبات اور صداقت و حق سے لبریز کر کے دُنیا

کے طبع و حرص کے داغ سے ان کا دامن بالکل دھو پاتا تھا اور خاص اوجام سب اس رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔

خلفائے نبی امیہ کی ایک ملکہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کے کچھ حالات لکھے جاتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ اسلام کی تعلیم نے کیا حیرت انگیز خوبیاں ان خواتین میں پیدا کر دی تھیں جن کی مثال کسی اور قوم میں مشکل سے ملے گی۔ فاطمہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور خلیفہ المسلمین حضرت عمر بن عبد العزیز کی نیک دل بی بی تھیں یہ اپنے زمانہ کی نہ صرف ایک نہایت فصیح اور خوش بیان اور یہ تھیں بلکہ نہایت سیر حشیم دنیا کی طرف سے بے نیاز اور شوہر کی نہایت فرماں بردار تھیں جن و جمال کی نعمت کے ساتھ خدانے ان کو اخلاق اور فصاحت، ادب اور قناعت کا ایک محکم ملکر بنایا تھا۔

ان کی خوبیاں صرف چہرہ اور زبان تک ہی محدود نہ تھیں بلکہ وہ نہایت نیک دل بی بی تھیں۔ چنانچہ زندگی میں ایک بار آزمائش کا موقع آیا نبی امیہ کی عورتوں میں یہ اپنی نظیر آپ تھیں، کوئی عورت، خوبی، حسن، خوش کلامی اور نیک خوئی اور اتقا میں ان کے برابر نہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بادشاہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ دولت مند اور مالدار بھی تھیں۔ شادی کے وقت بہت کچھ ہینز میں ماں باپ کے یہاں سے لائی تھیں۔ شوہر کے ہاں بھی ان کے لئے اس کی کچھ کمی نہ تھی۔ چنانچہ نہایت آرام و عیش اور فراغت و اطمینان سے رہنے لگیں۔ مگر جب حضرت عمر بن عبد العزیز چند سال کے بعد دولت خلافت سے سرفراز ہوئے تو اب ان کو اپنا تمام مال و اسباب ذاتی مصارف میں لانا ناگوار گزرنے لگا اور دیکھا کہ خلافت کا یہ بارگراں سر پہ ہے۔ چنانچہ خلیفہ ہوتے ہی اپنی زندگی کا طرز عمل بالکل بدل دیا اور

اپنی شریف بی بی اور مسلمانوں کی ملکہ جناب فاطمہ سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اپنا مال اور دولت اور زیور گہنا، جواہرات وغیرہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرو و کیونکہ یہ سب سامان حقیقت میں انہیں کا ہے اب میں اور تم اور یہ اسباب و سامان سب ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے اگر تمہیں اپنا زیور اور جواہرات عزیز ہیں تو شوہر کے ہاں تمہاری گنہائش نہیں اور جو میرے ہاں تمہیں رہنا ہے تو اس سب سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ جناب فاطمہ کی ذات میں جو خوبیاں قدرت نے ودیعت کی تھیں ان کو ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں وہ ایک خلیفہ کی بیٹی اور ایک خلیفہ کی بیوی تھیں۔ یہی فخر و اعزاز ان کے لئے کیا کم تھا، مال و دولت جو ہاتھ کا میل اور دھلتی چھاؤں ہے۔ ان کی دانائی اسے محبوب کہنے کی اجازت کب دے سکتی تھی۔ گو ان کی زندگی کا بڑا حصہ عیش و آرام اور ہر طرح کی دولت و مسرت میں گذرا تھا مگر شوہر سے بڑھ کر کوئی دولت ان کی نظروں میں نہ سائی انہوں نے اسی وقت نہایت خندہ پیشانی اور خوشی کے ساتھ مال و زیور وغیرہ جو کچھ تھا سب مسلمانوں کے بیت المال میں پہنچا دیا اور شوہر کی مرضی کو تمام دنیا کی دل پذیر چیزوں پر ترجیح دی کہ اب ان کے پاس چاندی اور سونے کی قسم سے کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی مگر اس کا ان کو بال برابر بھی ملال نہ تھا اور وہ اسی طرح خوش تھیں جس طرح زمانہ خلافت سے پہلے دولت و عیش میں دل شاد رہا کرتی تھیں باوجودیکہ دنیا نے اسلام کی خلافت اور تمام اسلامی ممالک کی عنان ان کے شوہر کے ہاتھ میں تھی مگر اب فاطمہ وہ دنیاوی عیش و آرام میں لطف و مسرت سے زندگی گزارنے والی بی بی نہ تھیں بلکہ اب وہ نہایت عسرت و تکلیف سے گزارا وقت کر رہی تھیں اور ذرا بھی ان کی پیشانی پر رنج و تردد کی شکن تک نہ

آئی تھی۔ جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے وفات پائی اور خلافت ملکہ فاطمہ کے بھائی یزید ابن عبدالملک کے ہاتھ میں آئی تو ایک روز اس نے اپنی عزیز بہن سے باتوں باتوں میں کہا مجھے افسوس ہے کہ عمر نے تم پر بہت ظلم کیا اور تمہارا سب مال و دولت چھین کر بیت المال میں داخل کر دیا اب میں وہ سب ماں بیت المال سے لکھوا کر تمہارے پاس پہنچائے دیتا ہوں۔ یزید کو خیال نہ کہ میری بہن فاطمہ وہی فاطمہ ہے جو ثنادی سے قبل عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے پہلے عیش و نشاط سے پرہ ور تھی۔ وہ سمجھا کہ ابن عبدالعزیز نے جو کچھ سلوک خلیفہ ہو کر میری بہن کے ساتھ کیا یہ اس کی مرضی کے بالکل خلاف اور میرے ظلم پر مبنی تھا۔ لیکن فاطمہ وہ فاطمہ نہیں تھیں، وہ تمام مسلمانوں کی مادر مہربان اور ایک ذمہ دار خلیفہ کی بیوی ہو چکی تھیں وہ اپنی اولاد کا مال کیوں کر اپنے ہاتھ میں لانا پسند کر سکتی تھیں۔ چنانچہ اسی وقت انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، ہمیں کی قسم ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کی زندگی تک فرماں برداری کی ان کی وفات کے بعد اب ان کی نافرمانی کروں۔ دولت و مال میرے کسی کام کا نہیں، شہر کی مرضی میرے لئے سب سے بڑی نعمت ہے۔ آخر یزید نے ان کا سارا مال و اسباب جو بیت المال میں داخل ہو گیا تھا لکھوا کر ان کے عزیزوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن فاطمہ نے ایک جہہ بھی لینا قبول نہ کیا اور اپنی بقیہ زندگی زہد و عبادت پر سیرگاری اور خدا ترسی میں بسر کی یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے انہیں بھی دنیا سے جدا کر کے ہمیشہ کے لئے اپنے نیک دل شوہر سے

ملا دیا۔ ماخوذ

ملکہ خیزران

شرق کی یہ ایک عظیم خاتون ان مایہ ناز عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنی عظمت کے نقوش دوام جریدہ عالم پر ثبت کر دیئے۔ یہ خاتون نہایت معمولی حیثیت سے ترقی کر کے امارت و سلطنت کے بلند ترین مناصب تک پہنچی اور ایک دور ایسا بھی آیا جب اس کی ذات سیاست ملکی کا محور بن گئی۔ اس الوالعزم خاتون کا نام ملکہ خیزران تھا۔ خیزران عربی میں بید کی چھڑی کو کہتے ہیں یہ خاتون یمن کے مقام جرش کی رہنے والی تھی اور ابھی کمسن ہی تھی کہ بردہ فروشوں کے ہاتھ آگئی اور وہ اسے بغداد لے آئے جب مشہور عباسی خلیفہ مہدی بن منصور نے جو اس وقت صرف شہزادہ تھا اس کمسن لڑکی کو دیکھا اور اس سے گفتگو کی تو وہ اس کے بے مثال حسن و جمال اور عقل و فہم سے بے حد متاثر ہوا اور اسے ایک لاکھ درم میں خرید لیا۔ شاہی محل میں داخل ہونے کے بعد خیزران کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ خلیفہ مہدی نے اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ انتظام کیا اور اس عہد کے لائق اساتذہ کو اس کی تعلیم پر مامور کیا۔ علم حدیث میں وہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیت حضرت امام اذہبی کی شاگرد تھی۔

چند ہی سال میں خیزران نے عربی ادب، حدیث، تفسیر اور تمام علوم مروجہ میں مہارت حاصل کر لی۔ شاعری کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیعت فرمایا تھا۔ سن بلوغت کو پہنچتے پہنچتے وہ خلیفہ مہدی کے دل و دماغ پر اپنے حسن و جمال، ذہانت و قنانت، علم و فضل و پاکیزہ اخلاق کا سکہ جما چکی تھی آخر

ہمدی نے اسے ملکہ سلطنت کے حملہ صفات سے متصف پا کر اس سے شادی کر لی۔

۱۷۱۰ء میں جب خیزران ہمدی کے ساتھ ایران کے مشہور شہر "رے" میں مقیم تھی۔ اس کے بطن سے پہلا لڑکا ہادی پیدا ہوا جو ہمدی کی وفات کے بعد سلطنت عباسی کا حکمران بنا۔ ہادی کی پیدائش کے دو سال بعد دوسرا لڑکا پیدا ہوا جو ۱۷۱۰ء میں ہارون الرشید کے لقب سے سریر آرائے سلطنت ہوا اس طرح خیزران کو دینائے اسلام کے دو بڑے حکمرانوں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔

۱۷۱۰ء تک ہمدی کی حیثیت ولی عہد سلطنت کی تھی لیکن ۱۷۱۰ء میں جب ہمدی خلیفہ ہو گیا تو خیزران کے جوہر بھی نکھر گئے وہ خلیفہ ہمدی پر پہلے ہی حاوی تھی اس کے حکمران ہونے کے بعد سیاست میں بھی دخل دینے لگی۔ سیاسی امور میں اس کی رائے اس قدر بے لاگ اور صاحب ہوتی تھی کہ خلیفہ بھی اس کی اصابت فکر کا اعتراض کرتا اور اس کی رائے قبول کر لیتا تھا دوسرے وہ ہمدی کو بے حد محبوب تھی اس لئے بھی اس کی ہر بات مان لیتا تھا مورخین کا بیان ہے کہ خیزران کا ہمدی پر اسی قدر اثر تھا کہ وہ جن لوگوں کو چاہتی سلطنت کے اہم ترین عہدوں پر فائز کر دیتی تھی اس طرح اراکین سلطنت پر بھی اس کا بڑا اثر و نفوذ تھا۔ وہ بڑی دوراندیش خاتون تھی اور مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پہلے سے پیش بندی کرنا چاہتی تھی۔ ہادی اس کا لڑکا تھا اس لئے مروجہ قاعدہ کے مطابق ہمدی نے اسکو اپنا چالیسین نامزد کر دیا تھا۔ مگر خیزران کو ہادی کے مقابلہ میں اپنے چھوٹے لڑکے ہارون سے زیادہ محبت تھی۔ دوسرے ہادی کے مزاج میں اپنے آپ

کو نمایاں کرنے اور امور سلطنت کو یہ نفس نفیس سرانجام دینے کا مادہ بہت زیادہ تھا اس میں خود سری بھی تھی اور وہ اپنی رائے کے مقابلے میں کسی دوسرے کی رائے کو وقعت نہ دیتا تھا خواہ وہ کتنی ہی محترم ہستی کی رائے کیوں نہ ہو لیکن ہارون نے اس قسم کی طبیعت نہ پائی تھی۔

خیزران فطرتاً اقتدار پسند واقع ہوئی تھی۔ ہمدی کے عہد حکومت میں اسے سیاسی امور میں جو دخل حاصل تھا اس نے خیزران کی اقتدار پسند طبیعت کے لئے ہمیشہ کا کام کیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ہمدی کے بعد ایسا خلیفہ بنے جو اس کی مٹھی میں ہو۔ ہارون ہمدی کے مقابلے میں اپنی ماں کا زیادہ فرمانبردار اور اطاعت گزار تھا اس لئے بھی خیزران ہارون کی دلی عہدگی کی خواہشمند تھی لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہمدی کا مسئلہ اس کی حسب منشا طے نہ ہو سکا تو اس نے امرائے سلطنت سے ربط و منصب بڑھاتا شروع کیا تاکہ ہمدی کے بعد مسند خلافت پر بیٹھنے والا شخص اس کا دست نگر ہو کر رہے اور وہ ہمدی کو بھی اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی تحریک کرتی رہتی اور آخر کار اس نے ہمدی کو اس امر پر آمادہ کر لیا کہ وہ ہارون کو اپنا اور ہمدی کا جانشین مقرر کر دے خلیفہ ہمدی اپنے اس فیصلے کے زخماؤں کے لئے جرجان روانہ ہوا جہاں ہمدی مقیم تھا مگر قدرت کو منظور نہ تھا اور اٹناٹے راہ ہی میں ۱۶۹ھ میں اس کا انتقال ہو گیا۔

خیزران کے تدبیر اور فراست کے امتحان کا یہ بڑا نازک وقت تھا ایک طرف اس کی ذاتی خواہشات اور ذاتی مفادات تھے جن کا ہمدی کی خلافت میں محفوظ رہنا غیر یقینی تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی شان و شوکت اور اس کا اقتدار خطرے میں ہے دوسری طرف سلطنت کے وقار اور مسلمانوں

کی حکومت کی بقا کا سوال تھا۔ اگر وہ ہارون اور اس کے اہل بیت اور اس ہند
 کے مشہور سیاست دان پٹی برکی دامرائے سلطنت اور سرداران فوج کو ملا کر
 بغاوت کر دیتی تو ایک طرف قطعی کامیابی بھی مشتبہ تھی اور دوسری طرف
 مسلمانوں کی حکومت میں انتشار و زلزل پیدا ہو جاتا اس لئے اس نے بڑی
 فراست سے کام لیا اور اپنے ذاتی مفادات پر ملکی مفادات کو ترجیح دی۔ اس
 نے ہارون کو ہدایت کی کہ وہ فوراً ہادی کو خط لکھ کر اس واقعہ کی اطلاع
 دو اور اس سے درخواست کرے کہ وہ جلد سے جلد دارالخلافہ پہنچ کر اپنی بیعت
 لے اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ خلیفہ ہدی کی وفات کی خبر سنتے ہی بغداد
 میں بغاوت ہو گئی اور فوج کا ایک حصہ باغی ہو گیا۔ خیزران کو اپنے منصوبے
 کو عملی شکل دینے کا ایک اور موقعہ نکل آیا تھا مگر اس نے اپنی دوراندیشی سے
 یہ نتیجہ نکال لیا کہ اگر اس موقعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی تو یہ مفید
 ہونے کی بجائے اٹانقصان دہ ثابت ہو گا اور ہادی یہ خیال کرے گا کہ
 خیزران اور ہارون نے سازش کر کے بغاوت کرائی ہے اس لئے وہ دونوں
 سے بدظن ہو جائے گا اور ممکن ہے انتقام لینے پر بھی تل جائے۔
 چنانچہ اس نے بڑی ہوشیاری اور مستعدی سے کام لے کر سرداران
 فوج کو اپنے حضور طلب کیا اور انہیں زر کثیر دے کر کہا کہ باغی فوج کو دو ماہ
 کی پیشگی تنخواہ ادا کر دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو بغاوت فرو ہو گئی
 دوسری طرف فوج اور اس کے سرداروں پر خیزران کے حسن سلوک قیاضی
 اور شفقت کا نہایت خوش گوار اثر پڑا۔ تیسری طرف ہادی کے دل میں اپنی
 ماں اور بھائی کی طرف سے جو شبہات تھے وہ زائل ہو گئے اور دونوں کو
 اپنا خیر طلب سمجھنے لگا۔

اس طرح خیزران کی سیاست نے ہادی کو اس کا نیاز مند بنا دیا اور وہ سارا اقتدار اپنی ماں کے حوالے کر کے سیر و شکار اور عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا۔ اب خیزران کا محل عوام و خواص کا مرجع بن گیا۔ فوج کے سالار، انتظامیہ کے حکام، قبائل کے سردار اور اکین دربارہ سائل اور مصیبت زدہ لوگوں کی بھینٹ اس کے محل کے دروازے پر لگی رہتی سلطنت کے تمام امور اس کے سامنے پیش ہوتے اور وہ ان کے متعلق نہایت عاقلانہ فیصلے کرتی لیکن انسوس یہ صورت حال زیادہ دنوں قائم نہ رہ سکی مشکل چار ماہ گزرے تھے کہ ہادی کا دل سیر و شکار اور عیش و عشرت کی زندگی سے اکتا گیا اور وہ ملکی انتظام و انصرام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اقتدار دو ہاتھوں میں آ گیا ایک طرف خیزران اپنے مفادات اور اپنی منشاء کے مطابق کام کرنا چاہتی تھی دوسری طرف ہادی تھا جو حکومت کرنے کے جذبے سے سرشار تھا۔ جب وہ خیزران کے محل کے سامنے لوگوں کا اثر و ہام دیکھتا تو دل ہی دل میں کڑھتا اور خیال کرتا کہ میں تو نام کا خلیفہ ہوں اصل اقتدار میری ماں کے ہاتھ میں ہے۔

اسی دوران ایک بڑے عہدیدار کے تقرر کے سوال پر خیزران اور ہادی کے درمیان تنازعہ ہو گیا۔ اس موقع پر ہادی نے سختی اور جرأت سے کام لیا اور اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس کا تقرر میری منشاء کے مطابق ہوگا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر ہادی نے ایک تقریر کی جس میں دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اب آپ عمر کی اس منزل سے گزر رہی ہیں جب کہ گوشت مانیت میں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں۔ چلتے وقت اس نے ماں کو بتایا کہ اگر آج کے بعد میں نے آپ کے دروازے پر امرائے سلطنت میں سے کسی

کو دیکھا تو بے دریغ اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی طرح اس نے امرائے
دربار و اراکین سلطنت کی سرزنش کی اور خیزران کے پاس ان کی آمد و رفت
بند کر دی۔

اس کے بعد خیزران کا عمل دخل حکومت سے بالکل ختم ہو گیا اور وہ
گوشہ گنہگامی میں زندگی گزارنے لگی مگر اس کی گنہگامی اور امور مملکت سے
بے تعلق کا زمانہ بہت مختصر ثابت ہوا یعنی صرف آٹھ ماہ کیونکہ کم و بیش ایک
سال حکومت کرنے کے بعد ۱۱۸۷ھ میں ہادی کا انتقال ہو گیا اور ہمدی
کی وصیت کے مطابق ہارون خلیفہ ہو گیا۔

ہادی کے انتقال کے بعد خیزران کو پھر امور مملکت میں دخل ہونے
کا موقع مل گیا۔ ہارون الرشید نے خلیفہ ہوتے ہی سارے اختیارات
مال کے سپرد کر دیئے اس نے بھی برہمنی کو اپنا وزیر مقرر کیا اور اسے ہدایت
کر دی کہ جملہ امور میری والدہ کے مشورہ سے فیصلہ کیا کرو۔ چنانچہ بھی اپنے بیٹوں
فضل اور جعفر سے مشورہ کرتا اور پھر آخری فیصلے کے لئے کاغذات خیزران
کے پاس بھیج دیتا۔ خیزران جو احکام جاری کرتی۔ یہی ان پر دستخط کر دیتا اب
وہ عالم اسلام کی مطلق العنان فرمانروا تھی اور بڑی شان و شوکت سے
حکومت کرتی تھی۔

مورخین نے اس کی شان و شوکت کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے معلوم
ہوتا ہے کہ وہ نہایت عالی شان محل میں رہتی تھی جو اس کے نئے خلیفہ ہمدی
نے بنوایا تھا اس محل کا نام "اساس" تھا اور وہ اس محل کے سب سے شاندار
کمرہ میں پس پردہ دربار کرتی تھی دائیں بائیں بنو ہاشم کی معزز خواتین ہوتی تھیں
پیچھے زرین کمر کنیزیں منگلی تلواریں لئے استادہ ہوتی تھیں۔ اراکین سلطنت،

عائدین شہر، سرداران قوج اور مالک غیر کے دفو اس کی خدمت میں باریاب ہوتے تھے ہر ایک کے ساتھ وہ نہایت شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ گفتگو کرتی ان کی عرضداشتیں سنتی اور مناسب احکام صادر کرتی۔ اس کی دولت کی کوئی انتہاء تھی۔ اس کی ذاتی آمدنی کا اندازہ سولہ کروڑ روپہم سالانہ لگایا گیا ہے وہ دولت کو صرف جمع ہی کرنا نہ جانتی تھی۔ اس کی فیاضی مشہور تھی۔ غریبوں کے ساتھ ساتھ علماء اور شعرا پر بھی انعام و اکرام کی بارش کرتی وہ محل سے باہر جب نکلتی تو اس کی شان و شوکت دیکھنے کے قابل ہوتی۔ آگے آگے مناد منادی کرتے چلتے کہ امیر المؤمنین کی والدہ محترمہ کی سواری آرہی ہے۔ صدمہ سوار اور پیدل سپاہی تلواریں ہوا میں لہراتے اس کے پیچھے ہوتے۔ لوگ دورویہ کھڑے ہو جاتے اور نگاہیں احترام سے جھک جاتیں وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے بڑی نیک تھی۔ اگر کسی وقت کوئی سخت جملہ اس کے منہ سے نکل جاتا تو وہ فوراً اپنی اصلاح کرتی بلکہ حتی الامکان تلافی کی کوشش کرتی۔ افسوس کہ مصیبت کا زمانہ گزرنے کے بعد جب اقبال کے دن آئے تو خیران کی عمر نے وفات کی اور ہارون الرشید کی خلافت کے تیسرے سال جمادی الثانی ۱۹۳ھ کو اس بلند ہمت بلند اختر اور دانشمند خالوان کا انتقال ہو گیا۔ خود ہارون الرشید جنازے کے ساتھ مہری کا پایہ پکڑے ننکے پاؤں چل رہا تھا اور اس کی آنکھیں فرط غم سے اشکیار تھیں۔

—————

—————

زبیدہ خاتون

امۃ العزیز ملقب بہ زبیدہ خاتون جعفر بن منصور عباسی کی بیٹی اور خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی کا نام ہے۔ یہ ہارون الرشید کی سب سے ممتاز اور پیاری بیوی تھی۔ ہارون کے اگرچہ چھ نکاح ہوئے تھے مگر شرافت نسب اور دیگر خصوصیات میں کوئی بیوی زبیدہ کے ہم پلہ نہ تھی کیونکہ زبیدہ کا چچا ہمدی خلیفہ تھا۔ باپ کو اگرچہ خلافت میر نہیں ہوئی مگر ابن خلیفہ ہونے سے کس کو انکار ہو سکتا ہے اور پھر جس کے ساتھ عقد ہوا وہ حلقائے عباسیہ میں واسطۃ العقد کا درجہ رکھتا ہے۔ زبیدہ ہنوز شیر خوار تھی کہ ۱۵۰ھ میں یتیم ہو گئی۔ جب یہ اپنی ماں کے ساتھ قصر خلافت بغداد میں داخل ہوئی تو ابو جعفر منصور نے پوتی کی پرورش شروع کی اور چونکہ یہ بچی نہایت خوبصورت اور نازک اندام تھی اس لئے پیار میں اس کا نام زبیدہ رکھا جو اصلی نام (امۃ العزیز) پر غالب آ گیا۔ ۱۶۵ھ میں زبیدہ کے چچا ہمدی عباسی نے اپنے بیٹے ہارون الرشید سے عقد کر دیا۔ چنانچہ پانچ سال کے بعد یہ محرم خاتون جو پہلے بہو کی حیثیت رکھتی تھی اب ملکہ بن کر ہارون کی جان و مال کی مالک ہو گئی۔ یہ جوڑا باہمی محبت اور اطاعت شعاری میں فرو مانا جاتا ہے مگر باد جو وہ پیتی بیوی ہونے کے زبیدہ نے کبھی سیاسی امور میں دخل نہیں دیا۔ رشید کا محل سرکیشیا اور جاہ جیا کی کنیزوں کی بدست راہ اندر کا اکھاڑ

۱۔ لغت عرب میں اس لکڑی کو کہتے ہیں جس سے ستھ کر مکھن نکالا جاتا ہے

معلوم ہوتا تھا اور بعض کنیزیں رشید کی منظور نظر تھیں مگر زبیدہ نے کسی کو کبھی رشاک کی نظر سے نہیں دیکھا اور رشید نے اس کی سرداری کو سب پر قائم رکھا۔ زبیدہ خاتون کی ولی عہد سلطنت (شاہزادہ امین الرشید) کی ماں ہونے کی حیثیت سے بھی خاص عظمت تھی۔ زبیدہ کے مصارف کے لئے بیت المال وقف تھا۔ مختصر یہ ہے کہ ہارون الرشید کی حیات میں ۲۸ برس تک زبیدہ نے بڑے عیش و آرام سے گزارے۔ جب ۱۹۱ھ میں ہارون کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کی پناہ میں آگئی لیکن ۱۹۸ھ میں جب مامون الرشید اور امین الرشید میں تخت و تاج کے لئے خانہ جنگی ہوئی اور امین الرشید عین عالم شباب میں قتل ہو گیا تو زبیدہ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مامون اگرچہ زبیدہ کا سوتیلا بیٹا تھا مگر اس نے بھی زبیدہ کے ادب و احترام میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا اور مصارف کے لئے بیت المال سے ایک گراں قدر رقم مقرر کر دی۔

زبیدہ خاتون کی ایجاد پسند طبیعت نے نظام خانہ داری میں بہت سی اصلاحیں کیں اور زریب و زینت کے بہت سے سامان بڑھا دیئے۔ چنانچہ عنبر کی شمعیں اور جواہر کی مرصع جوتیاں اسی کی ایجاد ہیں۔ چاندی، آہوس اور منڈل کے قبے سب سے پہلے زبیدہ خاتون نے تیار کرائے اور ان کو دیبا و سمور اور مختلف رنگ کے حریر سے آراستہ کیا۔ زمانے کی طرفوں کی ساخت میں یہاں تک ترقی ہوئی کہ زبیدہ کے استعمال کے لئے ایک ایک تھان چپاس اشرفی میں تیار ہوا۔ یہ تو زبیدہ کے عیش و طرب کا حال تھا۔ اب اس کو مذہبی رنگ میں دیکھو تو معلوم ہو گا کہ رابعہ بصری، مصلیٰ پور، سجود ہیں جرم میں ایک سو کنیزیں حافظ قرآن تھیں جن میں سے ہر ایک کو روزانہ دس پارہ

پاسے ستانے پڑتے تھے۔ جب یہ کنیزیں تلاوت قرآن میں مصروف ہوتی تھیں تو معلوم ہوتا تھا کہ شہد کی مکھیاں گنگنا رہی ہیں۔

ابن جوزی کی روایت ہے کہ شہر مکہ میں پانی کا قحط رہتا تھا ج کے زمانہ میں ایک مشک پانچ روپیہ کو آتی تھی اس لئے زبیدہ نے پچاس لاکھ روپیہ صرف کر کے بارہ میل کے فاصلے سے ارض حجاز میں ایک نہر جاری کی جس کے فیض سے ہر گھر میں چشمے بہنے لگے اس نہر کا نام عین الماس تھا جو اب نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہے اسی فیاض بیگم نے ستر سال کی عمر میں بروز ثنبہ یہ ماہ جمادی الاولیٰ مقام بغداد ^{۲۱۵ھ} _{۸۳ھ} میں انتقال کیا۔ زبیدہ نے ^{۲۰۵ھ} (عہد یامون الرشید) میں حج بیت اللہ کیا اور اس سفر میں نہر زبیدہ کے علاوہ دوسرے امور خیر میں ستر لاکھ اشرفیاں خرچ کیں مکہ معظمہ کی طرح بیت المقدس کے راستہ میں بھی اس نے ایک نہر نکالی جو کوہ لبنان کے ایک چشمہ سے نکل کر بیروت اور وادی مکس تک آتی ہے۔ عراق اور شام میں زبیدہ خاتون کی از قسم مساجد و رباط و غیرہ متعدد یادگاریں ہیں جو زبیدہ کے نام سے مشہور ہیں۔

شہزادی الکنزہ امویہ

خلیفہ الحکم کی بہن اور خلیفہ ہشام کی دختر نیک اختر علم و فضل میں یگانہ تھی اس کی شادی شہزادہ اصف ابن عجم سے ہوئی۔ اصف سے الحکم کسی بات پر بگڑ گئے۔ اس خاتون نے بھائی سے کہا۔ باہمی اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ بہن کو طلاق دلا کر پہلو میں بٹھالو اور تمام عمر میرے غم میں مبتلا رہو۔

الحکم نے یہ سن کر بہنوئی سے صفائی کر لی۔ الکنزہ خواتین بنی امیہ میں بلند پائے رکھتی تھی۔ ۲۲۵ھ میں اس ملکہ نے وفات پائی۔

شہزادی عائشہ امویہ

شہزادہ احمد کی دختر تھی۔ اندلس کی مشہور شاعرات میں شمار تھا۔ آپ کا علمی دربار لگتا۔ اس کے سوا بے مثل خطیبہ تھی۔ آپ کا کلام تاریخ اندلس میں محفوظ ہے۔

شہزادی ولیدہ

خاندان موحدین کی چشم چراغ تھی۔ خوبی جمال شاعری اور علم بلاغت و بیان میں شہرت تھی۔ علما کی مجلس اس کے یہاں اکثر شب جمعہ کو رہتی۔

ام سعد

ام سعد قرطبہ میں پیدا ہوئی۔ علمی گھرانہ سے تعلق رکھتی تھی۔ معاصر محدثین سے علم حدیث کی تحصیل کی۔ بعد تحصیل حدیث خود درس حدیث دینے لگی۔

(سلاطین اندلس)

رابعۃ العدویہ

اسمعیل العدویہ کی دختر نیک اختر تھی۔ نہایت عابدہ و زاہدہ اور پاک
طہیت عورت تھی۔ امام ابوالقاسم القیصری اپنے ایک رسالہ میں تحریر فرماتے
ہیں کہ رابعہ اکثر اوقات مناجات میں یہ کلمہ کہا کرتی تھی۔
”الہی وے کہ ترا دوست دار د آیا اور آتش سے سوزانی“

ایک مرتبہ اس کے کان میں اس کے اس حسرت بھرے جملہ کا یہ جواب سنا
دیا۔ ”وطن بد مبر کہ پروردگار رحیم این کار نمی کند“

خلاصہ یہ کہ رابعہ دل کی صفائی اور کمالات نفس میں بہت سے لوگوں
پر فوقیت رکھتی تھی۔ لوگوں نے اس کی صداقت، دیانت داری، حقانیت
عرفان اور شہود کی وجہ سے تاج الرجال کا لقب دیا تھا۔ زہد تقویٰ اور تقدر
میں اتنی شہرت حاصل کی کہ ضرب المثل تھی۔ (نفحات)

اخت المزنی

یہ محدثہ خاتون ابو ابراہیم المزنی کی بہن ہیں جو اصحاب شافعی میں
تھے۔ کتاب ”مختصر طبقات“ میں لکھا ہے کہ اس نام کی بہت سی عورتیں
علم فقہ میں کامل گزری ہیں اور ان میں سے اخت المزنی بھی ہیں۔
وہ لائق و فائق عورت ہے جس نے زکات معدن کے مسئلہ میں امام شافعی
کے فتوے کی اصلاح کی تھی اور اس میں ایک شرط اور بڑھائی تھی۔ یہ

خاتون اکثر امام شافعی کی مجلس میں حاضر ہوتی تھی۔

حضرت نفیسه

حسن بن زید کی صاحبزادی تھیں۔ مصر میں قیام تھا۔ محدثہ تھیں۔ حضرت امام شافعی نے مصر جا کر ان سے حدیث کی سند لی۔ ان کے شوہر کا نام اسحاق بن جعفر تھا۔ وفات آپ کی رمضان ۲۰۸ھ میں ہوئی۔ درج سباع میں دفن ہوئیں یہ قریب مصر اور قاہرہ کے درمیان ہے۔

(سفینۃ الاولیاء ص ۲۰۹)

حضرت فاطمہ نیشاپوری

عارفات سے تھیں۔ قرآن مجید کی تفسیر بیان کیا کرتیں۔ مکہ معظمہ کی مجاورت کی، بیت المقدس کی زیارت کی۔ حضرت شیخ بایزید بسطامی فرماتے تھے تمام عمر میں ایک مرد اور ایک عورت دیکھی۔ مردوں میں ذوالنون مصری ہیں عورتوں میں فاطمہ تھیں۔ آپ کی وفات ۲۲۰ھ میں ہوئی۔

ملکہ زہرا

خلفائے اندلس میں عبدالرحمن ثالث بڑا صاحب اقتدار فرما کر وہاں اس کا عہد مدلولت عہد زریں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی ملکہ زہرا

تھی جو حسن و جمال کے علاوہ امور مملکت میں عبدالرحمن کو مفید مشورہ دیتی اس کی علمی بیباکتی کی وجہ سے عبدالرحمن اس پر فدا تھا چنانچہ قہر زہرا اس کی خوشنودی کے لئے تعمیر کیا گیا۔ ۳۳۵ھ کے بعد اس محترم خاتون کی وفات ہوئی۔

حضرت ام عیسیٰ

ابراہیم حربی کی صاحبزادی تھیں۔ عارفات کاملین میں شمار ہے۔
فقہ میں آپ کی ایک تصنیف ہے
آپ نے ماہ رجب ۳۲۸ھ میں وفات پائی۔

حضرت میمونہ واعظہ

آپ کے والد کا نام شاقولہ تھا یہ حافظ قرآن مجید تھیں۔ آپ کی وفات
کی مجلس میں کثرت سے لوگ شریک ہوتے تھے ۳۹۹ھ میں آپ نے
وفات پائی۔ (سفینۃ الاولیاء ص ۲۱۴)

حضرت امتہ السلام

والد کا نام قاضی ابوبکر بن کامل بن خلف تھا صاحب درس تھیں
محمد بن اسماعیل بصلانی و قزوینی، زاہدی۔ ابوالکلام آپ کے تلامذہ سے تھے۔
۳۹۰ھ میں وفات پائی۔

فاطمہ بنت اسرار بولوی دقاق

یہ خاتون علوم شرعیہ میں بلند پایہ عالم اور عالی مرتبت محدث تھیں۔
آپ کے

بطن سے چند فرزند تھے۔ عبدالمنعم۔ ابوالنصر۔ عبدالرحیم۔ ابوسعد۔ ابوسجید۔
ایک صاحبزادی امۃ الرحیم تھیں۔ ہر ایک بڑے عالم و محدث بنے۔ ابولوی
دقاق کا انتقال ۳۱۲ھ میں ہوا۔

جناب فاطمہ صاحب درس تھیں۔ آپ کے درس کا ذکر حافظ الحدیث
عبدالفاخر نے کیا ہے۔ اہل تہذیب نے آپ کے نواسہ تھے ابن خلکان نے آپ کے
تذکرہ میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے نانا امام قشیری اور اپنی نانی فاطمہ
اور ماموں سے حدیث پڑھی اور سنی۔

امۃ الرحیم بنت ابوالقاسم عبدالکریم

امۃ الرحیم بنت امام قشیری یہ اپنی والدہ اور والد کی شاگرد و علوم
شرعیہ میں تھیں۔ اسمعیل بن عبدالفاخر بن محمد الفارس سے منسوب تھیں
جو علمائے عہد سے تھے۔ یہ خاتون بھی صاحب درس تھیں۔

(شرح رسالہ قشیریہ ص ۱۷)

بیتنا

حضرت ام محمد

شیخ ابی عبداللہ خفیف قدس سرہ کی والدہ تھیں۔ انہوں نے سفر حج میں رمضان کے مہینہ میں انوار شب قدر کی زیارت کی۔

(سفینۃ الاولیاء ص ۲۱۳)

حضرت ام محمد

محمد بن علی بن عبداللہ کی دختر نیک اختر تھیں۔ ابن سمعون کی صحبت سے فیض پایا۔ صدق و صلاح و زہد و ورع میں بے نظیر تھیں۔ بچہ ۸۶ سال تکہ میں واصل بحق ہوئیں۔

بی بی سیدہ خدیجہ واعظہ

غوث الاعظم کے والد ماجد کی بہن تھیں۔ ایک سال جیلان میں قحط پڑا۔ اہل قریہ آپ کے پاس آکر طالب دعا ہوئے۔ آپ نے دعا کی۔ پانچ ماہ بعد اس سال دو چاند غم پیدا ہوئے۔ ۴۵۵ھ میں وفات پائی۔

(تاریخ اولیاء ص ۴۳)

بی بی فاطمہ واعظہ بنت حسین بن حسن

معاصر علمائے اکتساب علم کیا۔ آپ ہمیشہ عبادت الہی میں مستغرق رہیں۔ آپ کا روزانہ کاموں تھا کہ اپنے مکان پر نساء عارفات کو جمع کر کے

کا درس فرماتیں۔ تذکرۃ النساء میں ہے کہ آپ نے ۵۲۱ھ میں وفات پائی۔

فاطمہ بنت نصر بن عطار

آپ بڑی عالمہ و فاضلہ تھیں۔ زہد و ریاضت و مجاہدہ میں مقام بلند تھا۔ تاریخ اولیا میں ہے کہ ساری عمر میں تین دفعہ گھر سے باہر نکلی ہیں ورنہ تمام زندگی گوشہ میں گزار دی۔ ۶۵۲ھ میں آپ نے وفات پائی۔

نبی بی اولیا

اجارا الاخیر میں ہے یہ بڑی عابدہ خاتون تھیں۔ سلطان محمد تغلق ان کا معتقد تھا۔ ۶۵۵ھ میں واصل بحق ہوئیں۔

ام الفتح

یہ مشہور و معروف محدثہ احمد بن کامل خلف بن شجرۃ بن منظور الشجری البغدادی کی لڑکی تھیں۔ علم حدیث میں ان کو اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ ان کا لقب ابنتہ السلام پڑ گیا۔ حدیث کی تعلیم سے انہوں نے ایک عرصہ دراز تک فلق اللہ کو فیض پہنچایا۔ کافی سن رسیدہ تھیں۔ ۶۵۶ھ میں راہی ملک بقا ہوئیں۔

نبی بی مریم

حضرت بابا فرید شکر گنج روم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ اور بڑی عبادت گزار و سجادہ الدعوات تھیں۔ ۶۴۲ھ میں ان کا وصال ہوا۔

بی فاطمہ سام

بڑی عبادت گزار بی بی تھیں۔ یہ خاتون حضرت نظام الدین اولیا
کی ہم عصر تھیں۔ اخبار الاخیار میں ہے حضرت سلطان المشائخ نے آپ کو
دیکھا تھا اور نیک سخی کی تعریف کی تھی۔
۶۳۵ھ میں انہوں نے وفات پائی۔

(تاریخ الاولیاء ص ۷۹۲)

بی بی سارہ

حضرت شیخ نظام الدین ابوالموئذ کی والدہ ماجدہ بڑی بزرگ عارفہ
تھیں۔ عبادت میں شب و روز مشغول رہتیں۔ دلی میں بارش ایک سال نہ
ہوئی۔ اہل دلی شیخ کے پاس آئے کہ دعائے کعبے کہ قحط سے ہمیں نجات ملے
آپ اپنی والدہ کا کرتہ بخل میں لے کر میدان میں آئے اور دعائے مانگی
الہی بحرمت اس کپڑے کے جو دامن ایک ضعیفہ کا ہے۔ جس پر نامحرم
کی آنکھ نہیں پڑی مینہ برسا۔ اسی وقت بادل نمودار ہوئے اور خوب
بارش ہوئی۔

۶۳۸ھ میں اس بزرگ خاتون نے انتقال کیا۔

بی بی زینبا

والدہ محترمہ حضرت نظام الدین اولیا۔ بڑی عابدہ زاہدہ تھیں آپ
جو دعا کرتیں اللہ قبول فرماتا۔ جمادی الاخرہ ۶۴۸ھ میں وصال بحق ہوئیں۔

ام عاصم

آپ کا نام ایجلونہ تھا۔ رافرق والی اسپین کی بیوہ تھی۔ یہ عبدالعزیز بن موسیٰ بن نصیر کے عقد میں آگئی۔ عبدالعزیز بڑے عبادت گزار اور مجاہد تھے یہ ظاہر مسلمان تھی مگر باطن میں عیسویت سے لگاؤ رکھتی تھی ^{۶۱۶}۔
 میں عبدالعزیز قتل کر دئے گئے۔ یہ بھی کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہوئی
 (سلاطین اندلس)

اسماء بنت محمد

یہ جلیل القدر محدثہ محمد بن صصری کی دختر نیک اختر تھیں جو اعیان دمشق سے تھے۔ یہ ^{۶۲۸} کے آخر میں پیدا ہوئی تھیں انہوں نے برملی ابن ملان محدث سے کئی حدیث کی کتابیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد کئی بار ان کا درس بھی دیا تھا۔ انہوں نے مدت تک اپنی شادی نہیں کی۔ خدا کی اس نیک بندی کے وجود با جو د سے دنیا کو بہت فیض اور برکتیں حاصل ہوئی تھیں۔ یہ بڑی خیرات کرنے والی تھیں۔ بارہا زیارت بیت اللہ شریف سے مشرف ہوئی تھیں۔ ان کے لطف سے شریف محمد ابن اسماء جو اپنے زمانہ کے ایک مشہور و معروف بزرگ گزرے ہیں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بھائی قاضی القضاة مولانا نجم الدین شافعی تھے جنہوں نے ان کی وفات سے دس سال قبل قضا کی۔ ان عالم کے زمانہ میں مشاہیر روایات حدیث سے کوئی بھی ان سے زیادہ معزز نہ تھا۔ ابن وردی مشہور عربی شاعر نے اسماء بنت محمد کی مدح میں اشعار کہے تھے۔

ان کا انتقال ۳۳ھ ذی الحجہ میں ہوا تھا۔

رقیہ

اس محدثہ کے پد بزرگوار محمد بن علی بن وہب القشیریہ تھے۔ یہ عورت مصر کی رہنے والی تھی اور ہمیں اس نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا۔ یہ خدا کی نیک بندی خیر صلاح۔ تقویٰ علم اور فضل میں مشہور تھی۔ تاریخ وفات ۱۴ شعبان ۳۳ھ ہے۔ اس نام کی تین اور محدث عورتیں یعنی رقیہ بنت محمد النعلبی، رقیہ بنت التجمانی۔ رقیہ بنت القاری تھیں۔

ام ہانی مریم

یہ مشہور و معروف محدثہ شیخ نور الدین بن ابوالحسن علی بن قاضی القضاة تقی الدین عبدالرحمن بن عبدالمومن البوری الشافعی کی لڑکی تھیں۔ ان کا ایک لڑکا تھا جو اپنے وقت کا علامہ تھا۔ اس کا نام علامہ صیغ الدین جنتی تھا۔ شعبان کے مہینے ۳۵۸ھ میں پیدا ہوئی تھیں اور ۹۳ برس زندہ رہ کر شب شنبہ سلخ ماہ صفر ۴۱۸ھ کو انتقال ہوا۔ اس ذمین عورت نے قرآن مجید کتاب مکہ منظومہ جو نحو میں ہے اور فقہ شافعی کی کتاب مختصر ابی شجاع کو حفظ یاد کیا تھا۔ ان کے نانا فخر الدین القایانی نے ان کو سات برس کی عمر سے تعلیم دی تھی انہوں نے اپنے زمانہ کے مشاہیر محدثین سے احادیث اور مسائل فقہ سماعت کئے تھے پھر انہوں نے امام سیوطی کو علم حدیث کی تعلیم دی۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب المنعم فی المعجم میں ام ہانی مریم۔ ام ہانی فہم اور ام ہانی بنت ابوالغوارس کا ذکر کیا ہے۔

رابعہ

یہ ایک محدثہ تھیں۔ ان کا ذکر حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں کیا ہے۔ ان کا انتقال ۸۸۳ھ میں ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رابعہ ابن حجر عسقلانی کی لڑکی تھیں جو ۸۱۵ھ میں بمقام مکہ معظمہ شیخ زین الدین ابی ہاشم مشہور محدث کے حلقہ درس میں حاضر ہوتی تھیں۔ بہت سے محدثین مصر و شام سے انہوں نے اجازہ لیا تھا اور شیخ الشیوخ محب الدین ابن الاثیر نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ رابعہ شہر بھی کہتی تھیں۔

رحیب بنت ایبے

یہ لائق محدثہ شہاب الدین احمد ایبے کی لڑکی اور جلال الدین سیوطی کی استاد تھیں۔ اپنی دادی سارہ بنت شیخ تقی الدین اسبلی سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ ان کی پیدائش ۸۸۹ھ اور وفات ۹۶۹ھ میں واقع ہوئی تھی۔

آمنہ محلی

یہ لائق و فائق محدثہ شرف الدین موسیٰ بن احمد بن محمد بن محمد الانصاری کی دختر نیک اختر تھیں۔ ان کے والد بزرگوار اپنے زمانہ کے مشہور و معزز عالم تھے اور خود ان کا شمار اپنے عہد کی نامی گرامی محدثین میں تھا۔ امام جلال الدین سیوطی نے علم حدیث میں ان سے اکثر درس لیا تھا۔

آمنہ کی علمی قابلیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ امام سیوطی جیسے ایک جید عالم کی معلمہ تھیں۔ امام سیوطی آمنہ کی بہت قدر کیا کرتے تھے اور اپنی معلمہ پر ان کو ناز تھا اور اکثر بڑے فخر سے ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بلا و مصر کا ایک محلہ جہاں جلال الدین محلی پیدا ہوئے تھے انہی لائق خاتون کے نام سے مشہور ہے۔

آسیہ

یہ محدث عورت جبار اللہ بن صالح بن ابی المنصور کی لڑکی تھیں جو ۶۹۶ھ میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ امام سیوطی نے علم حدیث کی فیصلت کی پگڑی انہیں کے پاک ہاتھوں سے اپنے سر پر باندھی تھی۔ آمنہ خاتون بنت ثمرت الدین سے امام سیوطی نے جستہ جستہ علم حدیث کے سبق پڑھے۔ مگر ان سے کامل محدث بنے تھے۔ کسی نے سچ کہا ہے۔ اچھی ماں کے پیٹ سے اچھا ہی لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ قاضی مکہ جمال محمد بن الضیاء انہیں لائق محدثہ کے فرزند ارجمند تھے۔

آمنہ بنت علی

اس محدث عورت کے باپ علی بن عبدالعزیز دمشقی تھے۔ وہ اسماء بنت صفوان۔ عبداللہ ابن التائب اور دوسرے محدثین کے جلسوں میں شریک ہوتیں اور علم حدیث پڑھا کرتی تھیں اور خود بھی علم حدیث کی تعلیم دیتی تھیں۔ ابن حجر نے اپنی تصنیفات میں اس محدثہ کا ذکر کیا ہے۔ ۷۹۸ھ میں اس عورت کا انتقال ہوا اور اپنے بعد اپنا جیسا ہم عصر

آغا ملک

یہ لائق محدثہ ابراہیم ابن خلیل ابن محمود کی لڑکی تھیں اور شیخ جمال الدین ابن الشریحی کی بہن تھیں۔ یہ فاضل عورت ابن حجر عسقلانی کی ہم عصر تھیں جن کے پاس وہ اکثر ملاقات کے لئے آتی جاتیں اور علم حدیث میں بڑے شہد کے ساتھ بحث مباحثہ کرتی تھیں۔ ان کا سال وفات ۸۵۰ھ ہے۔

آئی فاطمہ خانم

دارالسعادة اسلامبول کی رہنے والی تھیں۔ نہایت مشہور و معروف خاندان کی رکن تھیں۔ خواجہ سعد الدین حسن جانی صاحب تاج التوارخ کی اولاد میں ہیں ان کی شادی امیر آغا کے ساتھ ہوئی تھی جو اسلامبول کا ایک شہزادہ تھا اس کا انتقال ۱۱۲۲ھ میں ہوا۔ اس کا ایک لڑکا آغا امیرزادہ تھا۔ آئی فاطمہ خانم ایک تعلیم یافتہ عورت تھی۔ ترکی زبان میں اس کا ایک کامل دیوان مسلمی عثمانی موجود ہے۔

امتہ الخالق

مشہور و معروف محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے ۸۱۴ھ ولادت بیان کیا جاتا ہے۔ ان کے والد عبد اللطیف ابن صداقہ ابن عوض المتادمی العقبی ہیں۔ یہ مجلس درس مولانا جمال الدین حنبلی میں حاضر ہوتی تھیں اور مسند احمد اور معجم صغیر طبرانی پڑھتی تھیں۔ سیرۃ ابن ہشام سے بھی علم حاصل کیا

تھا۔ اکثر محدثین نے ان کو فتویٰ کی اجازت دی تھی۔ کتاب الفیہ بن مالک اور منہاج العابدین ان کو از برکتیں۔ ان کتابوں کو انہوں نے خود دیکھا بھی تھا۔ اکثر اساتذہ محدثین نے انہی سے روایتیں نقل کی ہیں۔ ان کی عمر ایک سو سات برس تھی۔ ۹۲۰ھ ماہ ذیقعدہ میں اس لائق محدث نے اس جہان فانی سے رحلت کی۔ امتہ الخالق کی سب سے زیادہ بزرگی یہ تھی کہ وہ امام سیوطی کی استثنائی تھیں اور ان سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا۔ امام صاحب نے ان کا ذکر کتاب منجم میں کیا ہے۔

ام الخیر البغدادیہ

یہ یکتائے عصر محدثہ جمال النساء کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ بغداد کی رہنے والی تھیں۔ انہوں نے اپنے زمانہ کے متبحر اور مشہور و معروف عالموں سے جو علم و فضل میں کمال رکھتے تھے اور جو درس و تدریس کے ذریعہ طالبان علم کو فائدہ پہنچاتے۔ ابن البطلی و ابوالمظفر الکافزی اور شجاع الحرلی کو دیکھا تھا اور ان سے علم حدیث حاصل کیا تھا اس کے بعد انہوں نے خود بھی تعلیم و اشاعت حدیث میں سعی بلیغ کی تھی۔

اکابر محدثین مثلاً اسمعیل بن عساکر، قاضی تقی الدین سلیمان ابن سعد۔ ابن شجنہ فاطمہ بنت سلیمان اور دیگر علمائے متبحرین نے اس عورت سے اجازت حاصل کی تھی۔ علم و فضل کے علاوہ یہ زہد و ورع میں بھی کامل تھیں۔ وہ کئی بار حج کو گئی تھیں۔ ۹۲۰ھ میں راہی سفر آخرت ہوئیں۔

ام ہانی بنت ہند

اس لائق محدثہ کے والد حافظ تقی الدین بن محمد بن ہند الہاشمی تھے ان کو علم حدیث میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ علامہ سیوطی ان کی شاگردی کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ ذی قعدہ ۸۷۰ھ میں پنجشنبہ کے روز پیدا ہوئی تھیں۔ انتقال کا حال معلوم نہیں۔

اسماء بنت عبد اللہ

یہ عورت قبیلہ بنی عذرہ میں تھی جو نہایت فصیحہ تھی اس کی کہی ہوئی ایک ضرب المثل تمام عرب میں مشہور ہے۔ اس کی دو شادیاں ہوئی تھیں اس کے پہلے شوہر کا نام عروس تھا۔ وہ بھی قبیلہ عذرہ سے تھا یہ شخص نہایت خوبصورت تھا لیکن اس کی عمر نے وفات کی اور جلد ہی وفات پا گیا۔

اسماء بنت عبد اللہ ایام عدت گزار کر دوسرے نکاح پر آمادہ ہو گئی۔ بد قسمتی سے دوسرا شوہر نہایت کریم المنظر اور بد شکل تھا اور وہ اس سے ناخوش رہتی تھی۔ یہ شوہر جب اس کو اپنے گھر لے چلا تو اسما نے کہا کہ مجھے اپنے مرحوم شوہر کی قبر پر گریہ و زاری کرنے کی اجازت دے۔ جب اس کے شوہر نے اجازت دی تو اس نے پہلے شوہر عروس کی قبر پر اس طرح گریہ و زاری کی کہ سینے والوں کے دل دہل گئے۔ اس کی زبان پر یہ جملے تھے۔

میں تجھ پر گریہ و زاری کرتی ہوں اے عروسوں کے عروس

اے وہ شخص کہ تو رحم کرنے کے وقت نہایت رحم دل حلیم اور

بروبار تھا اور لڑائی کے وقت تیری تباہت مثل شیر کے تھو، اور

تجھ میں ایک ایسی صفت تھی کہ دوسرے لوگ اس سے محروم تھے۔

اس کا شوہر ایک طرف کھڑا ہوا تھا اس آخری کلمہ پر چونک پڑا اور اپنی بی بی سے کہنے لگا کہ عروس میں وہ کونسی ایسی صفات تھیں جن کو تو دوسروں میں نہیں دیکھتی۔ اس رونے والی نے کہا۔

”تو وقت پڑھنے پر ذرا بھی تسامح اور تغافل نہ کرتا تھا بلکہ شمشیر

اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور اپنے دشمن کے مقابلہ سے نہ ہستاتا۔

تھوڑی دیر کے بعد اسمان نے یہ اشعار پڑھے۔

اے میرے پیارے عروس تیری پیشانی نہایت درخشاں تھی۔ تیرا

خلق نہایت پاکیزہ تھا اور تجھ میں وہ محاسن حمیدہ تھے کہ جن کو

میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتی۔

اس کے موجودہ شوہر نے کہا کہ عروس کے ان صفات کو بیان کر جو اس میں

موجود تھے لیکن زبان پر نہیں آسکتے۔ اسمان نے اس کے جواب میں کہا۔

عروس محروم بڑے افعال سے پرہیز کرتا تھا

اس کے جسم سے نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی

اس کے دہن سے بدبو نہیں آتی تھی جو دوسروں کے منہ سے

آتی ہے۔

اس کا موجودہ شوہر سمجھ گیا کہ یہ آخری شعر میرے اوپر حملہ ہے کیوں کہ یہ گ

دہن تھا۔ اب دونوں میاں بیوی یہاں سے روانہ ہوئے۔ مگر اسمان نے اپنا

عطر دان یہیں چھوڑ دیا۔ شوہر نے اس کا سبب دریافت کیا کہ تو نے اپنا

عطر دان یہاں کیوں چھوڑا۔ اسمان نے اس کا جواب دیا کہ

”لا عطر بعد عروس“

یعنی عروس کے بعد کوئی دوسرا عطر نہیں استعمال کرنا چاہئے۔ عربی کا یہ جملہ تمام عرب میں ایک ضرب المثل بن گیا اور اب اس طرح استعمال ہوتا ہے۔

” لا منجاء لعطر بعد عروس ”

” نہیں ہے قدر عطر کی بعد عروسی کے۔ ”

اسما بنت یزید الانصاریہ

اس عورت کے باپ کا نام یزید بن اسکن الاشلی تھا۔ یہ حضرت عمارؓ میں شمار کئے جاتے ہیں۔ یہ خاتون کبھی صحابیہ نہیں ان کی فصاحت کی تمام عرب میں شہرت تھی۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نصیحت پر تعجب کیا تھا۔ ایک دفعہ یہ عورت پیغمبر اسلام کے پاس حاضر ہوئی اور خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ میں اپنی تمام ہم جنسوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس عورت نے اپنی عرضداشت اس طرح بیان کی۔

” اے پیغمبر آپ پر ہمارے مال باپہ فدا ہوں، میں اپنی ہم جنس عورتوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آپ کو خدائے عزوجل نے تمام مردوں اور عورتوں پر بیعت کیا ہے۔ اور ہم سب آپ کی رسالت اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں۔ اے پیغمبر ہم سب عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہم سے لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ بیماروں کی

عیادت کرتے ہیں۔ بار بار حج کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں ہمساد کرتے ہیں آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ہم آپ کے اموال کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کے لباس کے واسطے سوت کاتتے ہیں۔ اولاد کی نگہداشت اور تربیت کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ عمل خیر کی جزا میں شریک ہیں یا نہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں نے کبھی ایسی عمدہ نصیح گفتگو کسی شخص کی سنی ہے؟

صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نے کبھی ایسی گفتگو کسی عورت کی نہیں سنی اس کے بعد حضور نے اسماء کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے عورت تو اپنے بھنوں سے کہہ دے کہ اگر تم لوگ اپنے شوہروں کو خوش رکھو گی تو تم کو تمام اعمال خیر کی جزا ملے گی جن کو تو نے ابھی اپنی زبان سے بیان کیا ہے؟

شمس الدین اسماء بنت

اس کا باپ بہت بڑا محدث گزرا ہے۔ اسی کے لڑکے کا نام شیخ تقی تھا۔ ابن حجر عسقلانی سے پانچ سال قبل ۸۴۶ھ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے پہلے شوہر کا نام رملی تھا۔ اس کے مرنے کے بعد علاؤ الدین مقرنی کے ساتھ نکاح کیا یہ عورت فاضل اجل و عابدہ زاہدہ متقی تھی اس کی بہن تھی جن کا نام امہ الرحیم تھا۔

اسماء العامریہ

اندلس کے ایک شہر اشبیلیہ کی رہنے والی تھی اس کے قبیلہ کا نام آل نبی عامر تھا یہ عورت کامل تعلیم یافتہ تھی۔ نہایت اعلیٰ درجہ کی خوشنویس تھی۔ نظم و نثر دونوں میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی۔ ایک نہایت طول طویل تصدیق اپنے امور خاں داری کے سلسلہ میں لکھا تھا۔ (سلاطین اندلس)

اسماء عبرت

یہ عورت اسلامیوں کی رہنے والی تھی اس کے باپ کا نام احمد تھا۔ اس کے شوہر کا نام محمود خلیل الدین تھا جو خوشنویسی میں مشہور و معروف تھا۔ اسماء عبرت نے خوشنویسی میں اپنے شوہر سے زیادہ مہارت حاصل کی تھی۔ اس نے خود اپنے شوہر سے اس فن کو سیکھا تھا۔ جلال الدین نے بھی خطاطی کے تمام نکات اس کو سکھا دیئے تھے۔ جلال الدین اپنے نام کے ساتھ اپنی بی بی کا نام بھی لکھا کرتا تھا۔ خطوط ممتاز میں اس کے ہاتھ کے بہت سے خط لکھے ہوئے ہیں۔ ابن کثیر نے اس طرح کی گیارہ عورتیں گنائی ہیں۔

امتہ اللہ

یہ ایک اسلامی عورت تھی۔ ادب میں اس کو کامل دستگاہ حاصل تھی۔ الہیات میں اس کو پورا دخل تھا ۱۰۵۲ھ کے قریب اس کی پیدائش کا سال بیان کیا جاتا ہے کیونکہ سلطان محمد خاں رابع کی ہم عصر تھی اس کے باپ کا نام قاضی زلحدہ تھا۔ اس نے ۶۳ سال کی عمر پائی اور ۱۱۱۵ھ میں اس کا

انتقال ہوا تھا۔ ترکی زبان میں اس کا ایک پورا دیوان موجود ہے جو صدیق
امہ اللہ کے نام سے مشہور ہے۔ صدیق تخلص کرتی تھی۔

ام رعلۃ القشیریہ

یہ عورت نہایت فصیح اور موزوں طبیعت کی تھی۔ اس کی خوش بیانی
بہت مشہور تھی۔ امام مستغفری نے اس کو صحابیہ لکھا ہے۔ آنحضرت صلی
کے وصال کے بعد یہ عورت حسین علیہ السلام کو گود میں لئے مدینہ کی
گیوں میں پھلا کرتی تھی اور بہت رویا کرتی تھی۔ ایک دفعہ دونوں بچوں
کو گود میں لئے حضرت فاطمہؑ کے گھر میں شعر پڑھتی ہوئی داخل ہوئی جو
اس نے خود کہے تھے۔ (حور المقصورات)

ام زینب فاطمہ

باب کا نام عباس تھا۔ بغداد کی رہنے والی تھی۔ علم فقہ میں کامل
دستگاہ رکھتی تھی۔ یہ اپنے وعظ و پند سے لوگوں کو مستفید کیا کرتی تھی۔
نہایت عاہدہ اور زاہدہ تھی۔ مصری اور دمشق عورتیں اس سے استفادہ
کرنے کے لئے حاضر ہوا کرتی تھیں۔ ۱۷۴۱ء میں اس کا انتقال خاص
بغداد میں ہوا۔

بلدیہ

اس کے شوہر کا نام آمر باحکام اللہ تھا۔ جو خلفائے فاطمی سے تھا
اور مصر میں حکومت کرتا تھا۔ اس کے شوہر نے ایک عایشان قصر جس کا

نام ہووج تھا۔ رودنیل پر تیار کرایا تھا۔ اس کی طبیعت تنگ مکانات سے گہرائی تھی۔ ہمیشہ فراخی اور وسعت پسند طبیعت تھی یہ چاہتی کہ کھلا میدان ہو اور اس میں ایک عالیشان عمارت جس کو نہریں اور آبشار چاروں طرف سے گہرے ہوں۔ صباحت اور مباحث قدرتی طور پر اس کو عطا ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس نے رودنیل کے قصر میں جو ہووج کے نام سے موسوم تھا رہنا اختیار کیا چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اس لئے فصاحت اور بلاغت میں بھی اس کو حصہ وافر ملا تھا۔ شعر خوب کہتی تھی۔

کحفہ عربیہ

یہ عورت عارف باللہ تھی اور ہمیشہ عشق حقیقی میں بے خود رہا کرتی تھی۔ نجات الانس میں اس عورت کا تذکرہ ہوا ہے یہ عورت اپنے عشق حقیقی کی بے خودی میں آہ و زاری کیا کرتی تھی۔ کھاتا پینا بالکل ترک کر دیا تھا۔ گھر کے لوگ اکثر اس سے بیزار اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آخر کار اس کو مجنون سمجھ کر پاگل خانہ میں بھیج دیا۔ حضرت سری سقطی جو ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے اس کو پاگل خانہ سے نکلوا یا۔ یہ عورت بہت قابلہ اور تعلیم یافتہ تھی۔ پاگل خانہ میں اس نے بہت سے اشعار لکھے تھے۔

جانان سلیم

عبدالرحیم خانخاناں کی لڑکی تھی۔ علم و فضل میں اس کو خاص درجہ حاصل تھا۔ بہت سے علوم سے واقف تھی۔ اس نیک بخت اور سعادت مند

عورت نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی تھی۔ چنانچہ نے اس کے ظاہری اور باطنی حسن کی تعریف سن کر اس سے نکاح کی درخواست کی۔ اس باعصمت عورت نے اپنے گیسو کاٹ کر اور دانت توڑ کر چنانچہ کے پاس بھجوا دیئے۔ چنانچہ نے اس کی اس حرکت کو عفت کی دلیل سمجھا اور بہت تعریف کی۔
(اثر رحیمی)

جمیلہ

ناصر الدولہ جو ملوک بنی حمدان سے تھا اس کی دختر نیک اختر تھی۔ عورت کی جو دوسرا کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ ۳۶۶ھ جب کہ بیت المقدس شریف کی زیارت کو گئی تھی اس وقت اس نے بہت سی نیکیاں اپنے لئے جمع کر لی تھیں۔ اس سال جتنے حاجی حج کرنے گئے تھے ان سب کو شہر پلایا۔ خانہ کعبہ کے لئے دو ہزار دینار نذر کئے۔ تین ہزار غلاموں کو آزاد کیا۔ پانچ سو پیادوں کو حلقے عطا کئے بہر حال اسی قدر عطیات فرمائیت کئے کہ ام جعفر زبیدہ کا سفر حج لوگ بھول گئے اور زبیدہ کی جگہ جو دوسرے میں جمیلہ کا نام مشہور ہو گیا۔

حبیبہ

زین الدین عبدالرحمن ابن الامام جمال الدین ابی بکر محمد بن ابراہیم بن احمد بن عبدالرحمن بن اسماعیل بن المنثور المقدسی کی دختر نیک اختر تھیں۔ کاشمار محدثات میں کیا گیا ہے۔ کسی زمانے میں یہ محدثہ خاتون ام عبدالرحمن حبیبہ کے نام سے مشہور تھیں، اسناد و حدیث اور تعداد روایات میں یہ طویل تھا۔ ذرا نعت کے ساتھ حافظ بھی عجیب و غریب تھا۔ شیخ نقی الدین علی

خدا کیسے

احمد بن النطیبا کی لڑکی تھی اس کے زمانے کے لوگ اس کو متبر عالم خیال کرتے تھے۔ اس کی لڑکی بھی محدثہ تھی۔ اس کے لڑکے کا نام زمین الدردی عمر الباسی تھا جو ابن حجر کا استاد تھا۔ اس عورت کا انتقال ۱۰۷۲ھ میں ہوا۔

دلشاد

فتح علی شاہ، شاہ فارس کی بی بی تھی۔ یہ عورت بہت بڑی بلیغہ تھی۔ طبیعت میں موزونیت تھی۔ اس کا ایک شعر بہت مشہور ہے۔
طاعات منکران محبت قبول نیست
صد بار اگر بہ چشمہ زمزم وضو کنند

رشمہ کاشانی

اس عورت کا دوسرا نام بیگم تھا۔ باپ کا نام ہاتف کاشانی تھا۔ میرزا علی اکبر متخلص بہ نظیری کی بی بی تھیں۔ مرزا احمد المتخلص بہ کشتہ کی ماں تھیں۔ نہایت سخن سنج خوش گو اور قادر الکلام شاعرہ تھی۔ اس کا ایک دیوان موجود ہے۔ جس میں تین ہزار اشعار ہیں۔

بی بی رابعہ

حضرت شیخ حمید بندہ شیخ احمد عبدالحق ردو لوی کی صاحب زادہ تھیں اور حضرت شیخ سلیم کی زوجہ تھیں۔ باپ کی تعلیم و تربیت نے ان

مثل رابعہ بصری بنا دیا تھا۔ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتیں حتیٰ کہ شوہر کو سلوک کے منازل طے کروائے۔ (بحرِ خاں ص ۱۲)

ملکہ شجرۃ الدر

جس خاتون کے حالات لکھے جا رہے ہیں وہ تاریخ مصر ہی میں نہیں بلکہ تاریخ اسلام میں بھی قابلِ صد ستائش ہے نہ صرف مصر کی نسوانی تاریخ بلکہ ساری اسلامی دنیا کی نسوانی تاریخ اس پر فخر کر سکتی ہے کہ اس کی ایک ناتوان ناقص العقول فرد کے نازک کندھوں نے دولتِ اسلامیہ کا مقدس بوجھ اٹھا کر دنیا کو دکھا دیا کہ ایک کمزور عورت مردوں کی طرح تمام سلطنت کی تنظیمی، سیاسی و مذہبی امور بجالا سکتی ہے۔

شجرۃ الدر یوزین نسل سے تھی اور خاندان ایوبی کے آخری بادشاہ سلطان نجم الدین عادل ایوبی کی قابلِ ناز محبوب بیگم تھی۔ العادل نہایت سخی انصاف پسند رعایا پرورد فرماؤا تھا۔ اس کے بے لاگ فیصلے، سیاسی لاینحل پیچیدہ مسائل کا حل نیز ممالکِ غیر میں اس کی عظمت و وقار کا باعث دراصل شجرۃ الدر تھی اور ان تمام امور کی محرک و موید بلکہ العادل کی دستِ راست تھی۔

۱۲۰۳ء میں العادل کا انتقال ہوا تو اس کا جانشین توران شاہ اپنے شامی مقبوضات کی سیاحت کے لئے گیا ہوا تھا۔ ملکہ نے عادل کی خبر موت کو مخفی رکھا۔ تمام اطبا معالج شاہی بغرض علاجِ تصر سلطانی میں آئے۔ ملکہ سے مزاج کی حالت سننے، نسخے اور دوا دے جاتے۔ خاصہ شاہی تیار ہو کر سلطان کے کمرے میں جاتا تھا۔ تمام عراقیوں پر سلطانی کے دستخط

ہوتے تھے۔ ملکہ نے نہایت ہوشیاری سے سلطان کے خادم خاص سہیل کو اپنے
ساتھ ملا لیا۔ یہی سہیل عراق میں پر دستخط کر دیا کرتا تھا کیونکہ اس کی تحریر ہو ہو
بادشاہ کی تحریر تھی۔

شاء فرانس لوئی نے اسی زمانہ میں اپنی ۵ ہزار فوج سے جس میں
۱۵ ہزار رضا کاران، انگلستان، فرانس اور جرمنی بھی شامل تھے یکایک
ساحل دمیاط پاتا مار کر مقام منصورہ پہلے خبر اسلامی فوج پر اچانک حملہ
کر دیا۔ جس کی رہبری اسلامی فوجدار ملک سمون نے کی تھی۔ بے چارہ اسلامی
جنرل فخر الدین حمام میں مصروف غسل تھا کہ وہیں شہید کر دیا گیا۔ عساکر
اسلامی اپنے بہادر جنرل کو شہید دیکھ کر بری طرح پسا ہوئی۔ عیسائی فوج
ملک مصر پر بڑھنے لگی۔ ملکہ شجرۃ الدر کو جب یہ وحشتناک خبر پہنچی تو اس
وقت اس کی خود نہایت نازک حالت تھی۔ ایک طرف مردہ شوہر کی لاش
چھپائے ہوئے تھی اور دوسری طرف توران شاہ بھی ابھی نہ آیا تھا۔ اس
نازک وقت میں ملکہ نے جس استقلال ثابت قدمی جرات و بہادری سے
ان تمام مشکلات و مصائب کا مقابلہ کیا تھا اس کی مثال شاید ہی ملیگی۔
ملکہ نے فی الفور دس ہزار سواروں کو فرانسسی و غابازوں کی سرکوبی
کے لئے روانہ کیا۔ جنہوں نے پہنچ کر شاہ فرانس کی فوج کو اس بری طرح
شکست فاش دی کہ اس میں سے ایک بھی نہ بچ سکا۔ تمام عیسائی فوج
ملکہ شجرۃ الدر کی چمکتی و مکتی تلواروں کی پیاس بجھانے میں مصروف ہو گئی
شاء فرانس اور اس کی ملکہ گرفتار کر کے مصر لائے گئے۔

اسی دوران میں توران شاہ پائے تخت مصر پہنچ چکا تھا سلطان
عادل کی موت ظاہر کر دی گئی۔ نہایت عزت و وقار کے ساتھ سلطان کی

تہمیز و تکفین کی گئی۔ توران کو تخت نشین کیا گیا۔ توران شہانہ نے ساحل بحر روم پر فرانسیسی فوج اور فرانسیسی جنگی بیڑے کی ناکہ بندی خوب کی۔ نیز ایک نہایت خوں ریز بحری جنگ بھی فرانس اور مصری فوج میں ہوئی۔ جس میں ۳ ہزار فرانسیسی قتل ہوئے۔

سلطان توران صرف دو مہینے چند دن حکومت کر سکا لیکن ان چند ہی دنوں میں توران شاہ نے اتنی سخت گیری کی کہ رعایا تنگ آگئی آخر مجبوراً رعایا نے بلوہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا اور ملکہ شجرۃ الدر کو تخت حکومت پیش کیا گیا۔ نہایت تنگ و احتشام سے شجرۃ الدر المستقیم الصالحۃ الملکۃ المسلمین والدۃ الملک المنصور خلیل امیر المؤمنین کے معزز ممتاز پر وقار لقب سے ملقب ہو کر تخت سلطنت مصر پر جلوہ گر ہوئی۔

جس جگہ زینائی زمانت کا ڈنکا بجاتا تھا جہاں کلیو پڑا اپنے من جہاں سوز اور کمال فراست لئے ایک جہاں سے خراج تحسین وصول کر چکی تھی اسی جگہ ملکہ شجرۃ الدر مثل اپنی جنسوں رضیہ سلطانہ چاند بی بی، نور جہاں، زہبیدہ خاتون کی طرح عدل گستری رعایا پروری انصاف پسندی سے محبوب ملکہ بن گئی جس کی ایک جنبش نوک قلم پر سلطنت مصر کا تغیر و تبدل قائم تھا۔ جس کے خوبصورت ماتھے کی ایک نازک سی شکن معزز سے معزز ہستیوں کو دار فئات تک پہنچانے کے لئے کافی تھی۔ فرانس سے بیس ہزار روپیہ تاوان جنگ لے کر ملکہ نے شاہ فرانس کو رہا کر دیا۔ اس روپیہ سے ملکی اور فوجی ضروریات پوری کیں یہ صرف اس کی سلطنتی زندگی تھی۔ اس کی مذہبی زندگی اس سے کہیں زیادہ درخشاں اور قابل رشک تھی اب بھی اس کی الفت مذہبی کی زبردست دلیل محمل کعبہ ہے۔

اس نے نہایت جوش و عقیدت مذہبی سے حج کعبۃ اللہ زیارت
رسول اللہ صلعم کی تھی۔ اس مقدس سرزمین پر اس کی داد و ہش اس کے
راسخ ایمان ہونے کی عمدہ دلیل تھی۔ جب یہ واپس اپنے دارالخلافہ پہنچی
اس کا دل مثل سابق الفت وجدائی سے پڑھتا۔ اپنے اس مقدس فریضہ
ادائیگی کی یاد میں اس نے اسی قسم کی محفل میں جس میں حج کے لئے گئی تھی
غلاف کعبہ اور بہت سے بیش بہا تحائف روانہ کرنے لگی۔ یہ مذہبی رس
عوام و خواص مصر میں اتنی مقبول ہوئی کہ مدت دراز تک مصر سے غلاف
کعبہ جاتا رہا۔

اس امر پر نسوانی دنیا کو بجا فخر و نماز ہونا چاہیے کہ ایک ملکہ نے حج
مقدس کی سرزمین میں جو آج کی آب رسانی کے لئے نہر زبیدہ جاری کی
دوسری عالی مرتبت خاتون نے کعبہ کو غلاف روانہ کر کے اپنی مذہبی عقیدت
کا ثبوت دے کر اپنے لئے دین و دنیا میں بقائے دوام کا شہرہ حاصل کیا
جب سلطان ابن سعود نے حجاز مقدس پر تسلط کیا تو مصری بیٹے باجے
مصری اور حجازی فوج میں جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے محفل حج
مصر سے جانا بند ہو گیا۔

خلیفہ المعتصم باللہ عباسی نے ملکہ کو لکھا کہ ابھی تم جوان ہو اور سلطان
کے بارگراں کو صرف تمہاری ایک نازک ہستی کافی نہیں ہے۔ لہذا تمہیں ہم
دیا جاتا ہے کہ عزیز الدین ایبک سپہ سالار اعظم عساکر مصر کے ساتھ
کر لو اور اس کو اپنی بجائے تخت مصر پر ممتاز کرو۔

شجرۃ الدر خلیفہ کا حکم بجالاتی۔ ایوبی خاندان بہت کمزور ہو چکا۔
خلیفہ کا اس خاندان پر کچھ رعب نہ تھا اس لئے ملکہ کو بھی مجبوراً خلیفہ کا

ماننا پڑا۔ عزیز الدین ایک سے عقد نکاح کر لیا۔ گو کہ عزیز الدین ایک ملازم تھا مگر مسادات اسلامی میں مملوک و حر کا ایک ہی درجہ تھا۔ یہی شخص اسلامی عساکر کا نہایت محبوب ہر و لعزیز سپہ سالار اعظم بن گیا۔ جب اس نے شجرۃ الدر سے نکاح کیا تو اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا۔ المعز کے لقب سے تخت مصر پر قدم رکھا۔ گو کہ شجرۃ الدر تخت و تاج شوہر کے لئے چھوڑ چکی تھی۔ مگر یہ عہدہ برائے نام تھا۔ کوئی امیر سلطنت باہر ضعی شجرۃ الدر مقرر نہیں ہو سکتا تھا صرف فرامین پر دستخط المعز کے ہوتے تھے۔ چند ہی دنوں میں المعز کو ملکہ کی شرکت ناگوار ہونے لگی۔ المعز ایک سپہ سالار تھا۔ شاہانہ خوبیاں اس میں کم تھیں۔ ملکہ شجرۃ الدر سلطنت کے چھوٹے سے چھوٹے امر میں شاہی شان کی جھلک دیکھنا چاہتی تھی۔ سلطنت بھی شوہر کو اسی کی بخشی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ دونوں کے دل غبار و کدورت سے پر ہونے لگے۔ المعز نے دربار خلافت بغداد میں چارہ جوئی کے لئے فریاد کی۔ اب دونوں طرف اعلانیہ جنگ ہو گئی المعز نے ملکہ کو جلائے کے لئے گورنر موصل کی رٹ کی۔ لوگوں سے نکاح کر کے قلعہ سے باہر ایک پڑ نضا جگہ سکونت اختیار کر لی۔ شجرۃ الدر کے ہاں آمد ترک کر دی۔

شجرۃ الدر بھی بڑی چالاک عورت تھی، عورت جب حد درجہ مجبور ہو جاتی ہے تو اس کا انتقام نہایت خوفناک ہوتا ہے۔ شجرۃ الدر نے اپنے شوہر کو نہایت عاجزی انکساری خوشامد سے اپنے محل میں بلایا۔ المعز چونگان وغیرہ کھینتا رہا۔ شام کو نٹھکا ہارا ملکہ کے ہاں پہنچا۔ ملکہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ حمام تیار تھا پھر دن بھر کی تکان دور کرنے کے لئے المعز کو حمام پہنچایا گیا جہاں دو حمامی ملازمین نے مار و مھاڑ شروع کر دی۔ شجرۃ الدر ایک

گوشہ سے اپنے احکام کی تعمیل دیکھ رہی تھی۔ آخر کبھی عورت اس کے دل میں رحم و کرم کا دریا جوش مارنے لگا۔ حمام میں پہنچ کر ملازمین کو مار پیٹ سے منع کیا تو ان دونوں نے کہا ملکہ اگر یہ یہاں سے زندہ بچا تو آپ کو اور ہم دونوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھوئے پڑیں گے۔ آخر ان دونوں نے المعز کا خاتمہ کر دیا۔

المعز کی موت کی خبر سن کر تمام فوج پھر گئی قلعہ میں گھس کر شجرۃ الدر کو گرفتار کر لیا اور المعز کی پہلی مطلقہ بیوی کے بیٹے علی کو تخت نشین کیا۔ علی نے باپ کے انتقام میں شجرۃ الدر کو گڑوں سے پٹوا کر مروا ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ چند مسلمانوں نے اس کی لاش اٹھا کر اس کی تعمیر کردہ مسجد میں دفن کر دی۔ اس طرح اس باکمال، شجاع، دلیر، فضیل و فہیم مہ جبین ملکہ کا نہایت درد انگیز انجام ہوا۔ صنف قوی نے جس طرح رضیت چاند بی بی، نور جہاں وغیرہ کی زندگیاں کو خاک میں ملا دیا اور فنا کر دیا اسی طرح شجرۃ الدر کو المعز کے نکاح میں آکر تلخ ترین تجربہ اٹھا کر زندگی سے نہایت بے عزتی کے ساتھ ہاتھ دھونا پڑا۔ اگر ملکہ مجبور نہ کی جاتی تو وہ المعز سے نکاح نہ کرتی المعز بدستور پہ سالار تھا تو ملکہ بھی آزادی سے سلطنت کرتی اپنے زمانہ کی کیا بلکہ تمام اسلامی تاریخ کی نہایت باکمال بے مثل ملکہ ثابت ہوتی اس کی ایجاد و اختراع سے دنیا بہت کچھ فائدہ اٹھاتی جب اس کی غیور طبیعت کو المعز کے نکاح ثانی سے ایک زبردست دھکا لگا تو ایک بھری ہوئی شیرنی کی طرح المعز سے انتقام لیا۔ اس کی مشہور ایجادوں میں ایک باجہ بھی ہے جس کا نام اُس نے اپنے بیٹے انخلیل کے نام پر خلیلیہ رکھا۔

نامور خواتین اندلس

اندلس میں جب مسلمانوں کا دور دورہ تھا۔ بڑے بڑے صاحب کمال لوگ خطہ اندلس میں پیدا ہوئے۔ حکیم ابن رشد، ابن طفیل، ابن زہیر سے حکما پیدا ہوئے۔ قرطبہ دار الخلافہ تھا جہاں عظیم الشان یونیورسٹی تھی۔ اس دارالعلوم سے عالی مرتبہ فاضل نکلے۔ ابن خلیب قرطبی جس کے متعلق تذکرہ نویس لکھتے ہیں۔

علم مابعد الطبیعہ تاریخ، طب وغیرہ کے متعلق گیارہ سو تالیفات تصانیف اس کی تھیں۔

ابن حسن کے متعلق اخبار الاندلس میں لکھا ہے کہ اس حکیم نے فلسفہ اور فقہ پر چار سو پچاس کتابیں تحریر کیں۔ غرض کے اس قسم کے فضلا دارض اندلس سے کثرت سے پیدا ہوئے۔ ایسے ہی بلند مرتبہ خواتین قرطبہ کی تھیں۔ خلافت ہسپانیہ میں لکھا ہے کہ اندلس میں فرقہ انات کو ہی عظمت حاصل تھی۔ خلفائے نبی امیہ اندلس کے خاندان میں بڑی فاضلہ خواتین گزری ہیں۔ شہزادہ احمد کی صاحبزادی عائشہ نظم میں صاحب کمال تھی۔ اس کے علاوہ وہ فصیح و بلیغ بھی تھی۔

خاندان موحدین کی شہزادی ولیدہ بڑی حسین خاتون تھی۔ شاعری اور علم بلاغت و بیان میں اس کے ہم عصر شعرا اس کے مقابل آتے ہوئے جھجکتے تھے۔ دربار علمی منعقد ہوتا۔ عظیم المرتبت علما فضلا خطیب جمع ہوتے۔ ولیدہ اکثر صد محفل میں جگہ پاتی۔

قرطبہ میں ام سعد کی شہرت تھی جس کے درس حدیث میں بڑے بڑے علما شریک ہو کرتے۔ اس خاتون کی معاصر لبانہ تھی جو عالی خاندان سے تھی۔ لبانہ نے علم ہندسہ میں بڑا کمال حاصل کیا تھا۔ البحر اور مساحت کے نہایت پیچیدہ سوالات وہ باتوں باتوں میں حل کر دیتی تھی۔ المحکم ثانی نے اس خاتون کو اپنا پرائیوٹ سکریٹری مقرر کیا تھا۔

امراء کے خاندان کے علاوہ غربا میں ان سے بڑھ کر تعلیم یافتہ خواتین تھیں۔ حمد نامی جو دارلحمہ کا رہنے والا کتب فروش تھا۔ اس کی بیٹیاں علم و فضل میں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔

ابن عباد اپنی تصنیف تحفۃ القدریم میں لکھتا ہے "باوجود حسن و عصمت و دولت کے نامی علماء کی مجلس میں شریک ہوتیں۔"

ایک معمولی خاندان کی خاتون حفصہ تھی۔ جس نے خوشنویسی میں وہ کمال پیدا کیا کہ اس کی خطاطی کے نمونے زینت عجائب خانہ تھے۔ ایسی ہی بیسیوں ذی علم اور نامور خواتین قرطبہ، غرناطہ، اشبیلہ وغیرہ میں خلفائے ہسپانیہ کے عہد میں گزری ہیں۔ (ماخوذ)

تایخ اندلس کا ایک ورق

اگرچہ وہ تمام ممالک جہاں مسلمانوں کا آفتاب اقبال چمکا۔ تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے لیکن اندلس کی تہذیب اور اس کا تمدن سب میں ممتاز رہا۔ چنانچہ غرناطہ و قرطبہ کی بے نظیر عمارتیں ایک قسم کی زندہ شہادت ہے۔ یورپ اپنی تہذیب و تمدنی ترقیوں میں سب سے زیادہ اندلس ہی

کامنون احسان ہے۔ اس ملک میں اسلامی حکومت ۸۰۷ سال اللہ سے ۱۹۱۱ء تک رہی۔ اس دور میں مسلمانانہ اندلس نے علوم و فنون اور صنعت و حرفت میں جس سرعت کے ساتھ ترقی کی تھی اس کی تطبیق دیگر اقوام میں نہیں ملتی۔

اندلس کی خواتین مخزن مجالس علمی و ادبی میں مردوں کے برابر عملی حصہ لیتی تھیں اور غالباً اسی ترقی نسواں کی وجہ سے تمام جزیرہ نما میں کوئی بھی ناخواندہ متنفس نظر نہ آتا تھا۔

دارالسلطنت اشبیلیہ کی مشہور تفریح گاہ میدان ابیض میں دریائے وادی البکیر کے کنارہ کنارہ امیر المسلمین المعتضد باللہ کا چشم و چراغ ابوالقاسم محمد بن عباد ولیعهد سلطنت اپنے وزیر خلوت ابن عماد اور ایک ناظر کے ساتھ بھییں بدلے ہوئے سیر کر رہا تھا اور شہر شلب کے حالات اور صوبہ الغرب کی فتوحات کا تذکرہ فخر و مباہات سے کرتا جاتا تھا تاہم کا وقت ہے آفتاب کی شعاعیں دریا کی لہروں سے لعل گیر ہو رہی ہیں سبک ہوا چل رہی ہے اور سطح آب پر لہکا موج پیدا ہو گیا ہے۔ ابوالقاسم ایک زبردست شاعر تھا اور گو گیارہ سال کی عمر میں شہر شلب کی تسخیر پر سالار اعظم مامور کر کے بھیجا گیا تھا لیکن فتح کے بعد ساہا سال تک زانوئے ادب علمائے اشبیلیہ و قرطبہ کے سامنے تہہ کرتا رہا یہاں تک کہ اپنے عہد کے ممتاز شعراء و ادباء میں اس کا شمار ہونے لگا۔ خوش قسمتی سے اس کا وزیر خلوت ابن عمار بھی ویسا ہی بدیہ گو شاعر اور لطیف سخن تھا اور اگرچہ خلقی طور پر وہ خاموش اور انفرادہ خاطر واقع ہوا تھا لیکن مضمون آفرینی میں اسکو یہ کمال تھا کہ جس وقت کوئی شعر موزوں

کرتا تو معلوم ہوتا کہ موتی جھڑپ ہے ہیں۔ ابوالقاسم نے وادی الکبیر میں ملکی ترویج
کو دیکھ کر ایک فی البدیہہ مصرع موزوں کیا۔ جس کا ترجمہ یہ ہے۔
”نسیم کے نیچے سطح آب جو شنی بن گئی ہے۔“

اور ابن عمار کی طرف پڑھ کر منتہی ہوا کہ دوسرے مصرع میں وہ اپنی جو دہ
طبع کا اظہار کرے۔ ابن عمار کی طبیعت اس وقت حاضرہ تھی مضمون سوار
میں دیر ہوئی۔ ابوالقاسم نے پھر اس مصرع کو دہرایا اتنے میں قریب
سے ایک آواز آئی۔

(بے شک شاندار جو شنی ہے لیکن منجر ہوئی)

ابوالقاسم اور ابن عمار اس بے نظیر بدیہہ گوئی پر پھرٹک گئے۔ گردن
اٹھا کر دیکھا تو سامنے کی جھاڑی سے ایک نوخیز حسین بے باک لڑکی پھر
پر سوار جا رہی تھی۔ ابوالقاسم نے اس کو اور اس نے اس کو دیکھا دونوں
رک گئے۔

ابوالقاسم نے پوچھا ”اے نیک بخت لڑکی تیرا کیا نام ہے؟“
اس نے کہا ”اعتاد نام ہے مگر لوگ رمیقیہ کہتے ہیں۔“
ابن عمار۔ ”اچھا تو تمہارا تعلق خاندان غبطشہ سے ہے القوطیہ کی
پوتی ہو۔“

اعتاد۔ ”کبھی تھی تو مگر اب

درجہاں مثل چراغ لالہ صحرایہ
نے نصیبِ محفلے نے قسمت کا شانہ

ابوالقاسم۔ ”تم یہاں کیا کرنے آئی تھیں۔
اعتاد۔ ”اپنے گدھے گھیرنے آئی تھی۔“

ابوالقاسم۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟
اعتماد۔ جی نہیں۔

ابوالقاسم۔ کیوں؟

اعتماد۔ اس لئے کہ کوئی معتمد نہیں ملا۔

(۲)

اشبیلیہ کے ایوان القصر میں ابوالقاسم اپنے خلوت کدہ میں مصروف
بزم طرب ہے۔ زمان و لیجہدی ختم ہو چکا ہے اور وہ اس وقت مسند
شاہی پر جلوہ آ رہا ہے اور خلیفہ المعتمد کے نام سے اسی کا خطبہ پڑھا جا رہا
ہے۔ اعتماد اس کی حرم محترم ہے اور جزیرہ نما اندلس میں سیدہ کبریٰ کے
نام سے مشہور ہے۔ اس وقت اس خلوت گاہ ناز میں بجز چند خواتین اور
خواجہ سراؤں کے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک جھروکہ سے المعتمد کے چہرہ پر
دھوپ آتی ہے۔ اعتماد کی ایک حاضر باش خادمہ اعتماد کا اشارہ پاتے ہی
اس طرح کھڑی ہو گئی کہ خلیفہ وقت کا رخ انور دھوپ سے ماند نہ ہونے
پائے۔ المعتمد اس مزاج دانی پر بجائے ادائگی شکر یہ کے یہ اشعار موزوں
کرتا ہے۔

” وہ اس لئے کھڑی ہوئی ہے کہ اس کا قد آفتاب کی ضیا
کو میری آنکھ سے روک دے اور وہ اغیار کی نگاہ سے محفوظ
رہے۔ قسم ہے تمہاری جان کی کہ وہ جانتی ہے کہ وہ خود چاند
ہے اور سوائے چاند کی صورت کے آفتاب کو کون پرشیدہ
کر سکتا ہے۔“

سیدہ کبریٰ محتلوٹ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک ہم جلیس و حاضر باش

کی خدمت کی داد خلیفہ وقت اس طرح دیتا ہے۔ محفل جمی ہوئی ہے۔ المعتمد
نشہ جوانی میں چور ہے۔ زبان پر چیدہ کلام جاری ہے۔ اعتماد اپنے دست
نازک سے تازہ خوشہائے انگور کا جو وادی حلیقہ سے آئے ہیں شربت بنا کر
پیش کرتی ہے۔ یکایک مطلع مکدر ہو جاتا ہے۔ فلک نیلگوں پر ابر چھا جاتا ہے
اور بجلی کو ند نے لگتی ہے۔ اعتماد جام بلوریں ہاتھ میں لے کر سہم جاتی ہے اور
المعتمد بر جستہ یہ اشعار سناتا ہے۔

” وہ بجلی سے جل گئی حالانکہ اس کے ہاتھ میں برق شراب ہے۔
مجھے تعجب ہے کہ وہ خود آفتاب چاشت ہو کر بھی روشنی سے
ڈرتی ہے۔“

پانی برس کر کھل جاتا ہے اور اعتماد معتد گھوڑوں پر سوار ہو کر ہوا خور
کو نکلے ہیں چند گوالیں پائے اٹھا کر رہنہ پا کچرڈ میں چھپ چھپ کرتی گاتی
گھر کو واپس جا رہی ہیں۔ اعتماد کو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے۔ جب وہ خمر
چرایا کرتی تھی۔ امیر المسلمین سے کہتی ہے کہ ”میں بھی کچرڈ میں چلوں گی۔“
خلیفہ منع کرتا ہے اور وہ روٹھ جاتی ہے۔ بالآخر محمد ”القصیر“ کے درباری
کمرہ میں اعتماد کے نئے ہزار ہا من براہ صندل، اگر عود عنبر اور خوشبوئیں
منگو کر عرق گلاب میں سان کر گارہ بنواتا ہے اور اعتماد سے عرض کرتا ہے
کہ ”چلنے شوق پورا کیجئے۔“ بلقیس زماں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھٹنوں تک
پائے اٹھا کر مستانہ دار گاتی بجاتی ہے اور خوب خوش ہوتی ہے۔

عرصے کے بعد اندلس کے شیریں خسرو میں شکر زنجی ہو جاتی ہے
اعتماد روٹھ جاتی ہے۔ بادشاہ مناتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی اور طعنہ دیتی
ہے کہ ”مجھے تمہارے ہاں کبھی آرام نہیں ملا۔ تم نے میری کوئی بات کبھی پورا

نہ کی "معتد چکے سے مسکرا کر کہتا ہے۔ ولایوم الطین (اور گارہ کا دن یاد نہیں)۔
 سیدہ کبریٰ جھینپ جاتی ہے اور زیر لب خندہ کر کے خاموش ہو جاتی ہے۔
 فروری کا مہینہ ہے اور خلیفہ وقت مع اعتماد کے قریبہ کے قصر الزہرا
 میں فرودکش ہے۔ شام کا وقت ہے اتفاق سے ہلکے ہلکے لگے ہائے برف
 خلافت معمول جبل عروس کے درختوں پر گر رہے ہیں اور جب تپوں سے برف
 کے چھوٹے چھوٹے ورق زمین پر مثل ابرک گرتے ہیں تو آنکھوں کو سرد
 ہوتا ہے۔ رقیقہ امیر المسالین سے کہتی ہے کہ اچھا سماں ہے کاش یہ برف
 ہمیشہ اس موسم میں گرتا رہے؟

خلیفہ وقت علماء نباتات و طبیعات سے مشورہ لے کر حکم دیتا ہے کہ جاں
 تک نظر کام کر سکے اس پہاڑ پر بادام بودیے جائیں جن کے سفید پھول فروری
 میں مثل لگے ہائے برف گرتے ہیں۔ انجیر، انار اور شفتالو کے درخت جو
 الزہرا کی تعمیل ارشاد میں خلیفہ عبدالرحمن التاصر نے نصب کرائے تھے
 سب قلم کر دیئے جاتے ہیں اور جبل عروس نخلستان بادام ہو جاتا ہے۔

(۳۳)

اندلس میں انقلاب عظیم ہو رہا ہے۔ یوسف تاشعین نصاریٰ کے خلافت
 امیر المسالین کی امداد کے لئے افواج کثیر فراہم کرتا ہے اور فتح زلاقمہ کے
 بعد خود امارت اشبیلیہ غصب کر کے بادشاہ وقت کو جلا وطنی کا حکم دیتا
 ہے۔ معتد اس بے سرو سامانی سے اندلس کو الوداع کہتا ہے کہ بجز ۳۶۰ دینار
 سرخ (ایک دینار سات روپیہ) کے جن کو وہ جوتے کے تلے میں چھپا سکا
 اور کوئی چیز نہ لے سکا۔ اعتماد سے اپنی لڑکیوں اور پور زادہ نخر الدولہ
 ابن السراج کے ایک جہاز میں سوار ہو کر آبنائے طارق کو عبور کر کے ہمیشہ

کے لئے خاک اور پہ کو خیر باد کہتا ہے۔ ساحل طنحہ پر قدم رکھتے ہی حصری نابینا شاعر سابق فرمانروائے انڈس کی ہمدردی میں چند اشعار عرض کرتا ہے اور معتمد ۳۶ دینار سرخ جن کی حفاظت میں اس کے پیر زخمی ہو گئے تھے اور جن پر اسی وقت خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے اپنے تلے سے نکال کر شاعر کے نذر کرتا ہے اور معذرت کرتا ہے کہ اس کے سوا ایک جہہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔

یوسف تاشقین کے حکم سے یہ خانما برباد مراقش کے قریب اعمات نامی قریہ میں پایہ زنجیر کر کے نظر بند کیا جاتا ہے اس کی لڑکیاں اور بیوی شاری امداد مطلقاً بند ہونے کے سبب سے چرخہ کات کر گزارا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر ایک وہ زمانہ تھا کہ سیدہ کبریٰ کے ادنیٰ اشارہ پر خسرو نے سلطنت حاضر ہوا کرتے تھے اور آج انقلاب دہر سے وہ ایک رواد کے لئے محتاج ہے۔

” زمانہ کا برا ہو اس نے کیا کیا جب کبھی اس نے کوئی عمدہ چیز دی ضرور چھین لی“

لیکن اس زمانہ فلاکت میں بھی شاہانہ علو و صلوگی اور عز و وقار کو ہر سے جانے نہیں دیا۔ نہ کسی کے سامنے دست طلب دراز کیا اگر کسی ہمدرد یوسف تاشقین کے خوف کے باوجود امداد کی جرأت بھی کی تو جب تک یہ یقین نہ ہو جاتا کہ دینے والے کو کچھ حذر نہ پہنچے گا وہ ہرگز قبول نہ کرتے تھے بلکہ شر قبولیت بھی اسی خیال سے بٹھا جاتا تھا کہ انکار سے معطلی کے دل کو صدمہ نہ پہنچے۔

پور زادہ نحر الدولہ زرگری میں ہوشیار تھا اور محنت مزدوری

شکم پر درمی کرتا تھا چنانچہ اس کے ہاتھ کی بناٹی ہوئی تقری ڈبیہ اب تک
بجائے خانہ ماورد میں محفوظ ہے۔

معتد کی ایک لڑکی شبنم نامی جو خلع سلطنت کے وقت القصر سے
نکل نہ سکی تھی۔ ایک سوداگر کے ہاتھ فروخت ہوئی اور جب اس نے خلوت
کا ارادہ کیا تو شاہی خون جوش میں آگیا تن کر بولی کہ میں بے شک تیری
زر خرید غلام ہوں مگر اپنی اولاد کو غلام دیکھنا نہیں چاہتی۔ گو والدین جلا
وطن ہیں مگر جب تک وہ اجازت نہ دیں گے میں تجھ کو اپنا زوج نہیں بنا سکتی۔
بالآخر سوداگر اور شبنم دونوں جدا گانہ خطوط بھیجتے ہیں اور معتد و اعتماد
کی تحریری اجازت پر قاضی شہر نکاح پڑھ کر دونوں کے اتحاد کو مستحکم کرتا ہے۔
جلا وطنی کے چار سال بعد ۱۰۹۵ھ میں بصرہ ۵۵ سال معتد کا انتقال
ہوا اور اعتماد کی بغل میں جو اس سے قبل داعی اجل کو لبیک کہہ چکی تھی اور جس
کی قبر جبل اغماط کے قریب ایک مزار میں تیار کرائی گئی تھی۔ خاندان ابو عباد
کا آخری فرمانروا ابو القاسم محمد بن عباد المعروف بہ المعتد علی اللہ انظافر
بجول امیر المسابین سلطنت اشبیلیہ سپرد خاک ہوا۔

مرنے سے کچھ پہلے اس نے چند اشعار نظم کر کے وصیت کی تھی کہ
لوح مزار پر کندہ کرا دیئے جائیں۔ جن میں سے دو شعر اس کی حسرت و تکیہ
کو کس قدر دردناک طریقہ سے ظاہر کر رہے ہیں۔ (ترجمہ)

” اے مسافر کی قبر خدا کرے کہ تجھ کو صبح و شام کے ابر سیراب
کریں۔ اس حق کی بنا پر کہ تو ابن عماد کے جسم پر حاوی ہے اور
خدا کرے کہ تیرے اندر مدفون شخص پر ہمیشہ ہمیشہ خدا کی بے شمار
نعمتیں نازل ہوتی رہیں۔“

گردش زمانہ دیکھو کہ نماز جنازہ کے لئے آس پاس کے گاؤں کے مسلمانوں کو یہ کہہ کر طلب کیا کہ "ایک غریب مسافر کی نماز جنازہ میں شرکت کیجئے" اور جب سترھویں صدی کے ایک زبردست مورخ نے فاتحہ پڑھنے کی غرض سے تلمسان سے اقصائے مغرب کا سفر کیا تو اغامت میں اس کی قبر کا نام و نشان بتانے والا یہ مشکل دستیاب ہو سکا۔

نہ گور سکندرنہ ہے قبر دارا

مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے

سیدہ کبریٰ نے ۱۰۸۵ء میں اشبیلیہ میں ایک مسجد تعمیر کرائی تھی جو سترھویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کے اخراج پر کلیسائے جان پلسا کے نام سے تبدیل ہو گئی اور جہاں اب بجائے تکیر کے تھلیٹ کا جسرس سنائی دیتا ہے۔ مسجد کا کتبہ بنیاد جو سیدہ کبریٰ کے نام سے منارہ پر نصب تھا وہ وہاں سے اتار کر عجائب خانہ اشبیلیہ میں بیچ دیا گیا ہے۔ سیدہ کبریٰ کا بڑا لڑکا عبداللہ ابن حسن الرشید سخاوت و مہمان نوازی میں حاتم وقت تھا اس کا اجڑا ہوا محل جہاں ہزار ہا غریب و مساکین کو ہر جمعرات کھانا کھلایا جاتا تھا اسی کلیسا کے پاس اب بھی موجود ہے اور ہر جمعرات کو اب بھی غریب کا مجمع کثیر اس کے قریب ہو جاتا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ معتد کے زمانہ میں دعوت ہوا کرتی تھی اور اب اس محل کے زیر سایہ گدڑی بھرتی ہے۔

فاعتبروا یا اولی الابصار (ماخوذ)

اندلس کی آخری ملکہ ایشلونہ

خلیفہ ولید بن عبد الملک فرماں روائے دمشق کے زمانہ میں جس کا عہد خلافت دس سال من ابتداء ۸۶ھ لغایت ۹۶ھ رہا ہے۔ ملک اندلس دو غلامان اسلام طارق و موسیٰ کے زور بازو سے تقریباً دو سال کی خفیف مدت میں تمام و کمال فتح ہو گیا۔ لیکن نفاق و حسد نے ان دونوں کو تباہ کر دیا۔ یہ حیرت ناک فتوحات حساد کی آنکھوں میں اُس وقت تک کھٹکتی رہیں جب تک کہ دونوں کے خاندان کا نام و نشان باقی رہا۔ موسیٰ و طارق فتح اندلس کے بعد دمشق طلب کئے گئے جہاں دونوں مغلوب ہوئے۔ خلیفہ ولید کے بعد بچہ خلیفہ سلیمان موسیٰ کے بیٹوں قرظہ عبد اللہ گورنر قرظہ وان (طونس) عبد الملک گورنر طنجہ (مراکش) اور عبد العزیز گورنر اشبیلیہ (اندلس) صفحہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ عبد العزیز اندلس کا پہلا وائسرائے تھا (والی) تھا۔ جس نے دو سال تک گورنری کر کے آخر ماہ ذی الحجہ ۹۶ھ میں خلیفہ سلیمان کے حکم سے شہادت پائی۔ اسی امیر نے اندلس کے آخری نصرانی بادشاہ لزریق کی بیوہ ایشلونہ سے شادی کی تھی جس کا واقعہ درج ذیل ہے۔

(۱)

مورخین اندلس بیان کرتے ہیں کہ مغرب اقصیٰ کی ایک بڑی شہزادی ایک روز صبح کو دریا کی سیر کے لئے بجرہ پر سوار ہو کر بحر زقاق (خلیج جبرالٹر) کو روانہ ہوئی۔ موسم خوش گوار تھا۔ خشک ہوا چل رہی تھی۔ سمندر میں تموج

پہت کم تھا۔ شہزادی نے کشتی میں قدم رکھا۔ خدام نے بسم اللہ مجربہ کہا۔ اصنام ہرقل میں سے جبل منانے الوداع کہا اور خاک یورپ کی کلیسیا نے دور سے مرجا و خوش آمدید کا نعرہ بلند کیا۔ شہزادی نے ڈوری سنبھالی۔ ملاحوں نے بادبان کھولے اور کشتی موجوں سے اٹھکیلیاں کرتی ہوئی رواں دواں ہوئی۔ حلقہ بگوشان دولت نے خدا حافظ کہہ کر شہزادی کو رخصت کیا اور اگرچہ کشتی نظروں سے اوجھل ہوتی جاتی تھی تاہم خیرسگالان دولت ٹکٹکی باندھے کشتی کو دیکھ رہے تھے۔ جو دکش انداز کے ساتھ بیچ وریچ موج سے بغل گیر ہوتی ہوئی بحیرہ روم کی طرف جارہی تھی۔ کشتی ابھی ۶.۵ میل گئی ہوگی کہ ہوا میں تیزی پیدا ہوگی پانی برسنے لگا۔ بلند موجیں اٹھنے لگیں اور سمندر میں تلاطم برپا ہو گیا۔ شہزادی کی کشتی جانب شمال تیز بہ چلی۔ ملاحوں نے مستول و بادبان کو سنبھالا لیکن کشتی کسی طرح قائم نہیں ہوتی تھی۔ بادبان پارہ پارہ اور سیال ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں۔ کشتی میں پانی بھرا جاتا تھا جس کو خدمت گزار نکال رہے تھے جب انسانی کوشش مجبور ہو گئی تو خدا کے نام پر کشتی چھوڑ

لے اصنام ہرقل، مراکش (افریقہ) اے اندلس (یورپ) کے درمیان ۱۲ میل کا بحر زقاق ہے۔ جانب افریقہ جبل تھا اور جانب یورپ جبل کلیسیا ہے یہ دونوں چٹانیں بہت بلند عمودی شکل میں واقع ہیں تو ہم پرست مورخین یورپ لکھتے ہیں کہ ہرقل نے جو قدیم یونان و مصر کا مشہور رستم ہے پہاڑ چیر کر اور ان کو بہ شکل ستون قائم کر کے سمندر پر پل بنایا تھا اور اسی پر سے وہ شاہ قادوس کے مویشی چراگرا افریقہ لے گیا تھا۔ عرب ان کو اصنام ہرقل اور یوڈین ستون ہرکلیز کہتے ہیں۔

دی گئی۔ تند و خشناک سمندر نے کشتی کو تھپڑے دینا شروع کیا۔ کشتی کبھی اذقیقہ کا رخ کرتی تھی اور کبھی یورپ کا آب سمندر کی موجیں کشتی کو سطح آب سے بلند کرتی تھیں اور پھر کنا سے لگا دیتیں۔ اسی طرح یہ کشتی گرتی پڑتی جنوبی اندلس کے چھوٹے بندرگاہ ساحل داینہ کے قریب شام کو پہنچی۔ یہاں بھی طوفان بلاخیز کے آثار ہو رہے تھے۔ بہت سے جھوپڑے اڑاڑ کر سمندر میں گر چکے تھے اور کتنی کشتیاں ٹکرائیں اور کراہتیں مچیں۔ مکانوں کی چھتیں اڑ رہی تھیں۔ غربا کے مکانان کثرت بارش سے گر رہے تھے۔ گلیوں میں ندی نالے جاری تھے غرض کہ ایک ہنگامہ محسوس ہوا تھا۔ راہبان اُس وقت اعظم یہ حالت دیکھ کر توبہ استغفار کے لئے کلیسا میں جمع ہوئے اور القائد کی آمد پر خشوع و خضوع سے دعائے استغفار شروع کی گئی۔ یہ مجمع ابھی چھٹنے نہ پایا تھا کہ ایک سپاہی گھرایا ہوا کلیسا میں داخل ہوا اور سہرائی ہوئی آواز میں چیخا کہ دوڑو عرب آگئے۔ القائد اور اس کے جاں باز سپاہی ساحل کی طرف دوڑے۔ کلیسا سے بہت سے من چلے نوجوان بھی نیزہ تلوار لے کر ساتھ ہوئے۔ لیکن کنار پر پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ بجائے جنگی جہازوں کے ایک متوسط کشتی ساحل پر آگئی ہے جس میں چند مستورات اور غلام و ملاح بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب پانی سے شرابور ہو رہے ہیں۔ سردی سے دانت نچ رہے ہیں۔ گیسو پریشان ہیں۔ اور بدحواسی کا عالم طاری ہے کشتی اگرچہ صبح سالم ہے لیکن موجوں کے

۱۰ کلکٹر ضلع کے برابر اس کو اختیارات سول جوڈیشل پولس وغیرہ کے حامل ہوتے ہیں اہل عرب کے زمانہ سے کچھ قبل یہ عہدہ اندلس میں قائم ہوا تھا۔ جس کو مسلمانوں نے بھی اپنے زمانہ میں قائم رکھا۔

تھپڑوں سے اس کا رنگ دروغن اڑ گیا ہے۔ اندلسی نوجوان تیغ و تیر سے مسلح حملہ کو تیار تھے لیکن القائد نے سب کو روک دیا اور اپنے سپاہیوں کو بھیج کر سب کو بجز میت کشتی سے اتارا۔ ٹوٹی پھوٹی بزرگی زبان میں ان سے القائد نے بات چیت کر کے حالات دریافت کئے جس کے بعد سب کو قلعہ میں لے گیا اور سب کے آرام و آسائش کا انتظام کیا۔

القائد نے اسی یوسف گم کردہ کی اطلاع اندلس کے آخری فرمانروا شاہ لشریق کو کی جس نے سب کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ اور شہزادی کے حسن و جمال سے فریفتہ ہو کر اس نے اس کو اپنی محبوب ملکہ بنا لیا۔ جو ایشلونہ کے نام سے شریک تاج و تخت بن گئی۔

دو سال تک ملکہ ایشلونہ سفر و حضر خلوت و جلوت میں سایہ کی طرح شاہ لشریق کی رفیق محبت رہی جنگ و امن میں اس کی رائے و مشورہ کو ہمیشہ غلبہ رہا لیکن جب طارق کی فیصلہ کن جنگ وادی لکہ کے موقع پر ایشلونہ پیچھے چھوڑی گئی تو ہمیشہ کے لئے لشریق سے جدائی ہو گئی۔ لشریق طارق کے ہاتھ سے اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور ملکہ ایشلونہ کو بیوگی کا تلخ تجربہ اٹھانا پڑا۔

زمانہ نے کروٹ بدلی حکومت اندلس میں انقلاب عظیم نمودار ہوا شاہان قوط کی تخت و تاج پر بادشاہ نشینان عرب کا تسلط ہے صلیب کی جگہ ہلال نمودار ہے پرچم ارغوانی کی بجائے خلفائے دمشق کا رایت سفید حبل طارق سے لے کر کوہ البرتات (پرینیز) تک اور برشلونہ سے ایشلونہ تک لہرا رہا ہے تاجو (دریائے ٹیگس) کی وادیوں وادی البکیر کی مرغزار اور کوہ البرتات کی گھاٹیوں میں توحید کی آواز گونج رہی ہے۔ شاہ لشریق جو طارق کی تیغ خارا

شکاف کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ تو ہم پرست اہل اندلس کے نزدیک کبھی صحرا میں
گلمہ بانی کرتا ہے کبھی کسی خانقاہ میں اپنے افعال شنیعہ کی پاداش میں نفس کشی
کر رہا ہے اور کبھی اس کے جسم کو بچھو اور سانپ ڈس رہے ہیں۔ طارق و موسیٰ
تمام ملک کو تسخیر کر کے آپس کے نفاق و حسد کا شکار ہو کر دمشق میں طلب
کئے جاتے ہیں جہاں دونوں محتوب ہو کر حالت کس مہر سی میں جھونک دیئے
جاتے ہیں۔

موسیٰ نے قبل روانگی اپنے بیٹے عبدالعزیز کو امیر اندلس مقرر کر دیا تھا
اور عنان حکومت دیتے وقت امن و امان قائم رکھنے اور عدل و انصاف
جاری رکھنے کی سخت ہدایت کی تھی لیکن اس زبانی ہدایت پر وہ قانع نہیں
رہا بلکہ راستہ سے اس نے ایک خط بھیجا جس میں تحریر تھا۔

اے جان پدر تم بہت ہوشیاری سے کام کرنا کسی کے مکر و فریب
میں نہ آنا، دشمن سے غافل نہ رہنا۔ فریب و بغاوت سے دور
رہنا۔ بے وفا اور مکار سے ہمیشہ اجتناب رکھنا اور اس کے
جال میں کبھی نہ پھنسنا۔ یاد رکھو جس نے اپنے دوست کو دھوکہ
دیتے میں تامل نہ کیا وہ تم کو نقصان پہنچانے میں ہرگز پس و
پیش نہ کرے گا۔ عورتوں سے احتیاط نہ رکھنا اور ان کی محبت
سے گریز کرنا۔ ان کی محبت دل و دماغ کو بیکار کر دیتی ہے۔ طاقتور
کو کمزور اور آزاد کو غلام بنا دیتی ہے۔ اگر تیرے دل میں کسی کی
محبت کا خیال پیدا ہو تو فوراً کانٹا سمجھ کر نکال پھینکنا۔ اس
میں جتنی دیر کرے گا۔ اتنی ہی غلش بڑھے گی۔ تخم محبت کو تو اگنے
نہ دینا ورنہ وبال جان ہو جائے گا۔

عبدالعزیز سرحد حلیقیہ کی مہم سے فاتح و منصور اپنی دارالمنقر اشبیلیہ
کو واپس آتا ہے اور نماز شکرانہ ادا کر کے القصر میں داخل ہوتا ہے۔ جہاں
نصاری اندلس نے مبارک باد کے نغمے گائے اور فتح و نصرت کے شادیاں
بجائے عبدالعزیز شاداں و فرحاں القصر میں ان لوگوں کی تہنیت قبول
کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایشلونہ پر پڑی جس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا یہ ادا اس
مغموم سر جھکائے ایک کونہ میں بیٹھی تھی۔ سب نے مبارک باد پیش کی لیکن
یہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ شاہ متوفی کی یہ بیوہ
ہے۔ عزیز جو خلقی طور پر رقیق القلب واقع ہوا تھا۔ شاہ لرزق کی بیوہ کو
اس طرح دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور قریب جا کر ایشلونہ کی مزاج پرسی کی
جس کا جواب اس نے بربری زبان میں تقریباً علامہ ڈاکٹر اقبال کے
ان اشعار میں دیا۔

آہ کیا کہئے کہ اب پہلو میں اپنا دل نہیں بچھ گئی جب شمع روشن درخور محفل نہیں
لے مضاف نظم مستی میں سے قابل نہیں ناامیدی جس کو طے کر لے یہ وہ منزل نہیں

ہائے کس منہ سے شریک بزم میخانہ ہوں میں

ٹکڑے ٹکڑے جس کے ہو جاویں وہ پیمانہ ہوں میں

یا امیر اللومنین! اپنی قسمت کو روتی ہوں۔ کل تک میں اسی قصر کی ملکہ

تھی اور آج اسی قصر میں ایک ادنیٰ باندی بنی ہوئی ہوں۔ میری خوشنودی

مزاج کے لئے کل تک یہ خدام رقص و سرود کرتے تھے اور آج مجھ سے کہا

جاتا ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہو کر اپنے شوہر کے فاتح و غاصب کے لئے

شادیاں مسرت بجاؤں۔ انسو میں آج یہ دن دیکھنے کے لئے کیوں زندہ ہوں

یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان عبدالعزیز پر ایشلونہ کے حسن و جمال نے جادو کا اثر کیا اور جب عزیز کے اس سوال پر کہ یہ بربری زبان کہاں سیکھی ایشلونہ نے اپنی داستان غم سنائی تو وہ بالکل بے قابو ہو گیا اور شاید یہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیتا اگر ایوب جیسا غم خوار خالہ زاد بھائی اس کو ہتھیار نہ کرتا۔

عبدالعزیز اس وقت تو چلا گیا لیکن تیر عشق کام کر چکا تھا۔ اس کا دل اب مرہم جگر کے تلاش میں گلگشت حرم سرا کو صبح و شام جانے لگا اور وہ گھنٹوں کسی نہ کسی وجہ سے ایشلونہ کی صحبت میں گزارنے لگا۔ ایوب کو یہ کب گوارا ہو سکتا تھا اس نے عبدالعزیز کو ٹوکا اور موسیٰ کی وہ نصیحت یاد دلائی جس میں اس نے عورت کی محبت سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی تھی۔ لیکن عبدالعزیز نے جواب دیا کہ وہ کسی بڑے خیال سے نہیں جاتا بلکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس غریب مظلوم عورت سے عقد کر لیا جائے تو کیا۔ ایوب کی صلاح بیکار گئی۔ موسیٰ کی نصیحت اوراق پریشان کی طرح طاق نیساں میں پھینک دی گئی۔ علمائے کرام کے مواعظ محراب و منبر پر دھر رہے۔ عزیز نے کسی کو گوش توجہ سے نہ سنا اور ایشلونہ چند دنوں بعد عبدالعزیز کی حرم محترم بن کر غاشیہ امارت پر جلوہ آرا ہو گئی۔

عقد کو ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ عبدالعزیز کا عشق ایشلونہ کی ناز آفرینی کے ساتھ ساتھ روز بروز بڑھتا گیا۔

ایشلونہ میں اول تو یوں ہی صفت نسوانی کی تمام دلفریبیاں موجود تھیں اس پر خدائے اس کو ایک فرزند ارجمند بھی عطا کیا جس سے وہ عبدالعزیز کی نظروں میں محبوب سے محبوب تر بن گئی۔

اب ایشلونہ کا نام ام العاصم قرار پایا اور اس کے اقتدار میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ملک مفتوحہ میں عبدالعزیز کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی لیا جانے لگا اور مہات سلطنت میں اس کا مشورہ لازمی ہو گیا۔

اگرچہ ام العاصم اس وقت امیر اندلس کی بیوی تھی لیکن تمدن اسلام پر ہنوز مصری و ایرانی تکلفات کا رنگ نہیں چڑھا تھا اور فاتحانہ اندلس یورپ نشینان عرب کی سادہ زندگی بسر کرتے تھے لیکن اس مایہ ناز و ادا اس سرچشمہ محبت اس دلدادہ عیش و نشاط کے دل و دماغ سے بوئے سلطنت نہیں گئی۔ وہ اندلس کے حش و کھچ کی تھی اور رومۃ الکبریٰ اور الاقصر کے نغمائے مسرت کی آواز باز گشت سن چکی تھی اس سادہ سپاہیانہ زندگی کی مطلق روادارہ تھی ایک روز جب کہ عبدالعزیز اس کے نشہ حسن سے سرشار بیٹھا تھا کہ اس نے عزیز سے کہا کہ وہ باوجود حقیقی فاتح و فرمانروا اندلس ہونے کے تاج شاہی کیوں زیب فرق نہیں کرتا۔ عبدالعزیز نے ایشلونہ کو جھڑک دیا۔ جبکہ آقا خلفائے ہوامیہ بجز عامہ کے اور کوئی تاج یا ٹوپی سر پر نہیں رکھتے تو اس کے لئے جو منجملہ ۸۔۱۰ گورنروں کے ایک معمولی امیر کا درجہ رکھتا ہے۔ تاج زیب سر کرنا داخل جرم و کفر ہے۔ لیکن تریاہٹ کے سامنے عبدالعزیز کی منطق بے کار تھی۔ ایشلونہ کا اصرار غالب آ گیا اور منجملہ ۳۶ تاجوں کے دو تاج جو موسیٰ کے دست برد سے باقی رہ گئے تھے اس نے منگوائے جن میں سے ایک بڑا تاج اپنے دست نازک سے عبدالعزیز کے سر پر بجا کر بولی "یا امیر المؤمنین! آئینہ دیکھو! یہ تاج اچھا معلوم ہوتا ہے یا تمہارا عربی صافہ۔" عبدالعزیز آئینہ میں اپنی صورت دیکھ کر غرور و امارت سے سرور و شادان ہو گیا مگر پھر کچھ سوچ کر تاج اتارنے

لگا۔ مگر ایشلوند کب ماننے والی تھی۔ اس نے نہ صرف عبدالعزیز کو تاج پہننے پر مجبور کیا بلکہ خود بھی دوسرا تاج عبدالعزیز کے ہاتھ سے زیبہ کر گیا اور تاج پوشی کے بعد اپنے سر پر رکھوا کر خدام و مصاحبین القصر کو موقعہ حاضر کی و مبارک باد کا دیا۔ اس دن سے عبدالعزیز خاص موقعوں پر عمامے اور عروانی زیبہ برادر تاج قوطی زیبہ فرق کر کے قدیم شاہان اندلس کے رعب و اب کی یاد تازہ کرانے لگا۔ ملک اندلس میں اس انقلاب رسم و آئین کی خبر پہنچی تو مخالفت کا زور ہو گیا۔ اہل عرب جو عزیز کے اس عقد سے زیادہ خوش تھے منحرف ہونے لگے۔ نصاریٰ اندلس نے بھی بجز خاص متوسطین و لوہائین کے نظر پسندیدہ سے دیکھا نہیں۔ عبدالعزیز کبھی کبھی تاج پہن کر دیوان میں آنے لگا اور یہی نہیں بلکہ ایشلوند نے نصاریٰ اندلس کو حکم دیا کہ حسب رواج قدیم زمین بوس خدمت ہو کر عزیز کو کورنشات شاہی بحال لائیں۔ اہل عرب کے لئے جھک کر سلام کرنا ایک مشکل امر تھا۔ ہذا ایشلوند اور عبدالعزیز کو خاص ترکیب کرنا پڑی یعنی سرداران عرب کی آمدورفت کے لئے ایک چھوٹی کھڑکی دیوان خاص میں بنائی گئی جس میں سے ان کو آنے وقت لامحالہ سر جھکانا پڑتا تھا۔

عبدالعزیز کی اس مطلق العنانی کا تمام ملک میں چرچا ہونے لگا اور اگرچہ اس کی سخاوت و شجاعت معدلت گسری اس کی کمزوریوں کو چھپا کے ہوئے تھے لیکن اس اختلاف و خودرانی کا کوئی علاج نہ تھا مخالفین نے دربار خلافت میں ایک طولانی فرود جرم مرتبہ کی۔ جس میں خاص طور پر تین الزامات نمایاں کئے گئے۔ اول یہ کہ موسیٰ کے زوال و تہسیر سے عبدالعزیز نے متاثر ہو کر علم بجاوت و خودسری بلند کیا ہے اور تکمیل

مقاصد کے لئے اس نے شاہ لرزقی متوفی کی بیوہ سے شادی کر کے
 نصرانی جاگیرداران و سرداران کو متحد و متفق کر کے اپنا ہوا خواہ و معاون
 بنایا ہے۔ دوم یہ کہ شاہ متوفی کا تاج و عباٹے ارغوانی خلاف اصول
 اسلام و بلا اجازت خلافت دمشق زریب کر کے دربار شاہی آراستہ و
 پیراستہ کرتا ہے۔ سوم یہ کہ شہر اشبیلیہ کے قریب بیرون باب القریطہ
 بیت المال سے نہ صرف اپنے عیش و آرام کے لئے ایک عالی شان ایوان
 تعمیر کرایا ہے۔ بلکہ اسی باغ میں ایک خانقاہ تعمیر کرائی ہے۔ جہاں
 تثلیث کی تلقین ہوتی ہے۔

عبدالعزیز کو جب اس مجری کی اطلاع ہوئی تو اس نے ۹۷ھ میں
 ایک وفد خلیفہ سلیمان کی خدمت میں اس کی صدری کے موقع پر مبارکباد
 دینے کے لئے بسرکردگی محمد بن حبیب اسح بن مالک۔ اسمعیل بن ابی
 عبداللہ و مشق کو بہت سے بیش قیمت تحائف کے ساتھ روانہ کیا لیکن
 دمشق میں مخالفین موسیٰ و عبدالعزیز کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی جن
 کی وجہ سے خلیفہ کا دل نرم نہ ہوا اور اس نے ایک منشور سر بہر اس تاکید
 کے ساتھ روانہ کیا کہ سر زمین یورپ میں پہنچ کر یہ لفاظی کھولا جائے اور
 بلا عذر حیلہ تعمیل حکم کر کے دربار خلافت کو نتیجہ سے فوراً مطلع کیا جائے
 تخت برگشتہ کو دیکھو کہ جن پانچ سرداران اندلس کو یہ لفاظی تعمیل
 کے لئے دیان میں سے جنرل حبیب بن عبیدہ الفہری اور جنرل زیاد بن
 بدر موسیٰ اور عبدالعزیز کے صادق اجاب میں سے تھے۔ حبیب ہی نے
 پہلے لفاظی کھولا اور جس وقت دربار خلافت کا حکم دیکھا تو فرمان اس کے
 ہاتھ سے گر پڑا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور زیاد سے کہنے لگا

کم نخت دشمنوں نے خاندان موسیٰ کا پیچھا ابھی تک نہ چھوڑا۔ قیامت ہے کہ عبدالعزیز کے قتل کا حکم ہم کو دیا جاتا ہے زیاد بھی دم بخود رہ گیا۔ لیکن دربار خلافت کا حکم اہل تنجاہ اس کی تعمیل سب پر مقدم تھی۔ اکثر اہل عرب پہلے ہی سے مخالف تھے۔ صرف ایشیونہ کا رسالہ محافظت (باڈی گارڈ) اور نصاریٰ انڈس اس کے موافق تھے لیکن اس حکم کی تعمیل میں اس خاموشی اور عجلت سے کام لیا گیا کہ قتل سے پہلے کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہوا۔

دوسرے روز نماز فجر کے وقت جب عبدالعزیز اپنے باغ کی خانقاہ میں ایشیونہ کا انتظار کر رہا تھا جو خانقاہ میں ایک راہب کے ہاتھ پر بیعت واستغفار کر رہی تھی۔ فوج اسلام نے باغ کا محاصرہ کر لیا اور چند تندخو نوجوانوں نے خانقاہ میں داخل ہو کر عبدالعزیز اور ایشیونہ کو گھسیٹ کر نکالا اور دارالامارت اشبیلیہ کے چوراہہ پر لا کر بے رحمی سے قصاص کیا۔ دونوں عاشقان ناز کے مرتن سے جدا کر کے نعشیں بے کفن خاک و خون میں غلطاں و پچاں سر بازار چھوڑ دی گئیں کسی کو اتنا ترس نہ آیا کہ ان پر ایک چادر ڈال دیتا۔ آخر تاریکی شب میں چند وفادار خداترس خدام نے دونوں کو اٹھا کر کنیہ ربینا کی ایک کوٹھری میں سپرد خاک کیا۔ اناشد وانا الیہ راجعون۔ ام عاصم کا ذکر یہاں مفصل پیش کیا ہے۔ یہ سخت دلی بھی کس قدر عبرت ناک سبق آموز ہے کہ جس وقت جنرل حبیب عبدالعزیز کے سرد دربار خلافت میں لے کر پہنچا تو موسیٰ کو جس کی حالت اس وقت نہایت قابل رحم تھی خلیفہ سلیمان نے سرد کھلا کر پوچھا کہ ”پہچانتے ہو یہ کس کا ہے۔“

موسیٰ نے اپنے نخت جگر کا سرد دیکھ کر ایک چیخ ماری اور آسمان کو

دیکھ کر دہائی دی کہ خدایا جس نے اس فرشتہ خصلت عزیز کا سرا تارا ہو وہ
تباہ و برباد ہو جائے۔

ان شہیدان ناز کی قبریں ایک عرصہ تک ایک تودہ خاک کی شکل میں
حالت کس مہرے میں پڑی رہیں نہ کبھی کسی کو شمع جلانے کی توفیق ہوئی اور
نہ کبھی کسی کو دو پھول چڑھانے کا خیال ہوا۔ مسلمانوں کی سلطنت کا اندس
میں خاتمہ ہو گیا ہے اور اگرچہ خانقاہ شنت ایٹا باقی ہے لیکن قبروں کا
نام باقی نہیں دریافت کرنے سے بھی کوئی رہبری نہیں کرتا کہ عاشقان
باصفا کس جگہ سو رہے ہیں۔

جو جو کہ انتخاب تھے صفو پہ دہر کے
اس طرح مٹ گئے کہ نشاں بھی نہیں ہوا

ماخوذ

دودمان تیموریہ کی علم دوستی

شاہان تیموریہ کی علم دوستی اور حسن مذاق کا اس سے نمایاں ثبوت ملتا
ہے کہ جہاں انہوں نے حکومت کا نظم و نسق سنبھالنے اور ملک گیری کے لئے
اپنے شہزادوں کو زور تعلیم سے آراستہ کیا۔ وہاں انہوں نے اپنی شہزادیوں
کو بھی اس سے محروم نہ رکھا۔ علم و فن کی مجلسیں نہ صرف ان کے درباروں
میں ہی قائم تھیں بلکہ ان کے خلوت کدوں میں بھی علم و ادب کی بزم
آراستہ تھی۔ فتوحات کی معرکہ آرائیوں اور جنگ کی خون آشامیوں کے
باوجود تیموریوں نے جلوت اور خلوت دونوں کو علم و ہنر کی شمع سے منور

رکھا۔ چنانچہ علمی حیثیت سے تیموری شاہزادوں کے ساتھ ایسی تیموری شاہزادیاں بھی ملتی ہیں جن کی ذات پر ارباب علم و فضل کو بجا طور پر ناز ہو سکتا ہے۔

گلبدن بیگم

ان شاہزادیوں کی علمی بزم میں سب سے پہلے گلبدن بیگم نظر آتی ہے جو بابر کی بیٹی تھی، بابر کے لڑکوں میں ہمایوں، کامران، ہندال اور عسکری مرزا نے میراث علم ادب اور شعر و شاعری کا ذوق پایا اور اسی دورانِ فضل و کمال کے گہوارہ میں گلبدن بیگم نے بھی پرورش پائی اور اپنی اعلیٰ تعلیم و تربیت کی بدولت ترکی اور فارسی زبان کی قابل قدرانتا پر داز اور شاعرہ ہوئی۔ فارسی زبان میں اس کی ایک تصنیف ہمایوں نامہ ہے جو اپنی طرز انشا پر ایک لاجواب کتاب اور ہمایوں کے عہد کے تمدنی، معاشرتی اور تاریخی واقعات کے لئے ایک قیمتی ماخذ ہے۔

یہ کتاب اکبر کے حکم سے اکبر نامہ کی ترتیب و تدوین کے وقت بابر اور ہمایوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لئے لکھی گئی تھی لیکن اپنی خصوصیات کی بنا پر ایک اہم تالیف ہو گئی یہ کتاب عرصہ دراز تک گوشہ گم نامی میں پڑی رہی لیکن انگلستان کی ایک علم دوست خاتون نے اس کے متعدد نسخے ہم پہنچائے اور اس کو کافی محنت و عرق ریزی سے مرتب کر کے ۱۹۰۲ء میں لندن سے شائع کیا۔ اس کے دیباچہ میں خاتون مذکور نے گلبدن بیگم کی مفصل سوانح عمری لکھی ہے اور کتاب میں جن بیگمات کے نام آئے ہیں ان سب کے حالات بھی تحریر کئے ہیں۔ کتاب میں جہاں جہاں ترکی الفاظ آئے ہیں ان کی تحقیق کی اور پھر فارسی متن کے ساتھ انگریزی ترجمہ بھی

منسلک کیا۔

مولانا شبلی مرحوم نے اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے اور خصوصیت اور خوبیاں انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس کتاب کی ادبی اور تاریخی اہمیت کا اندازہ کرنے کے لئے مندرجہ ذیل الفاظ ملاحظہ کیجئے۔

اس کتاب کی انشا پر داری کے متعلق مولانا شبلی کہتے ہیں۔

فارسی زبان میں سادہ اور صاف واقعہ نگاری کا عمدہ سے عمدہ نمونہ تنزک جہانگیری اور واقعات عالمگیری ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ کتابیں سادگی اور لطافت کے لحاظ سے اس قابل ہیں کہ ہزاروں ظہوری اور وقائع نعمت خان ان پر تیار کر دی جائیں لیکن انصاف یہ ہے کہ ہالیوں نامہ کچھ ان سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے فقرے سادہ اور بے تکلف الفاظ روزمرہ کی عام بول چال طرز ادا کی بے ساختگی دل کو بے اختیار کر دیتی ہے۔

تاریخی حیثیت سے اس کتاب کی قابل قدر خصوصیت مولانا شبلی یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں اس عہد کے تمدن شائستگی، معاشرت اور خانگی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو روشن کر کے دکھایا گیا ہے۔ مثلاً وہ کسی شادی یا جلوس کی تقریب کا حال لکھتی ہے تو اس کی ہر تصویر کھینچ دیتی ہے عورتوں کے متعلق وہ بہت سی نئی معلومات فراہم کرتی ہے۔ مثلاً عورتیں لکھنے پڑھنے کے علاوہ فنون سپہ گری سے بھی خوب واقف ہوتی تھیں سفر اور سیر و شکار میں تھیں اور بعض اوقات وہ مردانہ لباس بھی پہنتی تھیں۔ ہرانگیز بیگم (منظفر حسین مرزا بیگم کی بیٹی) کے بارہ میں لکھتی ہے کہ وہ مردانہ لباس میں غلبوس رہتی

تھی اور مختلف ہنر مثلاً چوگان بازی، تیر اندازی اور ساز بجانے میں ماہر تھی۔
 ہالیوں جب ایران گیا تو اس کی ایک بہن ہمیشہ گھوڑے پر سوار اس کے عقب
 میں چلتی تھی۔ خاندان کے آدمی جب ایک جگہ مل کر بیٹھتے تھے تو عورتیں بھی
 گانے میں شریک ہوتی تھیں لیکن یہ احتیاط رہتی تھی کہ کوئی غیر آدمی اس محفل
 میں شریک نہ ہو۔ عورتوں کا نہایت احترام کیا جاتا تھا۔ بابر کی بیوی ماہم بیگم
 جب کابل سے ہندوستان آئی تو باہر دو کوس تک پیدل استقبال کو گیا۔ ملکی
 معاملات میں عورتوں سے بھی مشورے لئے جاتے تھے اور ہر قسم کے امور
 میں ان کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی۔

ایک اور خصوصیت اس کتاب کی یہ بتائی جاتی ہے کہ گلبدن بیگم تاریخی
 واقعات لکھنے میں اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ کس واقعہ کو مختصر اور
 کسی کو تفصیل سے لکھنا چاہیے وہ خوب جانتی تھی کہ کونسا واقعہ کیا اثر رکھتا
 ہے اور اس لئے اس کے اسباب و مصل سے کہاں تک بحث کرنی چاہیے۔
 اکبر نامہ جلد سوم صفحہ ۸۱۷ میں لکھا ہے کہ گلبدن بیگم کے عالم نزع
 میں مریم مکانی اس کے سر ہانے کھڑی تھی دونوں میں بڑی محبت تھی۔
 مریم مکانی گلبدن بیگم کو بیگم جو کہہ کر بار بار پکار رہی تھی۔ گلبدن بیگم نے
 آخری بار آنکھیں کھولیں اور مریم مکانی کی طرف دیکھ کر یہ مصرع پڑھا۔
 من زار عبر دم عمرت باوا ارزانی

گل رخ بیگم

بابر کی ایک دوسری لڑکی گل رخ بیگم، صالحہ سلطان بیگم کے بطن سے
 تھی وہ بھی شعر و شاعری سے ذوق رکھتی تھی اور اشعار موزوں کرتی تھی۔

صبح گلشن مولفہ نواب علی حسن خاں مرحوم میں اس کی شاعری کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔

” یہ گل رُخی و شگفتہ روئی و سلیقہ شاعری سرآمد زمرہ نسواں غنچہ
دہانش بہ نسیم اشعار لطیف می شگفتہ “

سلیم سلطان سلیم

یہ بابر کی نواسی اور گل رُخ سلیم کی بیٹی تھی۔ پہلے خانخاں بیروم خاں سے شادی ہوئی اس کے انتقال کے بعد اکبر سے نکاح ہوا۔ سیاسی واقعات میں اس کا نام اس وقت نمایاں ہوا جب شہزادہ سلیم نے اکبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ سلیم سلطانیہ ہی کی کوششوں سے اکبر اور سلیم میں مصالحت ہوئی۔ اس سلسلہ میں اکبر نامہ منتخب التواریخ میں اسی کا ذکر بار بار آتا ہے۔ اس کو شعر و شاعری سے بھی مناسبت تھی۔ ناثر الامراء جلد اول ص ۳۶۶ میں لکھا ہے کہ اس کا تخلص مخفی تھا لیکن مخزن الغرائب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ اس کا تخلص مخلص تھا۔

مورخین نے سلیم بی بی کی کتب بینی کے شوق کا بھی اعتراف کیا ہے۔ اور اس شوق کی تکمیل کے لئے اس کے پاس ایک ذاتی کتب خانہ بھی تھا۔

ماہم سلیم

یہ سلیم دودمان تیموریہ کی چشم و چراغ تونہ تھی لیکن ہندوستان کے سب سے بڑے بادشاہ اکبر بادشاہ کی مرضہ (دودھ پلانے والی) تھی اس لئے اس کا ذکر اس سلسلہ میں بے محل نہ ہوگا۔ ماہم سلیم ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ

خاتون تھی اسی نے علم و فضل کی ترویج و اشاعت کی خاطر اس نے دہلی میں ایک اعلیٰ پیمانہ کا مدرسہ خیر المنازل کے نام سے قائم کیا۔ سر سید احمد خاں نے آثار الصنادید میں اس کا ذکر کیا ہے یہ مدرسہ پرانے قلعہ کے پاس واقع تھا۔

اس مدرسہ کے ساتھ طلباء کے لئے ایک بہت ہی حسین مسجد بھی تھی۔ ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ نے اس مسجد کو دیکھ کر اس کا دلکش نقشہ یوں بیان کیا ہے۔

یہ مسجد پانی سے گھسے ہوئے نوکدار پتھروں کی بنی ہوئی ہے جہاں نقش و نگار ہیں وہاں سُرخ پتھر اور اینٹ لگائے گئے ہیں پھانک اگرچہ اب مسمار ہو چکا ہے لیکن بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسجد کا اندرونی حصہ رنگین پلاسٹر اور چمکدار اینٹوں سے مزین ہے۔ عمارت کا سُرخ اور پھانک رنگین تمغوں اور ترشے ہوئے پتھر کے پھولوں سے منقش ہیں ان میں رنگ نیلے، زرد، سرخ، ارغوانی، سپید اور سیاہ استعمال کئے گئے ہیں اس مسجد میں صرف ایک گنبد ہے جس کی گردن مچی ہے اس کا کنگرہ بہت ہی عجیب و غریب ہے جو مسجد پرانے قلعہ کے کنگرہ سے مشابہ ہے۔ مسجد کی دیواریں عمودی ہیں لیکن مینارے ڈھلوان ہیں۔ موتی مسجد کی طرح چھبے سامنے نکلے ہوئے ہیں۔ اس میں حجرے ہیں جو اور مسجدوں میں نہیں دیکھے گئے۔ یہ مسجد جس فراخ دلی اور فیاضی سے طلبہ کے لئے بنائی گئی تھی

لے آرکیالوجی آف دلی مولف سی اسٹینٹن۔

وہ ماہم بیگم کی تعلیمی دلچسپی کی بڑی دلیل ہے۔

جانان بیگم

بیرم خاں کی لڑکی، عبدالرحیم خان خاناں کی بہن اور اکبر کے لڑکے شہزادہ دانیال کی بیگم تھی۔ بڑی حسین و جمیل، عاقلہ اور تعلیم یافتہ خاتون تھی اس کی فیاضی اور مکارم اخلاق کا بڑا شہرہ تھا۔ علماء و فضلا کی قدروان اور فقراء و مشائخ سے عقیدت رکھتی تھی۔ شاہزادہ دانیال کے انتقال کے بعد شہزادہ سلیم اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا، لیکن اس کی امید برب نہ آئی۔ اکبر کے بعد جب وہ خود تاج و تخت کا مالک ہوا تو جانان بیگم کو نکاح کا پیغام دیا اس وقت شاعر عفت مآب خاتون نے اس کے جواب میں کل دانت نکاوا کر اور زلفیں ٹرٹوا کر جہانگیر کے پاس بھجوا دیں۔ وہ عفت و حیا کا یہ نمونہ دیکھ کر ونگ رہ گیا اور پھر کبھی نکاح کی خواہش نہ کی جانان بیگم زیارت حرمین شریفین سے بھی مشرف ہوئی اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کی سعادت بھی حاصل کی۔ شاعرہ بھی تھی۔

نور جہاں بیگم

نور جہاں بیگم بھی اتر چھیموری النسل نہ تھی لیکن ایک تیموری حکم کی بیوی بن کر شاہی حرم اور حکومت کے نئے رونق و زینت کا باعث بنی۔ نور جہاں نے شاہی محل میں داخل ہوتے ہی اپنے جمالیاتی ذوق سے حرم کی عورتوں کا سارا مذاق ہی بدل دیا۔ پہنتے، اورٹھنے، بناؤ سنگا فرش و فرش اور زید و آرائش کی چیزوں میں اتنی جدتیں پیدا کیں کہ تمام

ملک میں یہی رنگ غالب آگیا حسن مذاق کے ساتھ قدرت نے نور جہاں کو علم و ادب کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ ایک علم دوست باپ کی بیٹی اور ایک اعلیٰ ادیب و انشا پرداز شاعر کی بیوی تھی اس لئے باپ کی وراثت اور شوہر کی رفاقت سے اس کی علمی صلاحیت اور ریافت کو اتنی جلا ہوئی کہ اب تک اس کی استعداد علمی اور سخن سنجی کی داد دی جاتی ہے۔

نور جہاں کی بدیہہ گوئی اور حاضر جوابی کے لطیفے آج کل علمی مجلسوں میں مشہور ہیں مگر پھر بھی ان کا تذکرہ و تحسین سے خالی نہ ہوگا۔

ایک روز جہانگیر نے لباس پہنا جس کا تکم لعل بے بہا کا تھا نور جہاں نے اس کو دیکھتے ہی فوراً یہ شعر پڑھا

ترانہ تکم لعل است بر جہانے حریر

شدہ است قطرہ خون منت گریبان گیر

ایک موقع پر جہانگیر نے عید کا چاند دیکھ کر یہ مصرع موزوں کیا تو دوسرا

مصرع فوراً نور جہاں لکھا۔ ہلال عید براوج فلک ہویداشتد

کلید میکیدہ گم گشتہ بود پیداشتد (مراۃ العینال)

ایک مرتبہ جہانگیر نور جہاں سے کئی روز کے بعد ملا۔ ملنے کی خوشی میں

نور جہاں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جہانگیر نے اس کیفیت کو دیکھ کر

یہ مصرع پڑھا۔

گو ہر زاشک چشم تو غلطیدہ می رود

نور جہاں نے فوراً دوسرا مصرع فی البدیہہ لکھا

آبے کہ بے تو خوردہ ام از دیدہ می رود

نور جہاں اور جہانگیر میں مفصل حال لکھ چکا ہوں اس نے ۱۰۵۵ھ

میں انتقال کیا لاہور میں مزار ہے۔

ممتاز محل

شاہجہاں کی محبوب بیوی ارجمند بانو بیگم الملقب بہ ممتاز محل بھی زیور علم و فضل سے آراستہ تھی اور وہ نہ صرف سخن فہم بلکہ سخن سنج بھی تھی اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک بار شاہجہاں جہان کے کنائے بیٹے کروریا کے مناظر دیکھ رہے تھے کہ اس کی موجوں کی طرف اشارہ کر کے ممتاز محل سے کہا۔

آب از برائے دیدنت می آید از فرسنگھا
ممتاز محل نے اس کا دوسرا مصرع فوراً موزوں کر کے کہا
از ہیبت شاہجہاں سری زند بر سنگھا

(ممتاز محل)

جہاں آرا بیگم

شاہجہاں اور ممتاز محل کی بیٹی تھی جو سیاسی واقعات کے لئے بھی اپنے عہد میں بہت نمایاں رہی۔ ممتاز محل کی گود اور نور جہاں کی صحبت اور شاہجہاں عہد کی اعلیٰ علمی فضا میں رہ کر علم و فضل کے لحاظ سے بھی مشہور ہوئی۔ چھپن میں تعلیم ستی النساء خانم سے حاصل کی جو ملک الشعراء طالب آملی کی بہن اور حکیم رکتا کاشی کے بھائی کی بیوی تھی، یہ خاتون حافظ تھی اور زبانذاتی ادب شناسی اور علم قرأت تجوید میں امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔ ممتاز محل اور شاہجہاں دونوں اس کے قدردان تھے، ممتاز محل کی مہر دار تھی اور

اس کے انتقال کے بعد محل کی صدارت اسی کے سپرد ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد شاہجہاں نے تیس ہزار روپیہ خرچ کر کے اس کا مقبرہ بنوایا جو روضہ تاج گنج میں ہے۔ جہاں آرابگیم نے اسی خاتون کے زیرِ تعلیم رہ کر قرأت و تجوید سیکھا۔ اور یہ بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جہاں آرابگیم نے اعلیٰ قسم کی تعلیم پائی۔ کیونکہ وہ مصنف بھی ہوئی اور شاعرہ بھی۔ ۱۰۲۹ھ میں جبکہ اس کی عمر صرف ۲۶ سال کی تھی تو اس نے مولانا ارواح لکھنوی میں حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ اور ان کے سلسلہ کے اکابر حلقہء مثلاً شیخ حمید الدین ناگوریؒ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ، حضرت خواجہ فرید الدین شکر گنجؒ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ اور حضرت مخدوم نصیر الدین روشن چراغ دہلیؒ کے بہت ہی عقیدتمندانہ احوال درج ہیں جس سے اس کے مذاہبی اور صوفیانہ ذوق کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے مزار مبارک کی زیارت کے لئے گئی تو وہاں جن تاثرات کو قلمبند کیا ان سے بھی اس کی والہانہ عقیدتمندی اور اخلاص کا اظہار ہوتا ہے۔

مولانا ارواح چھپ چکی ہے اس کا ایک خوشخط نسخہ دار المصنفین اعظم گڑھ میں موجود ہے۔ یہ نسخہ جہاں آرا نے مشہور درباری خوشنویس عاقل خاں سے ویلیوں پر لکھوایا تھا اور پوری کتاب کو طلائی نقش و نگار اور زریں افشاں سے مزین کرایا تھا۔ اس پر سنہ ۱۰۶۸ھ مرقوم ہے یعنی تصنیف کے انیس سال کے بعد اور جہاں آرا کی عمر کے ۴۶ ویں سال میں یہ نسخہ لکھا گیا، جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کتاب میں جن بزرگوں کے حالات ہیں ان سے عقیدت و ارادت بھی بدستور قائم تھی۔ اس کتاب کے نسخہ کا سائز

۱۶ x ۲۴ ہے ہر صفحہ میں گیارہ سطریں اور کل صفحات کی تعداد ۴۴۴ ہے مولانا شبلی مرحوم اپنی قلمی کتابوں کے ذخیرہ میں اس کو بہت ہی عزیز رکھتے تھے۔ یہ کتاب خطاطی کے اعلیٰ نمونہ کے طور پر لندن کی نمائش منعقدہ مئی ۱۹۱۱ء میں بھی گئی تھی۔

جہاں آرا کے علمی مشاغل میں زیادہ تر صوفیائے کرام کے حالات کا مطالعہ ہی رہا کرتا تھا۔ جہاں آرا شاعر بھی تھی۔ مونس الارواح میں جا بجا اس کے اشعار درج ہیں۔ اس کے ذوق شعری اور اس سلسلہ میں اس کے جو دستخاکی متعدد روایتیں تذکروں میں پائی جاتی ہیں۔ کلمات الشعراء (سرخوش) ریاض الشعراء اور خزائن عامرہ میں ہے کہ جہاں آرا سلیم ایک دفعہ باغ کی سیر کو ہاتھی پر برقعہ ڈالے نکلی، میر صیدی طہرانی چھپ کر تماشا دیکھنے لگا جب ہاتھی اس کے پاس سے گزرا تو اس نے بے ساختہ یہ مطلع پڑھا

برقع برخ افگندہ بردناز باغش

تا نگہت گل بیختہ آید بہ دماغش

جہاں آرا نے حکم دیا کہ شاعر کو کٹاکشاں سامنے لائیں۔ وہ آیا تو اس سے بار بار مطلع پڑھا کر سنا اور پانچ ہزار روپے دلوائے لیکن ساتھ ہی حکم دیا کہ اسکو شہر سے نکال دیا جائے۔ کیونکہ جہاں آرا سلیم کو شعر تو پسند آیا لیکن گستاخی پسند نہ آئی۔ اس واقعہ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بیگمات کے لئے کس قسم کے آداب مقرر تھے۔

کلمات الشعراء (قلمی نسخہ بنگال ایشیاٹک سوسائٹی) میں جہاں آرا کی علمی فیاضی کی ایک اور مثال درج ہے۔ مرزا حسن بیگ رنج قزوینی نے جو شاہجہانی دربار کا ایک معزز منصب دار اور شاعر تھا۔ شاہجہاں آباد

پر ایک مثنوی لکھی اس شہر کے باغ حیات بخش کی تعریف میں جو اشعار کے
وہ جہاں آرا کو پسند آئے اس کے صلہ میں اس نے پانچ سو روپے انعام
اس کے پاس بھجوائے۔

جہاں آرا کی علم پروری اور اس کے ساتھ اس کے مذاہبی رجحان کا
ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ آگرہ کی جامع مسجد اسی کی بنوائی ہے اس نے مسجد
کے ساتھ ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا جو بہت دنوں تک نہایت کامیابی
سے چلتا رہا۔

جہاں آرا بیگم کو خواجگان چشت سے عقیدت و فاطمہ کے بعد بھی
قائم رہی۔ یعنی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر انوار کے ٹھیک
پائین میں اپنی خواہش کے مطابق دفن ہوئی۔ اس کی پرہیزگاری، نیکی،
انکساری اور ذوق شہری اس کے شعروں سے بھی ظاہر ہے۔ اس کے مزار
کا کپڑا تو سنگ مرمر کا ہے لیکن تعویذ بالکل خام ہے جو ہمیشہ سبز مے
ڈھکا رہتا ہے۔ اس کی سادگی اور انکساری کی عکاسی اس کے اس شعر
سے خوب ہوتی ہے جو اس کی معمولی اور سادہ قبر پر لکھا ہوا ہے۔

(بزم تیموریہ)

بغیر سبزہ نہ پوشد کسے مزار مرا
کہ قبر پوش غریباں ہمیں گیاہ بس است

زیب النساء بیگم

تیموری شہزادیوں کے علمی چمنستان کا گل سرسبز زیب النساء بیگم
ہے یہ اورنگ زیب عالمگیر کی سب سے پہلی اولاد و لرس بانو بیگم کے بطن
سے تھی۔ دستور کے مطابق اس کو سب سے پہلے کلام پاک پڑھایا

گیا۔ جس کے لئے عالمگیر کے ایک درباری امیر کی ماں مریم کو مقرر کیا گیا جو کلام پاک کی حافظ تھی۔ زیب النساء نے بھی کلام پاک حفظ کیا۔ مآثر عالمگیری کے مؤلف کا بیان ہے کہ اس سعادت کے صلے میں عالمگیر نے زیب النساء کو تیس ہزار اشرفیاں بطور انعام مرحمت فرمائیں۔ زیب النساء نے عربی اور فارسی کی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔

زیب النساء کے معلموں میں صرف ملا محمد سعید اشرف مآثر ندرانی کا نام تاریخوں میں مذکور ہے۔ جو اس کی عمر کے اکیسویں سال میں درسی کتب کے علاوہ فقہ اصول فقہ اور علم حدیث کی تعلیم کے لئے مقرر ہوئے۔ زیب النساء نے شعر و شاعری میں بھی انہی سے اصلاح لی۔ انہی نے علم کی تکمیل کے لئے فن خطاطی میں بھی کمال حاصل کیا۔ مآثر عالمگیری کا مؤلف رقم طراز ہے کہ وہ ہر قسم کے خطوط یعنی نسخ، نستعلیق اور شکستہ نہایت خوبی کے ساتھ تحریر کرتی تھی۔ یہ فن بھی اس نے ملا محمد سعید مآثر ندرانی سے سیکھا تھا کیونکہ وہ نہ صرف ایک ممتاز شاعر اور عالم تھے بلکہ خطاط اور خوشنویس بھی تھے۔ زیب النساء کے علم و ہنر کی بنا پر یہ قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اس کی علمی کاوش اس کی علمی و ادبی تصنیفات میں بھی ظاہر ہوگی، مگر وہ اب ناپید ہیں، مخزن الغرائب کے مؤلف نے اس کی ایک کتاب زیب المنشآت کا حوالہ دیا ہے۔

زیب المنشآت، زیب النساء کے خطوط اور رقعات کا مجموعہ تھا اس کی ایک بیاض خاص بھی تھی۔ جو اس کی ایک خواص ارادت فہم

نامی کے ہاتھ سے حوض میں گر کر ضائع ہو گئی۔ ملا سعید اشرف ماثر ندوانی نے اس کی معذرت میں ارادت فہم کی طرف سے ایک طویل قطعہ لکھ کر زیب النساء کی خدمت میں پیش کیا۔

زیب النساء کے نام سے ایک مرثعہ بھی منسوب ہے جس میں قطعاً مشہور کاتبوں اور خطاطوں کے کمالات کے نمونے ماہر نقاشوں اور مصوروں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی انواع و اقسام کی تصویریں تھیں۔ یہ مرثعہ ناپید ہے لیکن اس کا دیباچہ جس کو ایک شاعر و نثر نگار ملارضاراشد نے لکھا تھا خدائش لا ثبری میں موجود ہے۔ یہ دیباچہ ملی جلی نظم و نثر میں لکھا گیا ہے۔ اس سے زیب النساء کی علمی مجالس کا حال معلوم ہوتا ہے۔ شاعر مذکور لکھتا ہے کہ بیگم کی علمی مجلسوں میں نظم و نثر، صرف و نحو، ہندسہ و نجوم، معانی بیان، اور ہیئت و مریا پر علماء و فضلاء جمع ہو کر بحث و مباحثہ اور تحقیق و تفتیش کیا کرتے تھے۔

اس دیباچہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیب النساء بیگم طب روحانی میں بھی حاذق تھیں اور علم موسیقی سے بھی واقف تھیں۔

شعر و شاعری کے علاوہ شاعر مذکور دیباچہ کی نثر میں بھی بیگم کی انشاء خوشنویسی اور شاعری کا ذکر شاندار اور باوقار الفاظ کے ساتھ کرتا ہے۔ مورخین اور تذکرہ نویس بھی اس کی علمی سرپرستی اور قدردانی کے بیان میں رطب اللسان ہیں، ماثر عالمگیری میں لکھا ہے کہ علماء و فضلاء اور خوشنویسوں کا ایک گروہ زیب النساء بیگم کی سرکار سے فیضیاب ہوا کرتا تھا۔

مولانا شبلی مرحوم فرماتے ہیں کہ زیب النساء کا دربار حقیقت میں ایک

اکیڈمی (بیت العلوم) تھی۔ اس بیت العلوم میں ہر فن کے علماء و فضلاء نوکر تھے جو ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے تھے کتابیں عموماً اس کے نام سے موسوم ہوتی تھیں یعنی ان کتابوں کے نام کا پہلا جز زیب کا لفظ ہوتا تھا۔ مآثر عالمگیری کے مؤلف لکھتے ہیں کہ صنی الدین اردوبیلی نے بیگم کے حکم سے تفسیر کبیر کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تو اسکا نام زیب التفاسیر رکھا۔ زیب التفاسیر کا پانچواں حصہ بوڈلین لائبریری آکسفورڈ میں موجود ہے۔ یہ حصہ ۶۱۶ صفحات میں ختم ہوا ہے اور خاتمہ کی تاریخ ۱۰۸۱ھ مرقوم ہے۔ زیب النساء نے اپنے بیت العلوم کے علماء فضلاء کے استفادہ کے لئے ایک اعلیٰ قسم کا کتب خانہ بھی قائم کیا تھا مآثر عالمگیری کے مصنف لکھتے ہیں کہ علم دوست اور ہنر شناس شہزادی ہمیشہ کتابیں جمع کرنے اور جدید تصنیف و تالیف کو بخاری رکھنے میں کوشاں رہتی تھی اس کا کتب خانہ ہر حیثیت سے نادر اور موجود تھا۔

زیب النساء کا ذوق شہری اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ اس کی خدمت میں شعراء اپنے معروضات اشعار ہی میں پیش کرتے تھے۔

اورنگ زیب کی دوسری لڑکی

اورنگ زیب کی دوسری لڑکیوں کا علم و ہنر زیب النساء کی علمی ہمت کے سامنے ماند پڑ گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیب النساء کی طرح آسمان علم و ادب کی مہر و ماہ تو نہ بن سکیں مگر مختلف قسم کے علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ مآثر عالمگیری کے مؤلف کا بیان ہے کہ اورنگ زیب کی لڑکیوں میں زینت النساء بیگم نے بھی باپ کی توجہ اور فیض تربیت

سے علمی کمالات حاصل کئے وہ عقائد مذہبی، احکام دینی اور مسائل شرعی سے بخوبی واقف و آگاہ تھی اور شعر بھی کہتی تھی۔
 آثار عالمگیری کے مولف کا بیان ہے کہ اورنگ زیب کی لڑائی بدلتسلہ سلیم حفظ کلام اللہ کی سعادت اور علوم دینی کی تعلیم سے بہرہ ور ہوئی اور ہمیشہ علم کے ساتھ عمل کو بھی ملحوظ رکھا۔ عالمگیری کی ایک دوسری لڑکی زبدۃ النساء سلیم کے بارے میں مولف مذکور کا بیان ہے کہ ہمیشہ طاعت و عبادت و تحصیل علم میں عمر بسر کی اور ذخیرہ سعادت فراہم کرتی رہی۔

زنیت النساء سلیم

زنیت النساء سلیم بنت اورنگ زیب عالمگیر در سنہ یک ہزار و یک صد و بست و دو ہجری انتقال نمودہ مدفنش در محن مسجد زنیت النساء کہ تعمیر ساختہ اوست۔
 (مفتاح التواریخ ص ۲۹۵)

نواب قدسیہ حضرت صاحبہ عالیہ

ادہم بانی زوجہ محمد شاہ جن کو احمد شاہ کے عہد میں اول نواب بانی پھر نواب قدسیہ صاحب الزمانی کا خطاب ملا۔ شیعہ مسلک تھا۔ ۱۱۳۰ھ میں ان کے پاس ایک ایسا پتھر آیا جس پر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قدم مبارک کا نقش تھا۔ نواب قدسیہ سلیم نے اس نقش قدم کو ایک سنگ مرمر کے حوض میں نصب کرایا۔ ۱۱۳۱ھ میں وفات پائی۔
 (داقعات دارالحکومت دہلی جلد سوم ص ۶۱)

ایک بہنی ملکہ کا حج

حج اسلام کا دوسرا رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے کہ وہ عمر بھر میں ایک دفعہ حج کرے۔ آج کے زمانہ میں جب کہ نسبتاً بھری اور بڑی سفر کے ذرائع آسان ہیں لوگ اس فریضہ کی طرف بہت کم توجہ کرتے ہیں۔ تیرہویں صدی کے آخر اور چودھویں صدی کے اوائل میں بھوپال کی تین حبیل القدر بیگمات اس شرف سے بہرہ اندوز ہوئیں۔ چھٹی صدی ہجری کے آخری زمانہ کا تصور کیئے راستہ کی مشکلات خیال میں لائیے اور دیکھئے کہ دکن کی ایک ملکہ کس ذوق و شوق سے حج کو جان

ہے۔

دکن کے سلاطین بہنی کی بیگمات میں ملکہ جہاں نہایت فیاض اور ادنیٰ العزم بیگم گذری ہے۔ جب اس کے شوہر سلطان علاؤ الدین حسن کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی تمام دولت اور زر و جوہر اپنے شوہر کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر صرف کر دیئے اور ایک سال کے بعد اپنے فرزند سلطان محمد شاہ سے فرض حج اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کے لئے اجازت لی۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کو نہایت تزک و احتشام سے رخصت کیا اور تمام خزانہ شاہی کو جس میں اشرفی اور روپیہ چاندی اور سونا جو کچھ کہ تھا صندوقوں میں بھروا کر ماں کے ہمراہ کیا۔ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ دکن کی تول سے چارمن سونا اور سات سو من چاندی تھی۔ ملکہ جہاں بندر وائل سے

ایک بادبانی جہاز سے بیت اللہ شریف کو روانہ ہوئی۔ چشم و خدم اور عزیز واقربا اور دوسرے امرا کی بیگمات کے علاوہ (۸۲۵) بیوہ اور مسکین عورتیں بھی اس کے ہمراہ تھیں اور ہر ایک ہمراہی کے کل مصارف سفر ملکہ جہاں نے اپنے ذمہ رکھے تھے۔

یہ جہاز ایک ہینہ اور سات دن کے عرصہ میں مع الخیر جدہ کی بندرگاہ پر ننگر انداز ہوا۔ وہاں سے یہ قافلہ مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور تمام ہمراہی حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ ملکہ جہاں نے مکہ کے مستحقین کو فیاضی کے ساتھ انعامات اور تحائف دیئے۔

پھر یہ قافلہ مدینہ طیبہ زیارت کے لئے گیا اور ایک سال وہاں قیام پذیر رہا۔ یہاں بھی اسی فیاضی سے کام لیا اور چار ہزار سادات کے رط کے اور رط کیوں کی ساریاں اپنے اہتمام سے کیں۔

ملکہ جہاں اکثر اوقات جنت البقیع میں حضرت فاطمہؓ کے مزار شریف کی زیارت کو بھی جاتی تھی۔ ایک دن صدر الشریف سے جو اس قافلہ کے محافظ و نگراں تھے کہا کہ چونکہ ماں کو چھوٹا بیٹا اور بیٹوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس لئے اگر میں حضرت حسینؓ کی قبر کی زیارت نہ کروں گی تو معلوم نہیں حضرت بی بی فاطمہؓ مجھ سے خوش ہوں گی یا نہیں اس کے بعد روانگی کا انتظام کیا لیکن اسی اتنا میں ایک رات حضرت فاطمہؓ کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں تیرے حسن اعتقاد سے بہت خوش ہوئی اور خدا اور رسول بھی تجھ سے خوش ہیں اب تو اپنے وطن کو لوٹ جا۔ تیرے بیٹے تیری ملاقات کے لئے بے چین ہیں۔ ملکہ جہاں نے اس خواب کو صدر الشریف سے بیان کیا اور ایک

آومی کو بہت سارے روپیے کے کر بیجا کہ وہ حضرت علی اور حضرت حسین علیہما السلام کے مزاروں کے زائروں اور خاندانوں کو تقسیم کرے۔ اس کے بعد ملکہ جہاں جدہ کی طرف سے واپس ہوئی ملکہ کے حسن اعتقاد کی برکت سے جس قدر ہمراہی تھے وہ سب بصحت و سلامتی منزل مقصود پر پہنچے اور حرمین الشریفین کی زیارت سے خداوند کریم کے فضل و کرم سے مشرف ہو کر واپس آئے۔

جب ملکہ جہاں بندر وائل پہنچی تو سعادت مند بیٹا اطلاع پاتے ہی استقبال کے لئے روانہ ہو گیا اور قصبہ کا لہریں ماں کی قدم بوسی مہل کی اس قافلے کے ہمراہ خلیفہ عباس نے ایک خلعت اور فرمان بھیجا جس میں خطبہ اور سکھ کی اجازت تھی سلطان محمد شاہ نے اس خلعت و فرمان کا بڑا احترام کیا اور اہل قافلہ اور دوسرے متوسلین اور مستحقین کو انعام و اکرام عطا کیا۔

ملکہ جہاں اپنے ساتھ غلات کعبہ بھی لائی تھی جو بطور تحفے کے اپنے فرزند رشید کو دیا جس نے اس کا چتر شاہی بنایا۔ دو ہینہ تک اس قصبہ میں سلطان نے بڑے پیانہ پر ماں کے حج و زیارت سے شرف نیاپ ہونے اور بخیریت واپس آنے کا جشن منایا۔ اس کے بعد ملکہ جہاں گل برگہ میں آئی اور وہاں بھی ایسے ہی جشن رہے۔

واپسی کے بعد ملکہ جہاں نے اپنے شوہر کے خلیفہ کے قریب رہنے کے لئے ایک مکان بنایا اور اپنی بقیہ زندگی عبادت الہی میں گزار دی۔ ۶۶۳ھ میں انتقال ہوا اور اپنے شوہر کے قریب دفن ہوئی۔

قرۃ العین طاہرہ

اس لڑکی کا اصل نام زریں تاج تھا۔ یہ ایران کے نامور علما کے گھرانے میں پیدا ہوئی۔ اس کا باپ حاجی محمد صالح ایک مشہور فقیہ اور اس کا چچا ملا محمد تقی قزوین کا ایک نہایت معزز عالم مجتہد تھا اور اس کا چچا زاد بھائی ملا محمد تقی کا بیٹا ملا محمد بھی ایک عالم تھا۔ جس سے قرۃ العین کی بعد میں شادی ہوئی۔ اس لڑکی کی بچپن ہی سے غور و خوض کی عادت تھی اور پھر علم سے ایک طبعی مناسبت اور شوق تھا۔ کچھ اتفاقات اور کچھ اس کی محنت اور شوق کی وجہ سے اس نے اپنی تعلیم میں حیرت انگیز ترقی کی جو دنیا میں عورتوں کو ذرا کم میسر آتی ہے۔

اس کے گھر میں صبح و شام علمی چرچوں کے سوا اور کوئی شغل نہ تھا۔ ان ہاتھوں کو وہ بڑے خود سے سنتی اور بعض اوقات خود بھی رائے دیتی اکثر جب گھر کے لوگ اور دوسرے عزیز واقارب ایک جگہ جمع ہوتے تو علمی مباحثے چھڑ جاتے اور ان میں قرۃ العین بھی نہایت جوش و خروش سے حصہ لیتی۔ اس کی فصاحت اور دلائل ایسے ہوتے کہ دوسروں کو متاثر کئے بغیر نہ رہتے اور پھر اس پر حسن اچھا اور عظمت۔ غرض وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور اپنے خاندان کی سرتاج تھی بلکہ اس کو یہ ہے کہ نہ صرف اس کے خاندان کو بلکہ سارے شہر قزوین کو اس قابل باجیا اور حسین لڑکی پر فخر تھا۔ اس نے باپ سے خط و کتابت کی اور اس کی تعلیم پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ اس کی تردیح و اشاعت کے لئے

اس نے دور دراز کے سفر کئے، کچھ مدت کر بلا میں رہی اور پردہ کے پیچھے سے تقریر کرتی۔ فقہ و حدیث اور آیات قرآنی کی تفسیر اس خوبی اور فصاحت سے بیان کرتی کہ ایک انبوہ کثیر اس کو سننے کے لئے جمع ہو جاتا۔ رضیہ سلطانہ

بنت سلطان القمش بڑی مافکہ خاتون تھیں۔ ان کا تذکرہ ضمیر میں مفصل درج ہے۔

سلطانہ چاند بی بی

سولہویں صدی عیسوی میں چاند بی بی دکن کی ایک بڑی مشہور عورت گزری ہے۔ علی عادل شاہ بادشاہ بیجا پور کی ملکہ تھی اور نہایت عمدہ علمی قابلیت رکھتی تھی۔ علمی قابلیت کے علاوہ اس میں شجاعت اور دلیری بھی خاص طور پر تھی اس کو فوجی کاموں سے بہت دل چسپی تھی فوج سے پرید کراتی اور کبھی کبھی لڑائیوں میں بھی شریک ہوا کرتی تھی۔

اس کے شوہر کے اکثر با اثر آدمی دشمن ہو گئے تھے اور یہ فکر کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح علی عادل شاہ کو قتل کر دیں اگرچہ علی عادل شاہ ایسی باتوں کی پرواہ نہ کرتا تھا۔ تاہم متوحش تھا اور تین روز سے برابر جاگ رہا تھا۔ چاند بی بی نے اپنے شوہر کو ہمت دلائی اور اطمینان سے سو جانے کو کہا اور خود مستعدی سے جاگتی رہی اتنے میں بالا خانے پر کسی کے گونے کی آواز سنائی دی۔ یہ بہادر خاتون فوراً اپنے شوہر کی تلوار لے کر باہر نکل آئی اور دیکھا کہ دو شخص کھڑے ہیں فوراً ان پر جھپٹ پڑی اور پہلے ہی حملہ میں ایک کا تو سر اڑا دیا اور دوسرے

حملے میں ایک کو سخت زخمی کر ڈالا۔ بالاخانہ پر دھماکہ کی آواز سے علی عادل شاہ فوراً جاگ اٹھا اور باہر آکر دیکھا تو اس کی بیگم تلوار لئے کھڑی تھی۔ عادل شاہ کو آتے دیکھ کر چاند بی بی نے کہا کہ "یہ بھٹے یہ آپ کے دونوں مہمان ہمیشہ کے لئے آپ سے جدا ہو گئے۔"

ایک دفعہ یہ خاتون محاذ میں احمد نگر سے بیجا پور آ رہی تھی ساتھ میں صرف ایک مختصر سا باڈی گارڈ تھا۔ حکومت گولکنڈہ کے سپاہیوں سے راستہ میں چاند بی بی کی محافظ سپاہ سے چل گئی اور بات کا بتنگڑہ بن گیا۔ دونوں طرف سے تلواریں نکل پڑیں۔ مخالفین زیادہ تھے اور باڈی گارڈ کے سپاہی کم اپنے سپاہیوں کو قتل ہوتے دیکھ کر فوراً محاذ سے نکلی اور اپنے چیل گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلہ میں کھڑی ہو گئی اور مخالفین پر ایسے حملے کئے کہ انہیں بھاگتے ہی بن پڑی۔ شوہر کے مرنے کے بعد وہ اس کے بھتیجے ابراہیم عادل شاہ کی محافظ قرار دے دی گئی اور امور مملکت کا کام اس کی رائے سے ہوتا تھا۔ احمد نگر اس کا دار الحکومت تھا۔

۱۵۸۲ء میں وہ خود غرض امراء کی مخالفت کے باعث ستارہ کے قلعہ میں قید کر دی گئی لیکن سلطنت کے خیر خواہوں نے اس کو قید سے چھڑا لیا۔

۱۵۸۲ء میں سلطنت بیجا پور کا محاصرہ کیا گیا مگر چاند بی بی نے اس محاصرہ کو توڑ دیا اور نہایت جرات کے ساتھ لڑ کر دشمن پر فتح پائی۔

۱۵۹۵ء میں شہنشاہ اکبر کی فوج نے جب احمد نگر کا محاصرہ کیا

تو اگرچہ اس وقت تمام ملک میں بد نظمی پھیلی ہوئی تھی اور چاند بی بی کے پاس کافی فوج نہ تھی مگر وہ ہمت نہ ہاری اور اپنے سپاہیوں کو قلعہ کے برجوں اور درجوں میں مقرر کر دیا اور دروازوں اور پھاٹکوں پر دلاور و بہادر سپاہی متعین کئے۔ شہزادہ مراد نے جو اکبر کی طرف سے اس محاصرہ پر مامور تھا قلعہ کے نیچے ہی نیچے سرنگ لگانے شروع کی۔ جب چاند بی بی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے ان کو بھر دانا شروع کیا۔ لیکن ہنوز سب سرنگیں پوری نہ بھری جا چکیں کہ شہزادہ نے سرنگوں میں آگ لگانے کا حکم دیا اور ایک ہی سرنگ سے قلعہ کی چاس گز دیوار گر پڑی۔

چاند بی بی کی فوج نے جو شہزادہ مراد کی فوج پر نظر ڈالی تو وہ بدحواس ہو گئی لیکن یہ بہادر عورت اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اور تلوار ہاتھ میں لے کر بند بروج پہننے ہوئے نمودار ہوئی شہزادہ اس ارادہ میں تھا کہ باقی سرنگوں کے اڑانے کے بعد حملہ کیا جائے مگر چاند بی بی نے تھوڑی ہی دیر میں توپوں اور سپاہیوں کی دیوار منہا شدہ دیوار کی بجائے کھڑی کر دی اور تمام فوج کو تسکین دے کر پھر پڑائی پر آمادہ کر دیا اور اس دلیزی کے ساتھ فوج کو لڑایا کہ باوجود شہزادہ مراد اور اکبری فوج کی بے انتہا کوشش و جان بازی کے قلعہ فتح نہ ہو سکا اور شام تک قلعہ کی خندق سپاہیوں کی لاشوں سے پٹ گئی۔ رات بھر میں اس دلیر خاتون نے ٹوٹی ہوئی دیوار کو سگزاؤنچا بنا دیا۔ صبح کو اکبری فوج کے سامنے وہی پہلی دیوار موجود تھی۔

چاند خاتون کی اس بہادری اور مستقل مزاجی پر ہر موافق و مخالف

حیران رہ گیا اور اسی وقت سے چاند خاتون کا لقب چاند سلطان ہو گیا۔
لیکن یہ بہادر عورت ۱۵۹۹ء میں اپنے ہی باغی سپاہیوں کے ہاتھوں
ماری گئی۔

لقنٹ فاطمہ خانم

آپ کو یہ دیکھ کر تعجب ہو گا کہ ایک مسلمان عورت کے نام میں
ایک فوجی منصب (لقنٹ) کا تقرا شامل ہے لیکن واقعہ یہ ہے
کہ ترکی یونانی جنگ اور اس کے علاوہ ان دوسری جنگوں نے جو
ترکوں کو لڑنی پڑی ہیں ترکوں نے عورت مرد دونوں بہادر فوجی
افسر پیدا کئے ہیں۔

اناطولیہ کے جنگی میدانوں میں حفاظت وطن کی خاطر بہت سی
خواتین نے موت سے بے پروا ہو کر جنگ کی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے
کہ انہوں نے بکثرت پشانی میدان جنگ میں موت کا استقبال کیا ہے
ان کی خودداری ہستیوں نے اس امر کو گوارا نہیں کیا کہ ایسی حالت میں جبکہ
دشمنوں کی تلواریں باشندگان اناطولیہ یا ان کے عزیز نوجوانوں کے سروں
پر چمک رہی ہوں وہ گھروں میں بیٹھی رہیں وہ اپنے گھروں سے نکلیں
میدان جنگ میں داخل ہوئیں اور جنگ کے مصائب کو نہایت
خندہ پشانی سے برداشت کیا۔

لقنٹ فاطمہ خانم انہیں خودداری عورتوں میں سے ہے جس کے
ذکر سے تاریخ کے ادراک ہمیشہ زریں رہیں گے۔ لقنٹ فاطمہ خانم

انگورہ میں ایک قومی علم کی حیثیت رکھتی تھی اور مجاہدین میں قربانی کی تحریک کو جوش میں لاتی رہتی تھی۔ ذیل میں موصوفہ کی زندگی کے مختصر واقعات عربی اخبار اقبال سے ترجمہ کر کے درج کئے جاتے ہیں تاکہ خواتین ان کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں۔

لفٹنٹ فاطمہ خانم ارض روم میں جوان کی ماں کا وطن تھا پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام کلباسی (میجر) مرزا ایک تھا اور وہ بیوا میں رہتے تھے پھر انہوں نے قسطنطنیہ میں اقامت اختیار کی اور یہیں لفٹنٹ فاطمہ خانم کی تعلیم و تربیت ہوئی اور ایک فوجی افسر سے جو گذشتہ جنگ یورپ میں مقام قدس پر شہید ہوا تھا شادی کر دی گئی لفٹنٹ خانم عین عالم شباب میں بیوہ ہوئی اور شوہر کی شہادت کے بعد اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے شوہر کا انتقام لے گی اور ضرور لے گی اور وہ انتقام کی راہ میں شہید ہو کر جنت میں جائیگی اور اپنے محبوب شوہر سے ملے گی۔ عرصہ تک شوہر کی شہادت کے بعد وہ عرصہ تک فکر و ترمیم میں مبتلا رہی لیکن جس قدر وقت گزرتا گیا اس کے دل و دماغ میں انتقام کا جوش بڑھتا گیا اور جو آگ اس کے دل میں روشن تھی وہ برابر بھڑکتی رہی کچھ عرصے کے بعد لفٹنٹ فاطمہ خانم نے معاہدہ روس کو پڑھا جس نے ترکوں کے کانڈوں پر بھاری بوجھ ڈال دیا تھا اور وہ ذلت و حقارت کا بوجھ تھا پھر اس نے بعد کے واقعات کو دیکھا کہ برابر عثمانی قوم پر حملہ کیا جا رہا ہے اور ترکی حکومت کو تباہی کے غار کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے اس نے ان تمام واقعات کو دیکھا تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اس نے ذلیل زندگی بسر کرنے

پر موت کو ترجیح دی اور آخر آستانہ سے ہجرت کر کے وہ از میت چلی گئی۔

آستانہ سے وہ از میت کی طرف تین سو پچاس مجاہدوں کو لے کر چلی اور ان کی رہنمائی کی تو پھر اس جماعت کی تعداد نو سو پچاس تک پہنچ گئی اور اس نے اپنے مجاہدوں کیساتھ متعدد معرکوں میں حصہ لیا۔ جنگ کے موقعوں پر وہ اس قدر ڈر ہو کر کام کرتی تھی کہ گویا موت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اور اپنے پہلو میں شیربیر کا دل رکھتی ہے۔

عرصہ تک وہ از میت میں یونانیوں سے لڑتی رہی اور ان معرکوں میں اس کے دائیں بازو میں گہرا زخم آیا اس زخم کے اچھا ہونے پر وہ مرسل کمپیک کی طرف بڑھی ان مقامات کے معرکوں میں اس کی پنڈلی پر گولی لگی اور وہ نقل و حرکت سے عاجز ہو گئی اس زخم کے مندمل ہو جانے پر اس نے پھر جہاد شروع کیا اور قانیبارجہ کی سمت اس نے بڑھنا شروع کیا اس معرکہ میں اس کے دائیں پستان پر گولی لگی لیکن اس نے پروانہ کی اور برابر دشمنوں سے لڑتی اور آگے بڑھتی رہی مگر زخم کی شدت نے آخر اس کو چند روز آرام لینے پر مجبور کیا اور جب زخم اچھا ہونے کے قریب ہوا تو وہ پھر شیروں کی طرح اٹھی اور دشمنوں سے لڑنا شروع کیا۔

مختصر یہ کہ لفٹننٹ فاطمہ خانم اسی طرح لڑتی بھڑتی ایک میدان سے دوسرے میدان میں بڑھتی رہی یہاں تک کہ وہ سپارٹا اور دکزلی کے میدان پہنچ گئی اور مختلف مقامات پر اس نے یونانیوں کو زبردست

شکستیں دیں۔ ان معرکوں میں اس کا داہنا ہاتھ زخمی ہوا اور وہ یونانیوں کے ہاتھوں ایک معرکہ میں گرفتار ہو گئی لیکن دس روز نہ گزرے تھے کہ اس نے موقع پا کر یونانیوں سے اپنے آپ کو چھڑایا اور چار ہندو قہیں مال غنیمت میں یونانیوں سے حاصل کر کے بھاگ آئی ان ہندو قہوں کو وہ اپنی گرفتاری کی یادگار سمجھتی تھی اور بہت احتیاط سے ان کو رکھی تھی۔ آج وہ اپنے کارناموں کی بدولت جو اس نے اناطولیہ میں انجام دیئے ایک بڑی فوجی افسر کی حیثیت رکھتی تھی اور بیش قیمت فوجی معلومات اس کو حاصل تھیں اور وہ اس وقت ازبیت کی اس سپاہ کی قیادت کر رہی تھی جو توجہ ایلی کے منطقہ میں پھیلی ہوئی تھی۔

لنٹنٹ فاطمہ خانم نے ایک گفتگو کے دوران میں بیان کیا کہ اب میں نہایت اطمینان کے ساتھ اپنی جان کو موت کے حوالہ کر رہی اور میں اپنے شہید شوہر سے خدا کے حضور میں شرمندہ نہ ہوں گی کیونکہ میں نے انتقام لے لیا ہے۔ میں نے نہ صرف اپنے شوہر کا انتقام لیا ہے بلکہ اپنی تلوار سے ترکی خواتین کی عظمت و عزت کے صفحات کو روشن کر دیا ہے اور اپنے سر کو مجد و شرف کے تاج سے زینت بخشی۔ بلاشبہ لنٹنٹ فاطمہ خانم کے کارناموں نے عثمانی مہمات میں ہمست و شجاعت اور جوش کی ایک نئی روح پیدا کر دی تھی اور آج اس روح نے میدان جیت لیا اور قومی آزادی کو فنا ہونے سے بچالیا۔

(ماخوذ)

رجسٹریشن نمبر -

تقریب نشرح

(بسم اللہ)

مسلمانوں میں نشرح کی تقریب مذہبی تعلیم کی تقاریب میں ایک خاص تقریب ہے اس تقریب کے ساتھ مسلمان عورتوں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے اور ہر امیر و غریب گھر میں اپنے حوصلہ کے مطابق تکلفات وغیرہ کئے جاتے ہیں۔ ان تکلفات کے اہتمام میں عورتوں کو خاص دلچسپی ہوتی ہے۔

بھوپال کے خاندان شاہی میں بھی عرصہ سے اس تقریب کا دستور ہے خصوصاً بیگمات بھوپال نے ہمیشہ اس میں نہایت نیا نیا اور دریا دلی ظاہر کی ہے۔

علیہا حضرت حضرت سرکار عالیہ دام ملکھا کے فرزند اصغر عالی جناب نواب زادہ افتخار الملک بہادر کی نور نظر صاحبزادی عابدہ سلطان صاحبہ سلمہا کے تقریب کی مکمل روداد ریاست کی ایک محترم خاتون خسرو جہاں بیگم نے کتابی صورت میں مرتب کی تھی اس تقریب کا اصل حصہ درج کیا جاتا ہے۔ تقریب کا حال ایسے پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ اس کا نظارہ صفحات قرطاس پر بھی آسانی سے ہو سکتا ہے۔

قصر سلطانی کے سب سے بڑے دالان میں جو اعلیٰ فرش و

فروش سے آراستہ تھا ایک تخت سجایا گیا تھا۔ یہ تخت ریگہ کی صورت کا تھا اس پر گلابی پردے ڈالے گئے تھے اور اس کی چھت جگمگاتے ہوئے کپڑے کی تھی اور فرش محمل کا تھا۔ تخت کی گلاب اور جوئی کے پھولوں سے آرائش کی گئی تھی ایک چھوٹا سا دروازہ تخت کے پچھلے عروس نشرح کے آنے کے لئے رکھا گیا تھا اور سامنے کی طرف ایک محراب نما دروازہ بنایا گیا تھا دروازہ کے پھولوں میں آبنوس اور صندل کی دو نفیس ریلیں رکھی ہوئی تھی۔ جن پر دو نفیس خوبصورت جزوانوں میں قرآن مجید تھے۔ تخت کے قریب ہی اختران عروس استقبال کے لئے کھڑی تھیں۔ یہ اختران عروس خاندان دارا کین ریاست کی نور کیاں منتخب ہوئیں جو ٹرکش حرم کے لباس میں تھیں اور جن کا پورا لباس بادشاہ پسند کے رنگ میں تھا۔

تمام والان مہان بیگمات و خواتین سے معمور تھا۔ تخت کے بالمقابل عین سرے پر سرکار عالیہ اور بیگمات خاندان کی نشست تھی۔ چھ بجے صاحبزادیوں کے تشریف لانے کی آہٹ معلوم ہوئی اور ایک خاتون نے بلند آواز سے "خاموش" کہہ کر حاضرین کی توجہ صاحبزادیوں کے تشریف لانے کی طرف مائل کیا اور یہ یک لمحہ صاحبزادیاں خراماں خراماں تشریف لائیں۔ اختران عروس نے استقبال کیا۔ چور برداروں نے چور ہلانا شروع کئے اور دونوں تخت سجاوٹ پر جلوہ افروز ہوئیں اس وقت ایک عجیب سکوت اور محویت کے

۱۔ ریگہ اس تخت کو کہتے ہیں جس پر عرب میں دہن بٹھائی جاتی ہے۔

نظارہ کا عالم طاری ہو گیا۔ دونوں نور کی موتیں یا جنت النعیم کی حوریں
 عربی لباس میں ملبوس تھیں جس کا آسمانی رنگ تھا۔ دونوں صاحبزادیوں
 کے سر پر عرب کا قصا وہ تھا اور مجید یوں کے بندھن سے باندھا گیا تھا
 اس پر تاج الماس تھا۔ مجیدیاں آفتاب کی کرن بنی ہوئی تھیں۔ مقیش
 ہرے پر موتی کی لڑیاں لٹک رہی تھیں اور یہ سہرا اس طریقے سے بنایا
 گیا تھا کہ ان مہر و ماہ کے چہروں پر نقاب نہ بن جائے۔ دوپٹہ اسی انداز
 سے اوڑھے ہوئے تھیں جس طرح نماز میں اوڑھا جاتا ہے اور اس
 میں ان کا چہرہ بالکل نور معصومیت بن کر نظر آ رہا تھا پاؤں میں
 کوئی زیور نہ تھا کیونکہ وہ اسے ترک کر چکی ہیں لیکن گلے اور ہاتھوں
 میں کچھ مرصع زیورات تھے کانوں میں ہیرے کے بندے تھے جو
 چہروں کی شعاع نور سے ماندہ ہو رہے تھے۔

اس شان کے ساتھ دونوں صاحبزادیاں پیکر نور بنی ہوئی تخت
 پر جلوہ افروز تھیں ہر طرف ایک عالم سکوت اور خاموشی تھا کہ صاحبزادی
 عابدہ سلطان صاحبہ نے نہایت ادب و تعظیم سے اپنی معصوم آواز
 میں قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الحمد سے
 مفلحون تک اور لثمان فی السنوت کو امن الرسول سے ختم
 سورہ تک اور پارہ تبارک الذی میں سے سورہ رسالت کا پھلا
 رکوع ایسی بلند آواز اور ایسے لہجہ میں پڑھا کہ اس وقت ہر انسان
 تصویر ادب تھا اور خالق ارض و سما کی عظمت و جلال اور اس کی
 رحمت سے دل متاثر ہو رہے تھے۔

جب یہ رکوع ختم ہوا تو آنا باللہ وحدہ کی آوازوں سے مکان

گوئی گیا اس کے بعد معوذتین پڑھ کر اپنی قرأت کو ختم کیا صاحبزادی
 ساجدہ سلطان صاحبہ نے بہت ہی بے تکلفی سے اس لہجہ اور طرز و
 ادا کے ساتھ سورہ بقرہ کا اول رکوع مفلحون تک اور سورہ بقرہ کا آخری
 رکوع فانا نصرنا علی القوم الکافرین اور معوذتین پڑھ کر قرأت پڑھ
 کو ختم کیا سورہ مراسلات کا رکوع نہیں پڑھا کیونکہ یہ نثر سورہ بقرہ کا
 تھا نہ کہ ختم قرآن کا۔

جب ان دونوں نے یکے بعد دیگرے قرآن مجید کی سورتوں کو
 پڑھا ہے تو نور علی نور کی کیفیت آنکھوں کے سامنے آگئی۔

ختم قرآن کے بعد سرکار عالیہ نے دونوں قرآن مجید صاحبزادی
 عابدہ سلطان صاحبہ کے ہاتھوں میں دیئے اور وہ ان کو لئے ہوئے
 رنگہ سے باہر نکلیں۔ تمام بیگمات اور خواتین نے سر و قد تعظیم ادا کی۔
 عابدہ سلطان صاحبہ کے پیچھے ساجدہ سلطان صاحبہ تھیں اور صفوں
 کے درمیان خراماں خراماں تھرک نور کی طرح سے چاندی سونے کے
 پھولوں کی بارش میں جو چاروں طرف سے ان پر نچھاور کئے جا رہے
 تھے اپنے خاندان کی صفت میں شامل ہونے کو جا رہی تھیں اور وہ
 بیگمات نہایت ذوق و شوق سے ان پھولوں کو چن رہی تھیں جن کا
 یہ عقیدہ ہے کہ یہ پھول بہت سے مرضوں کی دوا ہیں۔ قریب پہنچ کر
 اپنی چھپوں اور بیگمات خاندان کو سلام کیا اور سب نے دعاؤں کے
 ساتھ ان کو پیار کیا جب یہ بیٹھ گئیں تو اختران عروس نے باواز بلند
 ایک رکوع قرآن مجید کا مصری لہجہ میں پڑھا۔ واقعی یہ عجیب سماں
 تھا اور عجیب شان عظمت و جلال نظر آتی تھی اور نور رحمت آنکھوں

سے نظر آتا تھا۔ رکوع ختم ہونے کے بعد سرکار عالیہ کی ایک جدید تالیف
فضائلِ رحمانی کو جو اس موقع کے بڑے حضورِ ممدوحہ نے تالیف فرمائی
تھی جتہ جتہ پڑھا گیا جس میں بسم اللہ۔ سورہ فاتحہ۔ قرآن مجید
اور درودِ سلام کے ایسے فضائل تھے کہ جو احادیث میں مروی ہیں
اس کے بعد موٹے مبارک کی زیارت ہوئی یہ وہ موٹے مبارک ہے
جس کو خلیفۃ المسلمین سلطان المعظم محمد رشاد آفندی انا اللہ برہانہ
نے ۱۹۱۱ء میں سیاحتِ قسطنطنیہ کے زمانہ میں سرکار عالیہ کو تحفہ
دیا تھا جو قصرِ سلطانی میں ایک صندل سفید کے حجرہ میں محفوظ ہے۔
زیارت کے بعد سب بیگمات اور خواتین نے کھانا کھایا اور
عطر و پان تقسیم ہوئے گلابِ پاشی کی گٹی اس طرح نوادردس بجے
رات کو یہ تقریب ختم ہوئی۔

—————

نصیحتیں بہ چند

۱۱) ماں کی بیٹی کو نصیحت
اسما و بنتِ خارجہ فراری نے
اپنی بیٹی سے جس وقت ان کا
نکاح کیا تو کہا کہ تم اب اس گھر سے نکلتی ہو جس میں تم نے اب تک
وقت گزارا۔ اب تم ایسے گھر کی جانب چلی ہو کہ اسے نہیں پہچانتیں
اور ایسے شخص سے سابقہ ہوتا ہے جس سے تم مانوس نہیں آتم اس
کے لئے زمین ہو جائے تو اسے لئے آسان ہو جائے گا تم اس کی

لنڈی بن جانا وہ تمہارا غلام بن جائے گا اس کی ناک کان آنکھ کی بہت نگہداشت رکھنا وہ تم سے سوائے عمدہ خوشبو کے کچھ نہ سونگھے نہ سوائے عمدہ بات کے اور کچھ سننے نہ سوائے عمدہ برتاؤ کے اور کچھ دیکھے۔

مجھ سے کوئی قصور ہو تو تم معاف

(۲) شوہر کی بیوی کو نصیحت کر دیا کرو۔ ہر وقت مجھ سے محبت و مودت کا برتاؤ کیا کرو، جس وقت میں غصہ کروں اور غصہ کا جوش ہو تو اس وقت چپ ہو جایا کرو اور کبھی بلند آواز سے نہ بولا کرو نہ بہت زیادہ شکوہ و شکایت کیا کرو کہ وہ محبت کو زائل کر دے اور میرا دل تم سے پھر جائے۔ کیونکہ اکثر اوقات دل پھر جایا کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جب محبت و اذیت دونوں کسی دل میں جمع ہوتی ہیں تو محبت نہیں ٹھیر سکتی۔

میری پیاری بیٹی اگر علم و ادب

کی زیادتی اور عقل کے کمال

کی وجہ سے کسی کو نصیحت کرنا ماننا

میں بھی تجھ کو

(۳) زمانہ جاہلیت کی ایک

عربی مال کی نصیحت

ہوتا تو چونکہ تو بھی ماشاء اللہ بہت عاقلہ اور فہیمہ ہے میں بھی تجھ کو

نصیحت نہ کرتی لیکن جن کو نصیحت کی جاتی ہے وہ دو طرح کے

ہوتے ہیں غافل یا عاقل اگر وہ عاقل ہے تب تو اس کو نصیحت

آئندہ نتائج کو یاد دلا دیتی ہے اور اگر وہ عاقل ہے تو وہ نصیحت

اس کے لئے ایک خیر خواہ اور معین کا کام دیتی ہے۔

بیٹی! اگر والدین کی دولت یا عیب سے کہ ان کو اپنی بیٹیوں

سے زیادہ الفت اور ان کو ان کی زیادہ ضرورت ہے لڑکیاں خاوندوں سے مستغنی ہوتیں اور اپنے ماں باپ کے ہاں رکھی جاسکتیں تو تو سب سے زیادہ حق دار تھی اس لئے کہ تیرے ماں باپ بڑے دولت مند بھی ہیں اور تجھ سے محبت بھی زیادہ کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے لئے پیدا کی گئی ہیں اور مرد عورتوں کے لئے۔

بیٹی! جس گھر میں تو نے پرورش پائی تھی اور جس گہوارہ میں تو نے آج تک آرام کیا تو اس کو چھوڑ کر ایک ایسے کنبے میں جاتی ہے جس کو تو پہچانتی نہیں اور اب تجھ کو ایسے ہمنشین کے ساتھ عمر گزارنی ہوگی جس سے تو اس وقت تک مانوس نہیں ہوئی اور نہ اس کی صورت دیکھی۔

بیٹی! وہ ہمنشیں تیرا مالک اور محافظ ہوگا اس لئے تجھ کو لازم ہے کہ تو اس کی لونڈی بن جائے تاکہ وہ تیرا غلام و مطیع ہو جائے۔
بیٹی! میری دس باتیں یاد رکھنا وہ تیرے لئے بہترین چیز ہوں گی خاوند کے ساتھ قناعت سے بسر کرنا، خاوند کی اطاعت اور تابعداری کر کے رہنا۔ یہ خیال رکھنا کہ اس کی نظریں کہاں کہاں پڑتی ہیں تاکہ وہ تیری کوئی بری بات نہ دیکھ سکے اس کا لحاظ رکھا کہ اس کی ناک میں کہاں کہاں کی خوشبو یا بدبو جاتی ہے تاکہ وہ تجھ میں سے کبھی بدبو نہ سونگھ سکے۔ حسن کی زینت زیادہ تر سرمہ میں ہے۔ پانی بے نظیر خوشبو ہے اس کا خیال رکھنا کہ خاوند کھانا کس وقت کھاتا ہے جس وقت وہ سوتا ہو اس وقت گھر میں شور و شر نہ ہونے دینا۔ اس لئے کہ بھوک، گرمی، آدمی کو خواہ مخواہ بھی سمیڑ کا دیتی ہے اور زینت کا نرا

ہونا ناراضی کا سبب ہو جاتا ہے۔ خاوند کے گھر اور مال کو محفوظ رکھنا۔
 خاوند کی جان اس کے خدام اس کے لائق و توابع کا پورا خیال رکھنا
 اس واسطے کہ مال کی حفاظت سے خاوند راضی رہے گا اور اس کے خدام
 وغیرہ کی مراعات سے وہ سب دراندازی کر کے دل کو بی بی سے نہ پھیر
 سکیں گے۔ خاوند کے کسی بھید کو کسی پر ظاہر نہ کرنا اس واسطے کہ اگر تو نے
 اس کے بھید کو کسی پر ظاہر کر دیا تو یاد رکھ کہ وہ بھی تیرے ساتھ یقیناً
 بے وفائی سے پیش آئے گا۔ خاوند کی کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ اگر تو نے اس
 کی نافرمانی کی تو یقیناً تو نے اس کے دل کو اپنی طرف سے پھیر دیا اور
 یہی خیال رکھنا کہ اگر وہ کسی وقت تیرے پاس غمگین بیٹھا ہو تو اس کے
 ساتھ خنداں و شاداں نہ رہنا تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس کو میرے
 حزن و ملال کی کچھ پرواہ نہیں اگر وہ کسی وقت خوش ہو کر تیرے پاس
 آئے تو اس کے پاس غمگین ہو کر نہ بیٹھنا کہ اس کو اپنی خوشی کے خاک
 میں مل جانے سے زنج ہو۔

بیٹی! تو سب سے زیادہ اپنے خاوند کی اطاعت و مراعات کرنا
 اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ سب سے زیادہ تیرا خیال رکھے گا اور جس قدر تو
 اس کی موافقت کرتی رہے گی اسی قدر تو اس کے ساتھ عیش و عشرت
 سے سیر کر سکے گی اور خوب اچھی طرح سے سمجھ لے کہ تو آج کے بعد
 سے اپنی خواہشات کو اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں کر سکتی جس وقت
 تک کہ تو اپنی رضا پر خاوند کی رضا کو ترجیح نہ دینے لگے اور اس کی خواہشوں
 پر مقدم نہ کرنے لگے۔ جو کچھ مجھ کو کہنا تھا میں کہہ چکی اللہ تعالیٰ تجھ کو
 خیریت کے ساتھ رکھے۔

شوہر سے محبت

شوہر کی عزت کرنا اور اس کی محبت رکھنا عورت کے فرائض میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے ساتھ بے حد محبت رکھتی تھیں۔ جب حضور کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو اہانتا المؤمنین بخیریت واپس آنے کے لئے دعا مانگا کرتی تھیں اور جب حضور واپس آجاتے تھے تو شکر یہ کے نوافل پڑھا کرتی تھیں۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور کی صحابیات بھی اپنے شوہروں کے ساتھ نہایت محبت رکھتی تھیں۔

سنن ابن ماجہ میں ہے کہ حمہ بنت حاشم ایک نہایت نیک بخت خاتون تھیں ایک بار ان کے شوہر علیل ہوئے۔ تو وہ منواتر دو مہینے بیدار رہیں اور شوہر کی تیمارداری میں مصروف رہیں۔

ابوداؤد میں ہے کہ حضرت زینب (نبت رسول اللہ) کی تناری ابوالعاص سے ہوئی تھی وہ ایک عرصہ تک حالت کفر میں رہے یہاں تک کہ بدر کا واقعہ پیش آگیا اور گرفتار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر رہا کرنا چاہا۔ تمام لوگوں نے اپنے فدیے پیش کئے۔ ابوالعاص کے پاس کچھ نہ تھا وہ نہایت متردد ہوئے۔ جب حضرت زینب کو خبر ہوئی تو انہوں نے قیمتی ہار جو حضرت خدیجہ نے لہجور یا دگار دیا تھا اور جس کو وہ ایک لمبے کے لئے بھی جہانہ کرتی تھیں برضا و رغبت اپنے

خاندان کے ذریعے میں حضور کے پاس بھیجا۔ حضور نے دیکھا تو سنت
رقت طاری ہوئی اور صحابہ کے مشورہ سے رہا کر دیا اور ہارہ بھی
واپس کر دیا۔

حضرت عائکہ رضی اللہ عنہا کو اپنے شوہر عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے نہایت محبت
تھی۔ چنانچہ جب وہ غزوہ طائف میں شہید ہوئے تو فرط محبت اور
فرط غم سے حضرت عائکہ بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جب ہوش آیا تو ایک
پُرورد مرثیہ لکھا جس کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے۔

”میں نے قسم کھائی ہے کہ تیرے غم میں میری
آنکھ ہمیشہ پر نم اور جسم ہمیشہ غبار آلود
رہے گا۔“

حضرت ام سلیم کو اپنے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت
تھی۔ اگر کبھی وہ غلیل ہو جاتے تھے تو ام سلیم بھی نصرت بہار ہو جاتی تھیں
اور ہر وقت پریشان رہتی تھیں۔ حضرت ابو طلحہ کا بیان ہے کہ ام سلیم
نے ہمیشہ اپنے آرام پر میرے آرام کو مقدم سمجھا۔ کبھی بھی رنج
نہیں پہنچایا۔ کبھی میری مخالفت نہیں کی اور ہر وقت میری
اطاعت کی۔ میں اگر کسی بات پر مغموم ہوا تو مجھے اطمینان دلایا اور
مجھے خوش کیا۔

تاج النساء: بیگم حیدر آبادی

اہلیہ محترمہ شاہ کمال اللہ حشتی القادری السہروردی قدس سرہ عارف
پھلی ولے شاہ صاحب ج۔ ایک ذی علم اور عارفہ کاملہ تھیں اور حضرت
موصوف کی پرورش سے بیعت تھیں۔ ذاکر شاعری تھیں۔ تصرف کے
معاملات اچھے تھے، عالم باعمل تھیں۔ تقریباً ۱۳۳۵ھ میں بعارضہ
طاعون وصال ہوا۔

اکثر عورتوں کی تربیت کرتی رہتی تھیں۔ عورتیں ان کو پرانی ماں
سے مخاطب کیا کرتی تھیں۔ نزع کے عالم میں ایک معتقد عورت نے
پوچھا کہ پرانی اماں مجھے کوئی اچھی کتاب کا نام بتائیے جس کو میں پڑھا
کروں تو فرمایا کہ تو نے دیکھا کہ میں تو اب اپنے مالک کے پاس جا
رہی ہوں میری کتابیں سب طاق میں رہ گئیں اور فرمایا کہ کتابیں
کام نہ آئیں گی۔ عمل مقدم ہے۔

اکثر مراقبہ میں مستغرق رہا کرتی تھیں۔ ایک روز اپنا ایک فارسی
شعر حضرت کو سنایا ہے

آنکہ اندر زبان استغراق ہر کہ گوید انا خطا نبود

بعد وصال خواب میں آئیں۔ حضرت نے پوچھا کہ کہو کیسی گزری
تو عرض کی کہ مجھے موت میں بڑا مزا آیا۔ ہزار زندگیاں ایسی موت پر
قربان ہیں۔ غرض بڑی صالحہ عابدہ اور عارفہ تھیں۔
مدفن: قبرستان مسجد ٹھکی جیل حیدر آباد دکن۔

منورہ سگم

یہ پوتی اللہ وردی خاں۔ دیوان نواب ذوالفقار خاں عالمگیری۔
آخر بارہویں صدی ہجری کی فاضل و عالم خاتون تھیں، عورتوں کو نپو
نصیحت کے عنوان سے ایک مثنوی الموسوم بہ توشہ عاقبت لکھی
تھی جس کے آٹھ سواشعار ہیں۔ مثنوی کا ماخذ فقہ و سیر کی مستند
کتابیں ہیں۔ مثلاً بحر الرائق، ہدایہ، فتاویٰ قاضی خاں، احادیث و
تفسیر وغیرہ۔ بدکردار عورتوں کے حق میں تیغ برہتہ تھیں، عورتوں کی
بڑی طرح جبری ہے۔ جس کے دو ایک اشعار یہ ہیں۔

تف ہے بی بی پنے پر اے بی بی بلکہ لعنت ہزار از غیبی
تف ترے حسن و ایسی سیرت پر تف جوانی پہ ایسی سورت پر

زیب النساء عصمت

فارغ التحصیل عالم تھیں عمدۃ النساء زوجہ خواجہ غلام غوث بنگر خاں
بہادر ذوالقدت بنت مفتی انعام اللہ خاں بہادر اکیبر آبادی کی معلمہ تھیں۔ علم سے
دلی لگاؤ تھا۔ شادی نہیں کی۔ مولانا غلام امام شہید لیسوی کی مرید تھیں۔
پیر کی شان میں قصیدہ جو کہا ہے اس کا ایک شعر پیش ہے۔ ۱۸۵۰ء
میں دارالبقا کو سدھار گئیں سے

در وصف شہیدی کہ شہیدت قدم را کوتاہ بزبانم کہ چہ آرائے رقم را

ع۔ داستان تاریخ اردو وائٹائے بجز

نبی خدیجۃ النساء

یہ خاتون مفتی انعام اللہ خاں بہادر گویا موی کی صاحبزادی اور مولوی
معظم الحق ابن ذکی الدین محمد خاں فاروقی صدر الصدور کی نواسی تھیں۔
نانا سے علوم دینی کی تحصیل کی۔ آپ نے شاعرات کا تذکرہ مرتب کیا
تھا جو شائع ہو گیا ہے۔ آپ کے صاحبزادے مفتی محمد حسن گویا موی تھے
جنہوں نے والدہ سے ہی تعلیم پائی تھی۔ مشہور مصنف تھے غم خانہ
جاوید میں ان کا ذکر تحریر ہے۔ ۱۲۶۴ھ تک بقید حیات تھیں۔
(تاریخ مفتیان گویا موی)

— * * — * * —

سیدۃ النساء حرامان

مولانا فضل حق خیر آبادی کی دختر نیک اختر اور مولانا عبدالحق
خیر آبادی کی ہمیشہ تھیں۔ باپ نے تعلیم دی تھی۔ عربی میں ان کو بڑا
درک حاصل تھا۔ معقولات میں بھی اچھی استعداد تھی۔ مولوی سید حسین
ابن سید فضل حسین خیر آبادی سے منسوب تھیں۔ خان بہادر اعتبار حسین
مضطر خیر آبادی آپ کے صاحبزادے تھے۔ جنہوں نے علوم کی تحصیل
اپنی والدہ ماجدہ سے کی۔

راقم سطور کی پھوپھی عذراۃ النساء زوجہ خان بہادر ذوالقدر خواجہ

غلام غوث بے خبر سے حرمان کے تعلقات عزیزانہ تھے۔ خیر آباد سے جب ٹونک بیٹے کے پاس جاتیں وہ آگرہ چند یوم عمدۃ النساء کے پاس ٹھہرتیں۔ آپ کا ایک شعر نقل ہے۔

خانہ یار کا تم کو کیا پتہ بتلاؤں
حبیباً مشتاق ہو نزدیک بھی دور بھی ہے

عمدۃ النساء بیگم

عمدۃ النساء بنت خان بہادر مفتی انعام اللہ شہابی گویا پوری ثم اکبر آبادی ۱۸۳۴ء میں الہ آباد میں پیدا ہوئیں۔ صدر نظامت آگرہ منتقل ہوا باپ سرکاری وکیل تھے وہ آگرہ آئے یہ بھی آئیں۔ نیل کے احاطہ میں مقیم ہوئیں۔ باپ سے فارسی عربی کی تعلیم پائی۔ درسیات فارسی کی تکمیل زیب النساء بیگم معلمہ سے کی۔ باپ نے لکھنا نہیں سکھا یا۔ مقوسطات تک عربی کی تحصیل تھی ۴ یا ۵ برس کی عمر میں خواجہ غلام غوث خان بہادر ذوالقدر سے عقد نکاح ہوا۔ اس زمانہ میں خواجہ صاحب لفٹنٹ گورنر مغربی و شمالی کراچیر منشی تھے۔ یہاں دیوبند میں بے حد خوش گوار تعلقات ایک عرصہ تک رہے۔ خواجہ صاحب نے ڈپٹی محمد حسن الہ آبادی کی بہن سے شادی کی پھر سے یہ کسیدہ خاطر ہو گئیں اور میکے میں آکر مقیم ہو گئیں مگر خواجہ صاحب پچاس روپیہ ماہوار اپنی وفات تک دیتے رہے اور بے حد خواہش تھی کہ کشیدگی دور ہو جائے مگر عمدۃ النساء کا کہنا یہ تھا کہ مجھ سے

دریافت کر لیتے۔ اب خدا کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ آپ کے
 تین بھائی مولوی اکرام اللہ صاحب تصویر الشعرا مفتی افہام اللہ صاحب
 اور ڈاکٹر الہام اللہ تھے ہر ایک بھائی اطاعت گزار اور بہن کا گردیدہ
 تھا۔

ڈاکٹر الہام اللہ کی دختر احمد النساء کو بہت عزیز رکھتی تھیں۔
 عمدۃ النساء نے تیس برس تک ایک مکان سے دوسرے مکان
 میں قدم نہ رکھا کہ شوہر سے اجازت نہیں لی تھی۔ ڈپٹی نثار علی بیگ
 نے خواجہ صاحب سے خط کے ذریعہ اجازت لی تو خواجہ صاحب
 نے لکھا جہاں آپ کی والدہ جاتی رہی ہوں وہاں وہ جا سکتی ہیں چنانچہ
 وہ اپنے بھائیوں کی سسرال کبھی نہیں گئیں کیونکہ والدہ کے انتقال
 کے بعد یہ شادیاں ہوئی تھیں۔

غریب بڑھیوں کی خفیہ مدد کرتی تھیں۔
 مرزا زین العابدین کی دختر ولایتی بیگم اور منصف نظام علی خاں
 افضل کی دختر افضل النساء اور مرزا وقار علی بیگ کی بہن زوجہ مرزا
 نثار علی بیگ بہنیں بنی ہوئی تھیں۔ افہام اللہ ساحر کے انتقال
 کا بٹا صدمہ اٹھایا۔ ۱۲ برس ان کی لحد پر سوئیں۔ جوانی کے ایام اس
 غم میں گزار دیئے۔

ڈاکٹر الہام کی زوجہ لاڈو بیگم اور مولوی اکرام اللہ کی زوجہ
 محمدی بیگم بنت ملک باقر علی حسینی پلہوری ہر دو بھادریں اپنی نشد
 کی اطاعت گزار تھیں۔

محمدی بیگم والدہ راقم سطور جو میر فیض علی بریلوی کی نواسی تھیں

جن کے لطن سے اسلام اللہ صوفی اکبر آبادی اور احسان اللہ اور اقم سطور
 تھے۔ ان سب کی پرورش اور تعلیم و تربیت عمدۃ النساء کی ایک
 کوٹھی (بابو گنج) اور چند مکان آپ کی ملکیت تھے۔
 تمام زندگی خوش اسلوبی سے گزاری اور ادو وظائف کی بڑی
 پابند سوره واقعہ روزانہ سوتے وقت پڑتیں۔ ۱۹۱۲ء میں انتقال
 ہوا۔ درگاہ شاہ ابوالعلا احراری میں اپنے والد مفتی انعام اللہ
 کے پہلو میں نیم کے درخت کے نیچے مغربی و جنوبی گوشہ میں دفن
 ہوئیں۔

افضل النساء

افضل النساء بنت نظام علی خاں متخلص بہ افضل منصف فتح آباد
 پاپ سے رسمی تعلیم پائی۔ طب بھی پڑھی۔ مولوی اصغر علی خاں ڈپٹی
 کلکٹر بھرت پور کو منسوب تھیں۔ شوہر مثلین مقدمات کی مکان پر
 لے آئے یہ فیصلہ لکھتیں صرف اصغر علی خاں دستخط کر دیتے۔ آخر
 عمر میں حج کیا اس کی روداد سفر نامہ کی صورت میں لکھی جس کا تعارف
 شاہ محمد اکبر دانا پوری نے تحریر کیا ہے۔ حکیم ریاض علی اکبر آبادی
 طب میں شاگرد تھے۔ ۱۹۱۵ء میں ان کا انتقال ہوا۔

فاطمہ بنت عبد اللہ

غزوہ طرابلس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ صدیوں کے بعد اس نے صدر اول اسلام کے غزوات و مجاہدات کے واقعات زندہ کر دیئے اور مدتوں کے بعد عرب بادیہ کو موقع ملا کہ ان کے اصل جوہر نمایاں ہوں، پورا اور اُحد کے واقعات میں ہم پڑھتے تھے کہ ایسی عورتیں تھیں جو اپنے آٹھ آٹھ رباکوں کو اللہ کی راہ میں زخمی کرا کے پھر خود زخمی ہو جاتی تھیں اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسی محبتیں کہ تیروں پر تیر کھاتی تھیں مگر اپنے جسم کو ان کے سامنے ڈھال کی طرح رکھتی تھیں۔ یہ ہم پڑھتے تھے مگر خاک طرابلس نے یہ تمام واقعات دہرا دیئے۔

عربی جنگ کی پہلی خصوصیت عورتوں کی شرکت ہے۔ غزوہ طرابلس کے لئے جب اطراف و جوانب اور اندرون صحرا سے قبائل جمع ہونے لگے تو ہر قبیلے کے ہمراہ اس کا پورا خاندان تھا۔ ان میں ہر طرح کی عورتیں ہوتی تھیں جن کے ابھی کھیل کود کے دن تھے بڑھیا عورتیں بھی ہوتی تھیں جن کے جسم تو مٹی جو اب دے چکے تھے بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ ان کو الگ نہیں کر سکتی تھیں۔ ہم نے وہ تصویریں دیکھی ہیں جن میں کسی عورت نے ایک طرف تو گود میں بچہ اٹھایا ہے۔

اور دوسری جانب پانی کی مشک ہے اسی حالت میں میدان جہاد کے زخمیوں کو ڈھونڈھتی پھرتی ہیں۔

جن قبائل نے سب سے زیادہ حصہ لیا ان میں ایک مشہور قبیلہ (قبیلہ البراعقہ) تھا جو کثرت نفوس اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے اندرون طرابلس کا سب سے بڑا قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔

اس قبیلے کا سردار شیخ عبداللہ تھا جس کو عرب اپنی بول چال میں عیدہ پکارا کرتے تھے۔ اس مجاہد غیور نے آغاز جنگ سے خالصاً لوجہ اللہ جو عظیم الشان خدمات جہاد انجام دیں۔ ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ جنگ کے تمام ترک افسر اس بارے میں متفق اللسان ہیں کہ اگر شیخ عبداللہ کے جاں فرشتانہ عزائم اول کار میں ساتھ نہ دیتے تو بعد کی کامیابیاں ہرگز حاصل نہ ہو سکتی تھیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس فدائے اسلام نے اپنے قبیلے کو ابھارا اطراف و نواح کے دوسرے قبائل کو آمادہ جہاد کیا۔ اپنا تمام مال و متاع ترک افروں کے سپرد کر دیا۔ تمام عربوں کو بطور نفقہ جنگ کے روزینہ دیا جاتا تھا۔ اس کے لینے سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ پھر اپنے خاندان کے تمام مردوں اور عورتوں کو لاکر دشمنان اسلام کے آلات جہنمی کے سامنے لاکھڑا کیا۔ ان کو کٹوایا اور آخر میں خود بھی ان کی رفاقت میں روانہ ہو گیا۔ خدا نے اپنی محبت کی پہلی شرط یہ قرار دی تھی کہ لہن تنالوا لہو حتی تنفقوا متا تحبون نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس کی راہ میں ان چیزوں کو نہ ٹا دو جو تم کو محبوب اور مطلوب ہیں۔ کیونکہ ایک دل میں محبت کے دو آشیانے نہیں بن سکتے۔ جہنم کی وینوی

محبوبات میں مال و متاع۔ اہل و عیال۔ پھر نفس و جان یہی تین چیزیں
 وہ سب سے زیادہ بوجھل زنجیریں ہیں جو اس راہ میں پاؤں کو سہلنے
 نہیں دیتیں۔ اس فانی فائدہ عاشق صادق نے ایک ہی وقت میں
 ان تینوں منزلوں کو طے کر لیا۔ سب سے پہلے مال و متاع کو اس
 کی راہ میں لٹایا۔ پھر اپنے عزیزوں کو قربان کیا۔ آخر میں جان رہ گئی
 تھی یہ بھی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ لایومن احد حتی احب الیہ
 من دالک والناس اجمعین۔

آنکس کہ ترا بخواست جاں را چہ کند
 دیوانہ گئی ہر دو جہاںش بخششی
 فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
 دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند
 و من الناس من لیش توی نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ
 روت بالعباد (۳۳: ۱۱) اور اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اس
 کی رضا جوئی کی راہ میں اپنی جان تک و سہ دیتے ہیں۔ اور اللہ اپنے
 بندوں پر بڑی شفقت رکھتا ہے۔

اس کا تمام خاندان مصروف پیکار و خدمات جہاد تھا لیکن
 اولاد میں صرف ایک گیارہ برس کی لڑکی فاطمہ تھی جس کی محویت و
 استغراق کو دیکھ کر تمام ترک افسر اور سپاہی حیران رہ جاتے تھے
 ڈاکٹر اسماعیل ثباتی بک کہتے ہیں۔

سب سے پہلے میں نے اس معصوم بچی کو اس وقت دیکھا
 جب میں پہلی مرتبہ اپنی جماعت لے کر عزیز یہ سے زوارہ آیا تھا۔
 عورتوں اور لڑکیوں کی شکر میں کمی نہ تھی۔ کیونکہ ہر عرب صح اپنے
 پوسے خاندان کے شریک جہاد ہوا تھا۔ لیکن چند مخصوص باتیں فاطمہ

میں ایسی نظر آتی تھیں جن کی وجہ سے وہ ہزار ہا مردوں اور عورتوں میں
 بھی پہچان لی جاتی تھی۔ اول تو اس کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ زیادہ سے
 زیادہ گیارہ برس ہوگی۔ دوسرے اس کو جنگ اور جنگ کے زخمیوں
 سے کچھ ایسا انس ہو گیا تھا کہ سخت سے سخت محروکوں میں بھی اس کی
 مسابقت اور پیش قدمی کو ہر سپاہی محسوس کرتا تھا۔ جنگ خواہ حملے
 کی ہو خواہ مدافعت کی۔ ساحلی بیڑے سے توپوں کی بارش ہو رہی
 ہو یا تلواروں اور سنگینوں کی سامنے صفیں ہوں مگر زخمی مسلمان کی آہ
 میں اس کے لئے ایک ایسی کشش تھی جس کو سن لینے کے بعد محال
 ہو جاتا تھا کہ اس کی چھوٹی سی مشک اپنے فرض کو بھول جائے وہ کم
 سن تھی لیکن اس کے اندر ایک کہن سال عشق موجود تھا۔ یہ عشق لہو و
 لعب یا تمتعاتِ حیات کا نہ تھا بلکہ خون زخم اور کٹی ہوئی انسانی رگوں
 کا۔ جہاں کہیں یہ چیزیں موجود ہوتیں وہ ایک باورفتار ہرنی کی مستعدی
 مگر فرشتہ عشق کے پروں سے اڑتی ہوئی وہاں پہنچ جاتی میں نے
 ایک مرتبہ دیکھا کہ بارود کے دھوئیں سے تمام فضا تاریک ہو رہی ہے۔
 کانوں کے پروں کی سادھہ شکن صداؤں سے پھٹ رہے ہیں۔
 گولوں کے پھٹنے سے ایک عارضی روشنی نمودار ہو جاتی ہے مگر اس
 کے ساتھ ہی زخمیوں..... کی چھین پھلی مہیب گرجوں کے ساتھ مل
 کر ایک عجیب وحشت انگیز سماں برپا کر دیتی ہیں۔ ایسے جگر پاش اور زہرہ
 گداز عالم میں وہ معصوم ہرنی اپنا اونچا کرتا پہنے ہوئے اور کھٹی ہوئی اور
 کمر کے گرد لپٹے ہوئے اس طرح دوڑ رہی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ منظلوم و
 محتاج زخمیوں کی بفرگیری کے لئے کوئی فرشتہ ربانی آسمان سے

اتر آیا ہے اور اللہ نے ہوا اور زمین کو اس کے تابع کر دیا ہے کہ وہ اٹھائے رہے اور یہ لٹتی جائے۔ سامنے سے گولوں کی لگاتار بارش ہو رہی تھی مگر یہ اسی بارش پر تیرتی ہوئی جاتی تھی۔ انسانی لاشیں ایک پر ایک گر رہی تھیں مگر ہر نئی لاش گرنے کی آواز خوف کی جگہ اس کے دل میں قوت کی نئی رو پیدا کر دیتی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر میں بے اختیار ہو گیا۔ کچھ بعید نہیں کہ ایسے خطرناک اور یکسر موت و ہلاکت کے عالم میں یہ برق و شہمیشہ کے لئے نظروں سے چھپ جائے میں نے ارادہ کر لیا کہ اب کی مرتبہ اگر وہ نمودار ہوئی تو کسی نہ کسی طرح پکڑ کر سمھاؤں گا کہ موت کی اس درجہ آرزو مند کیوں ہو گئی ہے؟

تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا سایہ قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا تجھے نہیں معلوم تو اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہے؟

چھوڑ دو کیا تم بھول گئے کہ اسام اور وطن کے کتنے فرزند یہاں پیاسے دم توڑ رہے ہیں؟ یہ کہا اور نظروں سے غائب ہو گئی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ مجھ کو سرخ رنگ سے عشق ہے۔ آہ! یہی رنگ ایک دن میں نے اس کی گردن اور دل کے نیچے سے بہتا ہوا دیکھا؟

۱۲ رجب ۱۳۳۱ھ کو زوارہ میں اطالیوں نے دو ماہ کی مسلسل تیاریوں کے بعد ایک بہت بڑا حملہ کیا تھا عربوں نے بھی جو عرصے کی بیکاری سے گہرا اٹھے تھے۔ بھوکے شیروں کی طرح ان کا استقبال کیا۔ زوارہ سے جو خبر بعد کو مشہر کی گئی تھی اس میں اطالیوں کا

کی تعداد چھ ہزار تیلانی تھی۔ مگر دراصل بارہ ہزار سے کسی طرح کم نہ تھی۔ عربوں اور ترکوں کی متحدہ فوج کی تعداد زیادہ سے زیادہ تین ہزار تھی۔

یہ لڑائی دن بھر جاری رہی اور عصر کے وقت بارہ سولاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر اپنی عادت قدیم کے مطابق اطالویوں نے ساحل کا رخ کیا۔

عین دوپہر کا وقت تھا۔ اٹالین توپ خانہ دونوں جانب سے آگ برسار رہا تھا دس ہزار بندو قوں کے چھوٹنے کی آواز ایک ہی وقت میں کرک رہی تھی۔ تمام ریگستان میں موت اور ہلاکت کے سوا کچھ نہ تھا اس وقت اس بہشت زار شہادت کی حور عین فاطمہ کہاں ہے۔

وہ بدستور اپنے ہی کام میں مشغول ہے اس کی دائمی رفیق مشک اس کی پیٹھ پر ہے۔ دھوئیں اور تپش کی شدت سے چہرہ جھلسا ہوا ہے بالوں پر سرخی مائل ریت کی تہ جمی ہوئی ہے۔ کپڑے اس کے محبوب سرخ رنگ کے دھبوں سے رنگین ہو رہے ہیں۔ اور اپنی مخصوص مجنونانہ محویت کے پردوں سے نضائے جنگ میں اڑ رہی ہے۔ اس کی ماں بھی اسی خدمت میں شریک ہے۔ مگر اس کا ساتھ کون دے سکتا ہے؟ اس کا باپ بھی اپنے قبیلے کے ساتھ مصر کی جاں بازی ہے مگر اس کو اپنے کام کے انہماک میں اس کی یاد کی بہت کتب ہے۔ عصر کا وقت جب قریب آگیا تو مجاہدین آخری عزم فیصلہ کن کے ساتھ دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کی صفوں میں

گھس کر تلواروں سے کاٹنا شروع کیا۔ احمد نوری بک ترکی کمان انسر
 نے عربوں کے ہجوم کو دیکھا تو خود بھی اپنی جماعت سے لے کر دشمنوں کے
 مشرقی ٹوپ خانے تک بڑھتا ہوا چلا گیا۔ توپ خانے کے پاس اطالیوں
 کی ایک تازہ دم جماعت موجود تھی جس نے اب تک فرانسیسیوں کو حصہ
 نہیں لیا تھا۔ ایک چھوٹی سی جماعت دیکھ کر وہ ہر طرف سے ٹوت
 پڑے اور تین ترک سپاہیوں کو چاروں طرف سے گھیر کر بندو قوں کا
 نشانہ بنانا چاہا۔ نہیں معلوم کون سا محافظ ہاتھ تھا جس نے عربی صفوں
 سے اس قدر دور فاصلہ کو پہنچا دیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جاہاز ترک
 تلواروں کے بے امان ہاتھ مار کر عات نکل آئے ہیں مگر چار زخمی
 ترک زمین پر پڑے سسک رہے ہیں۔ نامرد اطالوی حریفوں کو
 روک تو نہ سکے مگر اب زخمیوں کے سر و سینہ میں سنگین چھبو کر اپنا
 غصہ نکال رہے ہیں۔ گیارہ برس کی فاطمہ دیکھتے ہی لپکی اور بغیر ان
 لوگوں پر نظر ڈالے ہوئے جو پاس ہی کھڑے تھے اپنی مشک ایک
 زخمی کے منہ سے رگادی۔ پورا ایک گھونٹ بھینا بھی زخمی کے حلق
 سے نہیں اترتا تھا کہ دو اطالیوں نے بڑھ کر گردن کے پاس سے اس
 کا گریبان پکڑ لیا۔ فاطمہ معاً تڑپی مگر دشمن کی گرفت مضبوط تھی۔ فوراً
 اس نے زخمی ترک کی پڑی ہوئی خون آلود تلوار اٹھالی اور اس زور
 سے ماری کہ اطالوی سپاہی کے داہنے ہاتھ کا پہنچا زخمی ہو کر لٹک گیا۔
 اس نے گردن چھوڑ دی تاکہ بائیں ہاتھ سے دشمن پر حملہ کر سکے۔
 ادھر بندوق چھوٹنے کی آواز آئی اور ادھر اٹالین فوج شکست
 کھا کر بھاگتی نظر آئی۔ عرب اور ترک سپاہی جب دشمنوں کا تعاقب

کرتے ہوئے میدان جنگ سے آگے بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ چار زخمی ترک زمین پر پڑے ہیں۔ پاس ہی فاطمہ کی لاش ہے مگر اس حالت میں کہ مشک کا حلقہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور مشک ایک بیوش ترک کے سینے پر پڑی ہے۔ شاید مرتے دم بھی زخمی ترک کو پانی پلانے کی کوشش کی تھی مگر مشک اس کے منہ تک نہ لے جاسکی۔

إنا لله وانا اليه راجعون

لاڈو بیگم

صالحہ بی بی تھیں۔ خان بہادر ڈاکٹر وزیر الدین کی دختر ڈاکٹر الہام اللہ شہابی کی زوجہ تھیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی منشی عبدالکریم ملکہ وکٹوریہ کے میر منشی تھے۔ والدہ بیگم بیگم میر رجب علی نگران مسی عالمگیری کی دختر تھیں۔ لاڈو بیگم شوہر کی اطاعت گزار اور عابدہ اور سعادت میں مشہور تھیں۔

بھائی کے ترکہ میں سے معقول جائداد حصہ میں آئی۔ ایک حصہ چک پنجم سواد شہر آگرہ وقف کر دیا۔ ایک بیٹی احمد النساء بیگم تھیں جو خود بخیرہ اندھی واقعہ ہوئی تھیں۔ بیسیوں بچیوں کی شادی کے مصداق خود ادا کئے۔ کسی کو کالوں کان خبر نہ ہونے دیتیں۔ تمام املاک زندگی میں خیر و خیرات میں لٹا گئیں۔

لاڈو بیگم نے ۱۹۱۵ء میں انتقال کیا اور گاہ شاہ نواز الزماں

میں دفن ہیں۔ ۱۹۱۵ء میں احمد النساء بھی واصل بحق ہوئیں۔

نواب شاہجہاں بیگم

نواب شاہجہاں بیگم کے والد کا نام نواب جہانگیر خاں بہادر
 شمشیر جنگ تھا۔ والدہ کا نام سکندر بیگم تھا۔ بیگم صاحبہ بھوپال میں
 ۱۹۵۲ء میں پیدا ہوئیں۔ ۱۵ محرم ۱۲۶۳ھ میں جب کہ بیگم صاحبہ کی عمر
 ۹ برس کی تھی تو اپنے باپ کی جگہ تخت سلطنت پر رونق افروز
 ہوئیں۔ اپنی والدہ کے زیر سایہ پرورش پائی اور تمام علوم و فنون
 فارسی نہایت خوش اسلوبی سے حاصل کئے۔ یہاں تک کہ لکھنا پڑھنا
 خط و کتابت سلیقہ سیاست اور ریاست کے نظم و نسق کے تمام
 طریقے بہ تمام و کمال اکتساب کئے۔ ۹ شوال ۱۲۷۶ھ میں جب کہ
 بائیس سال کی عمر ہوئی تمام ریاست کے کاروبار کو اپنی والدہ
 کے سپرد کر دیا لیکن غزہ شعبان ۱۲۸۵ھ میں اراکین ریاست کے
 امراء پر زیب اورنگ ہوئیں۔

لارڈ میو گورنر جنرل کے زمانہ میں ۱۲۸۸ھ میں نواب صدیق حسن
 خاں سے ان کا نکاح ثانی ہوا۔

شاہجہاں بیگم چونکہ خود تعلیم یافتہ اور صاحب فراست تھیں اس
 وجہ سے اہل نہر کی قدر افزائی کرتیں اور اپنے جو دو کرم سے بہت
 مہربانی فرماتیں۔ شعر بھی کہتیں تھیں۔
 ایک غزل ملاحظہ ہو۔

غزل

از نواب شاہ جہاں بیگم

ہر دم ز حسن یار من بیز و تجلائے دگر
 ہرزہ خاک درش خورشید تاباں در پیش
 خوبان دنیا گو ہمہ خوبند از سرتابہ پا
 از بوریامی زاپہاں بوی ریآ آمد بجاں
 باور من قول عدد و ساعز کجا و شیشہ کو
 من می روم سوئے حرم دل میکشد سوئے صنم
 جانم بہ تنگ آمد از ویار بچہاں سازم بدو
 لے عشق بے پروا بیا تا وار ہم از ما سوا
 از شرم رنگ آل او دیگر بود احوال او
 لے موتس غم خوار من خلقے پیے آزار من
 چشم بود در ہر نظر محو تماشا ئے دگر
 از پر تو ہر خوش دار و تجلائے دگر
 نام خدا آں در یاد او سرا پائے دگر
 پیر نماز عاشقاں باشد مصلائے دگر
 لے محاسبیاں ہا ئی ہو دارم ز صہبائے دگر
 من می روم جائے دگر دل می رود جا دگر
 من می ز تم رائے دگر او میزند رائے دگر
 جز درد تو نبود مرا درد دل تمنائے دگر
 گل برسراں لالہ بود وار و تماشا ئے دگر
 بس مہر از دیوار من دارم نہ پروائے دگر

شاہ چانم بیگیاں ہم تا جو درد ہندیاں
 جز یاد وار و در جہاں دارم نہ سووائے دگر

مہر بانو رابعہ ثانی

مہر بانو بنت ملک باقر علی بلہوری میر فیض علی جو سادات نو محلہ بریلی
 سے تھے انکی نواسی تھیں۔ باپ نے دینی تعلیم دلوائی۔ میرا علی نے نواب

سید عابد حسین امیر الامرا شاہ بھجانی کی اولاد سے تھے۔ مبارک محل
واقع آگرہ رہنے کا مکان تھا۔ منگامہ ۱۸۵۷ء میں نواب محمد علی حجاز
چلے گئے۔ انگریز نے آپکی املاک پر قبضہ کیا۔ بودلہ اور قدم شریف کی
آراضی کچھ لڑائی کو ورثہ میں ملی مگر وہ کافی نہ تھی تو پٹوے کا کام سیکھ
لیا اور گھر میں زیور گوندھ کر گزارہ کرتے۔ اس طرح باپ دادا کی
شان قائم رکھی۔ معمولی پڑھے لکھے تھے نوکری تمام عمر نہ کی۔ بودلہ ست
سالیا نہ آتا تھا وہ چند ماہ میں ختم ہو جاتا۔ جس دن گندھائی کا کام
نہ آتا خود اور بیوی فاقہ سے رہتے۔ مہربانوں نے کبھی ماں باپ کو
خبر نہ ہونے دی کہ کس حال میں زندگی کٹ رہی ہے۔ ایک دن ان
کے بھائی منشی الطاف حسین خطاط جن کی تحریر کا نمونہ محراب مسجد شو
مارکیٹ پر کتبہ کی صورت میں ہے جو حضرت وارث علی شاہ دیوبند
کے خلیفہ تھے وہ آئے۔ اشتہا کا غلبہ تھا، بہن سے کہا آپا کچھ
کھانے کو ہو تو لاؤ۔ عمو مہربانوں نے جانے والوں کے لئے پیڑیاں
پاستو کا انتظام رکھتیں، خود نہ کھاتیں۔ اس دن یہ سامان بڑھ گیا
تھا ایک رکابی میں آم کی آبی گھٹلیاں رکھی تھیں اور ایک پیالی
میں نمک مرچ کی چٹنی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا آپا یہ کیا ہے کہنے
لگیں کہ یہ گھٹلیاں سوندھی ہوئی ہیں کبھی کھالیتی ہوں۔ منشی صاحب
نے بھی کھائیں۔ گھر لوٹ کر آئے باپ سے کہا۔ انہوں نے فرمایا۔
مہربانوں نے اپنی تکلیف کا کبھی ذکر نہ کیا اور خود بیٹی کے پاس
پہنچے اور دس روپے دے آئے مگر یہ ایسی صابرہ بی بی تھیں وہ
دس رکھے رہنے دیئے جب کوئی میکہ سے آتا کہتیں۔ باوا کو غلط

اطلاع ملی جو روپے دے گئے خرچ کرنے کی نوبت آج تک آئی۔ انہوں نے محلہ کی بچیوں کو بلا بلا کر انکو بلا معاوضہ قرآن پڑھانا شروع کیا جب کسی بچی کا قرآن ختم ہوتا۔ اس کے والدین جوڑا اور پچیس روپیہ نذر کرتے وہ جمع کرتیں اور یتیم بچوں کی شادی میں اپنی طرف سے مدد دیتیں۔ غرض کہ صد ہا بچیوں کو کلام مجید پڑھا دیا اور بیسیوں بچیوں کی شادی اپنے پاس سے کی۔ اللہ نے پھر بڑی فراغت سے دی اولاد برسر روزگار ہو گئی ۱۹۳۵ء میں انتقال ہو گیا۔

سیکیم حسرت موہانی

سب سے پہلی مسلم خاتون ہیں جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنے شوہر کے پہلو پہ پہلو حصہ لیا۔ جب حسرت جیل گئے اردو معنی خود نکالتی تھیں ۱۹۱۱ء میں آگرہ ثاقب اکبر آبادی کے یہاں آئیں مجھے بھی گفتگو کا موقع ملا گاڑھے کی ساڑھی میں ملبوس تھیں مسلمانوں میں یہ پہلی پردہ شکن خاتون تھیں۔

بی امال

والدہ مولانا محمد علی رشوکت علی مرحوم۔ آپ کے والد احمد علی خاں اروہہ کے معزز خاندان سے تھے آپ اس قابلیت کی خاتون تھیں کہ اپنے

بچوں کو تعلیم اعلیٰ پیمانہ پر دلوانی اور قوم پر اولاد کو نثار کرنے کو تیار
 رہیں۔ خلافت کی تحریک کو کامیاب بنانے میں موصوفہ کا بڑا حصہ ہے
 افسوس ہے کہ ہم ان کے مفصل حالات نہ لکھ سکے۔ ان کا مزار دہلی
 میں حضرت غلام علی شاہ کی خانقاہ میں ہے۔

رضیہ سلطانی

رضیہ سلطانی الملقبہ بہ بلقیس جہاں سلطان شمس الدین التمش کی
 بیٹی تھی۔ دہلی میں پیدا ہوئی اور ۱۲۳۳ء میں تخت نشین ہوئی۔
 دستور کے مطابق رضیہ کی پرورش نہایت عمدہ طریقہ سے کی گئی۔
 شاہی خاندان کا طریقہ تھا کہ اگر لڑکا پیدا ہوتا تو وہ محل کے باہر
 پرورش پاتا اور اگر لڑکی پیدا ہوتی تو محل کے اندر ماں سے علیحدہ خان
 عورتیں اس کی پرورش کرتیں۔ یہ کام نہایت شریف خوش اخلاق اور
 نیک عورتوں کے سپرد کیا جاتا۔ اور ملازمت کے وقت دینی علوم
 میں ان کا امتحان لیا جاتا۔ نو برس تک لڑکی ان کے پاس رہتی اس
 عرصے میں قرآن مجید اور دیگر ضروری مسائل اسے ازبر کرادیئے جاتے
 تھے۔ اس کے بعد فن سپہ گری اور ملکی معاملات کی تعلیم کے لئے وہ
 محل کے چھوٹے سے اسکول میں تعلیم حاصل کرتی تھی جو صرف ہنر و پون
 کے لئے مخصوص تھا۔

رضیہ نہایت حسین تھی۔ شمس الدین التمش گواہ ہے بیٹے رکن الدین
 التمش کو بہت چاہتا تھا مگر وہ اب اس ہونہار لڑکی کے آگے اس

کی محبت کو بھول گیا تھا۔ اور جوں جوں رضیہ بڑی ہوتی جاتی تھی۔ اسے یقین ہوتا جاتا تھا کہ آئندہ یہ میری معاون اور قوت بازو ثابت ہوگی۔ جب رضیہ کی عمر چار برس کی ہوئی تو اسے قرآن مجید پڑھایا گیا۔ تین برس میں اس نے قرآن مجید ختم کر لیا۔ قدرت نے اس کو خوش الحانی بھی عطا فرمائی تھی۔ اس کی آواز میں ایسا لوتج تھا کہ جب وہ قرآن شریف پڑھتی تو ممکن نہ تھا کہ سننے والا اس کو پڑھتے ہوئے سن کر رونہ دے۔

ختم قرآن مجید کی تقریب خوب دھوم دھام اور شاہانہ تزک و احتشام سے عمل میں آئی۔ ہزاروں روپیہ محتاجوں اور فقراء میں تقسیم کیا گیا اور تمام لشکر کی تین روز تک دعوت ہوتی رہی۔

قرآن مجید ختم کرنے کے بعد فارسی کتب اور شاہی ادب و آداب کی تعلیم ہوتی رہی۔ رضیہ کو ذہن اور حافظہ قدرت نے ازل ہی سے غیر معمولی عطا کیا تھا۔ لہذا رضیہ نے تین برس کے عرصہ میں فارسی میں بھی کافی دستگاہ پیدا کر لی۔ رضیہ سادہ عبارت اور مختصر نویسی میں تمام قلعہ میں مشہور تھی۔

غرض تیرہ برس کی عمر تک رضیہ کسی قدر پابندی سے تعلیم حاصل کرتی رہی۔ جب چودہ برس کی عمر کو پہنچی تو تذاویرِ ملکی میں حصہ لینے کا زمانہ آگیا۔ اس عرصہ میں وہ تیر اندازی چابک سواری اور فنون جنگ میں بھی خوب مشاق ہو گئی تھی۔

رضیہ کا بڑا بھائی رکن الدین بچپن سے کاہل و جود اور آرام طلب تھا مگر رضیہ اپنے بھائی کی بالکل ضد تھی۔ گو وہ عورت تھی

مگر اس میں استقلال۔ بہادری جرات مردوں سے زیادہ تھی وہ سمجھتی تھی کہ ہماری خوش تدبیری نہ صرف مفتوحات اور مقبوضات کو ہمارے قبضہ میں رکھے گی بلکہ ہمارے خاندان کی عظمت اور وقعت کا باعث بھی ہوگی۔

رضیہ کی دانائی فراست، معاملہ فہمی، ذہانت کے آگے معاملات کی عقدہ کشائی کوئی حقیقت نہ رکھتی تھی اس کا حکمرانہ دماغ خود بخود چہانداری کی قابل تحسین صفتیں پیدا کرنا جانتا تھا۔ یہ مردانہ کھلے دربا میں آتی اور آزادانہ طور پر معاملات پر بحث کرتی۔ ان صفات کی بنا پر نہ صرف اس کا باپ التمش بلکہ عوام الناس بھی رضیہ کو اپنا آئندہ حکمراں سمجھتے تھے۔ پہلا کام رضیہ نے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد کیا وہ ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر تھی۔ رضیہ خود ایک اچھی نقشہ نویس تھی ایک مسجد کا نقشہ بنا کر باپ کی خدمت میں پیش کیا اس نے اس کی تعمیر کا انتظام رضیہ کے سپرد کیا۔

باپ کی عدم موجودگی میں رضیہ تاج شاہی سر پر رکھ کر تخت پر جلوہ افروز ہوتی اور دستور کے مطابق کل دس دست بستہ حاضر خدمت ہوتے۔ قدرتی طور پر اس کا رعب اہل دربار پر اس قدر تھا کہ اس کا چہرہ آنکھ بھر کوئی نہ دیکھ سکتا تھا۔ رضیہ نے حکومت کی باگ ڈور سنبھالتے ہی سب سے پہلے نوج پھر خزانہ، رسد اور ڈاک وغیرہ کا نہایت معقول انتظام کیا۔

مگر ارباب سلطنت ملک کوئی وغیرہ نے اس کے خلاف سازشیں کیں اور قتل ہوئے مگر فتنہ بڑھتا رہا۔ آخر میں ملک اعز الدین حاکم لاہور نے

بغاوت کی۔ ملک التونیہ بھی مخالفت ہو گیا۔ بھنڈہ پر محرکہ ہوا۔ یہ گرفتار ہوئی اور قلعہ بھنڈہ چلی آئی۔ اس نے ملک التونیہ سے عقد کر لیا۔ پھر دؤ نے ملک اعز الدین سے مقابلہ کیا۔ پھر بھی ہر دؤ ناکام ہوئے۔ رضیہ ایک کسان کے کھیت میں روپوش ہوئی سوتے میں اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ربیع الآخر ۶۳۷ھ کا ہے۔ دہلی کے محلہ بلیلی خانہ میں مزار ہے۔ راقم سطور نے مفصل سوانح عمری رضیہ سلطانیہ لکھو دی جو کتاب گہر دہلی سے ۱۹۱۷ء میں شائع ہوئی ہے۔

بی بی صالحہ

بی بی صالحہ بنت شیخ نظام الدین اللہویہ رضوی خیر آبادی جو اولیائے کبار سے تھے۔

یہ اپنے عہد کی عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ باپ سے عربی کی تعلیم پائی۔ حضرت شیخ آدم دانشمندین مجدد گوپاموی سے منسوب ہوئیں۔ ان سے مخدوم شیخ عیسیٰ اور دو دختر تھیں۔ ایک کا نام عابدہ تھا۔ شیخ عیسیٰ نے اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش میں نشوونما پائی اور عظیم المرتبت عالم ہوئے یہ خاتون تہجد گزار تھیں۔

آپ کے شوہر افتاد کے عہدہ پر سرفراز تھے اور معقول زمینداری تھی۔ چند خادمہ بھی تھیں۔ مگر خود یہ بی بی چکی پستی، شوہر اور اولاد کے لئے کھانا پکاتیں۔ ذکر و فکر میں مشغول رہتیں۔ مسجد خیر البقا گوپامو کے صحن میں آپ کا مزار ہے۔

حضرت بی بی عابدہ

حضرت بی بی عابدہ بنت شیخ آدم سہروردی مال اور باب کے علاوہ اپنے نانا شیخ الشدویہ رضوی خیر آبادی سے فیوض و برکات حاصل کئے آپ صاحب ریاضت تقیہ جس کی شہرت دور دور تک تھی۔ حضرت بندگی نظام الدین عثمانی امیٹیوی ۹۳۷ھ کو پاموٹشریف لائے تو حضرت شیخ آدم دانشمند سہروردی کی دختر بی بی حضرت عابدہ کو جلالہ عقداکح میں لائے۔ ان بی بی کی اطاعت گزاری سے بندگی میاں ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ کی پہلی بیوی مخدومہ جہاں کو ناگوار گزرا اور اپنے والد حضرت مخدوم خاصہ خدا نما کے مزار پر جا کر آہ و بیکاری۔ اس کی تفصیل ملا شیخ احمد عرف ملا جیون امیٹیوی مناقب الاولیاء میں یہ لکھتے ہیں کہ نقل است کہ چونکہ وفات حضرت مخدوم خاصہ خدا نما قدس سرہ حضرت بندگی میاں درگو پاموٹ نکاح دیگر کر دئے۔ اس قبہ آنحضرت بی بی مخدومہ جہاں رسیدہ حضرت بی بعد از شنیدہ اس سخن یکمال تنگ بر خاستند و بر قبر پدر بزرگوار خود ہر دو دست خود زدہ ہمدان از قبر آواز کشادہ کہ یہ میگونی۔

غرض کہ بی بی صاحبہ نے اس شادی کی شکایت کی۔ مخدوم خاصہ نے کہا۔ خاطر جمع رکھو تم ہی رہو گی۔ چنانچہ بی بی عابدہ وضع حمل کے سلسلہ میں وفات پا گئیں۔ اس کا صدمہ حضرت بندگی کو بہت ہوا اور گو پامو کو خیر باد کہہ کر امیٹیوی تشریف لے آئے۔

(ملفوظات بندگی)

ملکہ حیات بخشہ سلیم

بنت سلطان محمد قلی والی دکن اپنے اخلاق و عادات و فہم و تدبیر میں مشہور خاتون تھیں۔ سلطان محمد قطب شاہ سے منسوب ہوئیں شاہیوں نے سلطنت قطب شاہی پر تصرف کرنا چاہا۔ یہی وہ خاتون ہے جس نے اپنے حسن تدبیر سے ملک کو بچالیا۔ اس نے رفاہ عام کے کام بھی بہت سے انجام دیئے ان کی سوانح عمری مولوی نصیر الدین ہاشمی نے لکھی ہے۔ سب رس کتاب گھر نے شائع کی ہے۔

نواب زینت محل

بنت نواب محمد علی قلی۔ نواب کے دادا احمد شاہ ابدالی کے رئیس الوری تھے۔ نواب نے زینت محل کو اعلیٰ تعلیم دلائی تھی۔ اس وقت کی خواتین میں صورت اور سیرت میں امتیازی درجہ رکھتی تھیں۔ ابو ظفر بہادر شاہ کے جہالہ نکاح میں آکر ملکہ عالم بنیں۔ ان کے بطن سے شہزادہ جوان بخت تھے۔ مرزا فرخزاد کے بعد ان کو باو شاہ ^{سعد} سے کرنا چاہتے تھے مگر ایٹک انڈیا کمپنی نے منظور نہیں کیا۔ اور مرزا قوش ابن بہادر شاہ کو اپنی طرف سے چند شرائط کے ساتھ دلی عہد مقرر کیا کہ قلعہ دلی کو چھڑ کر دوسری جگہ رہیں گے اور پندرہ ہزار روپیہ ماہوار

عزیزن بی بی

عزیزن بعض نے عظیمین اس خاتون کا نام تحریر کیا ہے۔ کانپور
 وطن تھا۔ بچپن میں ایک بردہ فروش لے آیا۔ اور ایک طوائف کے
 ہاتھ فروخت کر دیا۔ مگر یہ کسی اچھے گھرانہ کی بچی تھی۔ گانا اور ناچنا
 سیکھا۔ مگر عصمت فروش نہ بنی۔ نانا راڈ پشوا کے یہاں رفاہ مقرر
 ہوئی وہ اس خاتون کی پاک بازی کی بڑی قدر کرتا تھا۔ ۱۸۵۷ء کے
 انقلاب میں اس خاتون نے بڑے کارنامے انجام دیئے۔ کانپور
 جہاد کا جھنڈا اس خاتون نے بلند کیا۔

اس سواری میں طاق تھی۔ تیغ زنی میں اپنا جواب نہ رکھتی
 تھی۔ انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئی۔

نوٹ:- رضیہ سلطانیہ کا حال ضمیر میں اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ
 کے وقت ذکر رہ گیا۔ اس کے علاوہ چند خواتین کے اور تذکرہ بھی اس میں
 شامل کر دیئے گئے ہیں۔

انتظام اللہ

خواتین اسلام

جامع

مفتی انتظام اللہ شہابی

ناشر

مدنیہ پبلشنگ کمپنی مشہور محل میٹرو ڈرووڈ کراچی
(مشہور پریس کراچی)